

# کلام الحق محفوظاً

نام کتاب	..... مناقب اہل بیتؑ حصہ اول
مولف	..... آیت اللہ سید احمد مستنبط قدس سرہ
مترجم	..... حجتہ الاسلام مولانا ناظم رضا عترتی
اہتمام	..... مولانا ریاض حسین جعفری (فاضل قم)
ناشر	..... ادارہ منہاج الصالحین لاہور
پروف ریڈنگ	..... مولانا آزاد حسین
ہدیہ	..... 165 روپے

ملنے کا پتہ

## ادارہ منہاج الصالحین

الحمد مارکیٹ، فرسٹ فلور، دوکان نمبر 20  
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔ فون: 7225252

# فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
85	معیار معرفت	5	دریائے نور سے ایک قطرہ
85	معرفت الہی کے خزانہ دار	7	پیش عرض
86	اسباب راحت	24	مقدمہ مولف
87	اہل بیتؑ پر درود	34	فراہ اور شیعہ ایمان علیؑ
87	پھر وہ جنت میں جائے گا	35	دشمنان آل محمدؐ کون؟
88	شفاعت رسولؐ	40	زمین باقی نہ رہے
89	ایک دن کی محبت	40	دشمنی اور محبت
90	ہل صراط	41	نعمت الہی
90	آل محمدؐ کی محبت کے فوائد	41	انتقام اور فضل و کرم
90	چنے ہوئے	41	رضایت الہی
91	نوری فرشتہ	42	دلوں پر تالے
92	فرشتوں کا فخر کرنا	73	پہلا باب
93	طور سینا پر نور الہی	73	روایات پیغمبر اکرمؐ
96	شب معراج	73	اخلاص
97	محاسبہ نفس	74	اقرار معبودیت
99	نورانی چہرہ	75	علیؑ دوسرے انبیاء سے افضل
99	نبیوں میں افضل کون	75	اگر آل محمدؐ نہ ہوتے
101	ہل صراط اور محبت	76	آدمؑ کو سجدہ کیوں؟
101	حوض کوثر کا سردار	81	بے امید لوگ



142	ابوطالبؑ اور پیغمبرؐ	102	ہندوستان میں ایک درخت
144	حضورؐ کے اسماء مبارکہ	102	کشتی پر سواری
146	نام محمدؐ رکھا ہے	105	ناہی لوگ کون؟
147	ایک نیکی ہے	110	ایک شخص اور آگ
147	یوسفؑ اور زلیخا	112	ایک چرواہا
148	نور ایک ٹکڑا	121	محبت اہل بیتؑ کی راہنمائی
148	اولاد آدمؑ کا سردار	122	نجات نوع
148	ورہ اور درخت	124	ہادی کی ضرورت
149	بستر بیماری	124	وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔
152	محمدؐ و آل محمدؑ پر درود	125	متقی مومن
153	آدمؑ کی توبہ	125	اسلام ایک برہنہ بدن
153	کثرت سے درود	126	ذکر علیؑ عبادت ہے
154	درود کی عظمت	127	ابلیس اور سات آسمان
155	فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں	133	خلقت عقل
155	درود ایک وزنی عبادت ہے	133	تربیت علیؑ
155	ہاواز بلند درود پڑھنا	133	سریانی زبان
156	درود کفارہ گناہ ہے	135	چہرے کی رنگت
157	باب عافیت	136	نور آل محمدؑ
158	درود بھیجنا	136	عالم ارواح
159	ایک انوکھا فرشتہ	137	بت گرے
160	آل محمدؑ پر درود	137	کھجور بطور صدقہ
161	درود اور مشکلات کا حل	138	سب سے افضل
165	نماز سے مراد آل محمدؑ پر درود	138	مصطفیٰؐ سب سے افضل
166	یہودی اور درود	139	اسم اعظم
169	شدید عذاب	139	تمام انبیاء کا علم
170	درود رات کے وقت	140	امتحان
171	درود سب سے بہتر	141	تمام لوگوں کے لیے

221	علیٰ فضائل کا مجموعہ	175	دوسرا حصہ
222	مقام علیٰ	175	علیٰ کے چہرے کا بوسہ
225	بہشت میں ستون	176	وجود مثالی
226	اسرار الہی	177	جن کبھی بن گیا
229	علیٰ کی ولایت اور کھوپڑی	178	جوان سے پناہ
237	علیٰ چمکتا ہوا سورج	179	علیٰ کا پانی پینا
240	فرشتوں کا استغفار کرنا	180	وہ انبیاء کے ساتھ مشور ہے
243	علیٰ یابی کے اوپر چلنے لگے	182	محبت علیٰ اور ملائکہ
247	علیٰ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے	184	ہیعیان علیٰ کی دس خوبیاں
251	شیعہ تاریکی میں چراغ	185	دشمن علیٰ اور سانپ
257	شیعوں کے گناہ معاف	186	علیٰ درخشاں امام
263	فاطمہؑ سب سے افضل ہیں	192	وہ امیر المومنین ہیں
267	شب معراج اور لہجہ علیٰ	193	علیٰ اور سانپ
270	علیٰ کے شیعہ سب جنتی ہیں	194	علیٰ کو گالیاں دینے والے
285	آسمان پر گفتگو	196	معرفت علیٰ اور نورانیت
287	علیٰ کا یہودی دوست	207	مجھے علیٰ محبوب ہے
292	جہنم کے کنارے	208	اے رسول!
297	علیٰ کی محبت جنت کی کنجی ہے	209	اہل بیت کے امور میں شک
299	علیٰ اور بتوں کا نکاح	210	وہ میرے ساتھ ہوگا
310	درخت پر علیٰ لکھنا	212	ولایت علیٰ
314	بہشت میں محل	213	جنت میں داخل کر دے گا
318	علیٰ کی سورج سے گفتگو	214	باپ جنت سے نکلا
328	آدمؑ سے پہلے علیٰ کی خلقت	215	آپؐ کی محبت نے
331	جنت عدن اور ہیعیان علیٰ	217	علیٰ کو کندھوں پر سوار کیوں کیا؟
426	نواسہ رسول	218	چوبیس چہروں والا فرشتہ
426	گلے کے بوسے	219	امام مبین کون؟
427	زائرین کے لیے دعا	220	علیٰ سورۃ توحید کی طرح

## دریائے نور سے ایک قطرہ

پچھلے سفر میں جب میں غریب طوس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر دست بوسی کے لیے گیا، زیارت کے آداب بجالانے کے بعد میں علم و اجتہاد کے شہر قم میں حضرت معصومہ قمؑ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ زیارت کے بعد علماء اعلام، مجتہدین کرام اور نابغہ شخصیات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مشہور عالم آیت اللہ العظمیٰ سید صادق الشیرازی مدظلہ العالی سے ملاقات کی۔ آپ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شید محمد الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر خورد ہیں۔ خانوادہ شیرازی کا ہر فرد اخلاص کا مرقع نظر آتا ہے، اور ان کے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر فرد کے چہرے پر وجاہت اور خاندانی جاہ و چشم نظر آتا ہے۔ آیت اللہ صادق الشیرازی نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جعفری صاحب آپ کو اپنے مدرسہ جامعہ زہنیہ کی طالبات کو علوم مناظرہ سے آشنا کرنا چاہیے اور ان کو اس علم کی تمرین کراتے رہنا چاہیے تاکہ وہ مستورات کو فکر آل اطہار کے قریب کر سکیں۔ آیت اللہ ایک جہاندیدہ، فہمیدہ اور سنجیدہ انسان ہیں۔ بیسیوں لوگ روزانہ پوری دنیا سے کشاں کشاں ان کی دست بوسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی عظمت و اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن میں نے ان کے اس نظریہ سے جزوی طور پر اختلاف کرتے ہوئے عرض کیا کہ قبلہ میرے خیال میں مملکت پاکستان میں ہم شیعہ سنی عرصہ دراز سے مل جل کر رہ رہے ہیں۔ آپس میں بیاہ شادی میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ ہماری آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ لوگوں کے اندر محبت اہل بیتؑ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ برادران اہل سنت اہل بیتؑ اطہار سے محبت کرتے ہیں، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم ان تک صحیح معنوں میں مناقب کے باب کو ادا نہیں کر سکے۔ اور لوگوں کو فضائل آل اطہار کے باب سے روشناس نہیں کر سکے۔ ہمارا علمی، تحقیقی اور قلمی کام اردو زبان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ علماء کرام تصنیف و تالیف اور تحریر و تحقیق کے



میدان میں قدم رکھنے سے گریزاں ہیں، اور ہماری عوام مطالعہ کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے ادارے مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ کوئی کسی کا بازو پکڑ کر راہ دکھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ ساری خوبیاں مرحوم ابوذر زمان حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ اللہ مقامہ اپنے ساتھ اپنے روضہ مبارکہ میں لے کر حوران جنت کے جہر مٹ میں گہری نیند سو گئے ہیں۔ ملت یتیم ہو چکی ہے۔ جناب آقا شے شیرازی میری دانست میں ہمیں فضائل اہل بیتؑ کے درخشندہ باب کو کھولنا چاہیے، اور ہر زاویہ سے کام کرنا چاہیے، تاکہ ہماری سادہ لوح عوام کو پتہ چلے کہ یہ ذریت رسول، خانوادہ عصمت و طہارت کس عظمت و رفعت کی مالک ہستیاں ہیں۔ ان کا کتنا مقام بلند ہے۔ پروردگار عالم نے ان کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا ہے، اور رسول اعظم نے ان کے فضائل و مناقب کو کس قدر بیان فرمایا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ خاندان رسولؐ کی ہر جہت سے فضیلت بیان کریں۔ آیت اللہ نے ہماری اس سوچ کی تائید کی، اور آپ نے ہمارے لیے دست دعا بلند کیے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی مشہور زمن کتاب ”مدینۃ المعجز“ کا ترجمہ معجزات آل محمدؐ چہار جلد میں ہے، اور اب ہم نے آیت اللہ سید احمد مستطی کی مشہور کتاب ”القطرة من بحار مناقب النبی والعترة“ کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ یہ دو جلدوں پر محیط ہے، جو نہایت ضخیم ہے، لہذا ہم نے اس کے چار حصے کیے ہیں۔ پہلے دو حصوں کا ترجمہ ہمارے دوست جتہ الاسلام علامہ ناظم عترتی صاحب نے کیے ہیں، ہمارے ساتھ اس کتاب کی ٹوک پلک سنوارنے کے لیے جتہ الاسلام مولانا آزاد حسین صاحب نے مدد کی ہے۔

پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

طالب دعا!

ریاض حسین جعفری (فاضل قم)

سربراہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور



## پیش عرض

### معرفت اہل بیتؑ اور اس کے زندگی پر اثرات

تمام تعریفیں خاص ہیں اس خدا کے لئے جس نے حمد کو اپنی کتاب کا سرنامہ، اپنی بخشش و عطا کا سبب اور اپنی نعمتوں، نوازشوں اور انعام و اکرام کی بارانِ رحمت کے لئے بہانہ بنایا اور عظمتوں پر راہنما قرار دیا۔ ختم نہ ہونے والے درود و سلام ہوں اس شریف ترین معراجِ انسانیت پر فائز خدا کے بندے، اس کی کامل ترین ہستی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰؐ اور اس کے طاہر و طیب، اعلیٰ و ارفع خاندان پر اور خاص طور پر ان کی آخری یادگار اور خدا کی حجتوں میں سے آخری حجتہ ابنِ الحسن ارواحِ سالہ لقا پر جو کوئی بھی حضرت رسول اکرمؐ کی عظیم شخصیت اور ان کے اہل بیتؑ کی معرفت حاصل کر لے اور ان کے علوم و معارف کے دریا میں غوطہ زن ہو اور ان کی قدرت و ولایت کے متعلق غور و فکر کرے تو وہ ایک عظیم کامیابی اور ابدی سعادت پالے گا اور تمام خوبیوں سے سرفراز ہوگا۔

اس مذکورہ مفہوم کے متعلق رسول گرامی قدر نے وضاحت فرمائی ہے کہ آپؐ نے ارشاد

فرمایا:

”مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَةِ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَا يَتَّهِمُ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الْخَيْرَ كُلَّهُ  
”جس شخص پر خدا نے احسان فرمایا ہو“ اسے میری اہل بیت کی معرفت اور  
ولایت عطا کی ہو گویا کہ خدا نے تمام خوبیاں اس کے لئے جمع کر دی ہیں“

اعمال کی ابتداء اور انتہا خدا کی ان ہستیوں کی معرفت سے عبارت ہے اس طور پر کہ تمام اعمال تھوڑے ہوں یا زیادہ، آسان ہوں یا مشکل، کسی بھی مرتبہ کے کیوں نہ ہوں اور جس سے بھی انجام پائیں، ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے عقیدہ کے ساتھ شروع ہوں اور انہیں کے عقیدہ کے ساتھ ختم ہوں۔ یعنی کسی انسان کے اعمال و عبادات اسی وقت شرف قبولیت پائیں گے جب وہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محکم عقیدہ رکھتا ہو اور ان کی ولایت کو تسلیم کرتا ہو۔

بہت سی روایات اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات میں سے ایک وہ روایت ہے جسے شیخ طوسی نے اپنی کتاب ”امالی“ میں نقل کیا ہے۔

ذرحہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول! معرفت الہی کے بعد کونسا عمل افضل ترین ہے؟

حضرت نے فرمایا:

معرفت خدا کے بعد کوئی عمل بھی نماز کے ہم پلہ نہیں ہے اول ذکر کے بعد کوئی بھی عمل زکاۃ کے ہم پلہ نہیں۔ ان اعمال کے بعد کوئی عمل بھی روزہ کے برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد سب عملوں سے حج افضل عمل ہے۔

وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتنا

”مذکور سبھی اعمال کی ابتداء اور انتہا ہماری ہی معرفت ہے“

(امالی طوسی، ص: ۶۹۳)

معرفت ایک اعتقادی مسئلہ ہے اور اس طرح کے مسائل عبادی اعمال کے لئے ایسے ہیں جیسے روح جسم کے لئے ہوتی ہے۔ نماز، زکاۃ اور دوسری عبادات، مسائل اعتقادی اور اصولی کی فرع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کے اعتقادات درست ہوں گے تو اس کی نماز اور دوسرے اعمال بھی درست ہوں گے، وگرنہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

جس طرح توحید اعمال کے درست ہونے کے لیے مشروط ہے اسی طرح رسالت کا اقرار اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کی ولایت پر اعتقاد رکھنا بھی عبادتوں کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا:

ان لا اله الا الله شروطاً واتى وذريتى من شروطها

”بے شک لا الہ الا اللہ کے لئے شرائط ہیں میں اور میری اولاد ان شرائط

میں سے ہیں“ (شرح غررالحکم: ۴۱۵/۲ حدیث: ۳۷۷۹)

حضرت امام رضا علیہ السلام نے بھی خود کو ایک حدیث میں توحید کی شرائط میں سے شمار کیا ہے۔ اس حدیث کو اسحاق بن راہویہ نے نقل کیا ہے:

حضرت رضا علیہ السلام مرو کے سفر کے دوران جب نیشاپور پہنچے اور شہر سے باہر جانے لگے تو محدثین نے حضرت کے ارد گرد اجتماع کیا اور عرض کیا:

اے رسول خدا کے بیٹے! آپ اس شہر سے جارہے ہیں کیا ہمارے لئے کوئی حدیث ارشاد فرمائیں گے کہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں؟

امام علیہ السلام کجاوہ میں فروکش تھے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا:

میں نے اپنے باپ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام سے سنا ہے انہوں نے اپنے باپ امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے باپ باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے باپ امام سجاد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے باپ امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے باپ امیر المؤمنین سے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل سے اور انہوں نے ذات پروردگار سے سنا ہے:

لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابي

”کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، پس جو کوئی بھی میرے اس قلعہ میں داخل

ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ و مامون ہو گیا“

جونہی حضرت کی سواری ذرا آگے بڑھی تو آپ نے با آواز بلند فرمایا:

بشروطها وانا من شروطها

”البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں اس کی شرائط میں سے ہوں“

(التوحيد: صفحہ ۲۵: حدیث ۲۳ بشارۃ المصطفیٰ: صفحہ نمبر ۲۶۹)

اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام امور الہی الہی بیت علیہم السلام کی طرف وحی کئے گئے ہیں اور ان کے وسیلہ سے مخلوق تک پہنچتے ہیں۔

ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں عرض کرتے ہیں:

ارادة الرب في مقادير أموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم

”خدا کا ارادہ اس کے امور کے مقدرات میں آپ کی طرف آتا ہے اور آپ

کے مبارک گھروں سے باہر جاتا ہے“ (بحار الانوار: ۱۰۱/۱۳۵)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پاک ہستیوں کے دل خدا کی مشیتوں کا ٹھکانا ہے۔ جب خدا کسی چیز کو چاہتا ہے تو یہ چاہتے ہیں اور ان کی خاطر خدا اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے بلائیں دور کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

ان لله عز وجل خلقاً من رحمته ، خلقهم من نوره ورحمته من

رحمته لرحمته فهم عين الله الناظرة و اذنه السامعة ولسانه الناطق

في خلقه باذنه وأمنأوه على ما انزل من عذر او نذر او حجة فيهم

يمحو السيات وبهم يدفع الضيم وبهم ينزل الرحمة وبهم يحيى

ميتا وبهم يميت حيا وبهم يتلى خلقه وبهم يقضى في خلقه قضيته

”اللہ رب العزت نے مخلوق کو اپنے نور اور رحمت سے خلق کیا ہے، تاکہ اس کی

رحمت کو ظاہر کریں، وہ خدا کی دیکھتی ہوئی آنکھیں، سنتے ہوئے کان اور لوگوں

کے درمیان بولتی ہوئی زبان ہے۔ وہ اس کے امین ہیں، اس پر جو اس کی طرف

سے ان پر عذر، ڈر اور دلیل نازل ہوئی ہے ان کی خاطر اپنے بندوں کے گناہ

معاف کرتا ہے، ظلم کو دور کرتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان کی وجہ سے

مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے اور انہیں کے وسیلہ سے اپنی مخلوق کا



امتحان لیتا ہے۔ اور اپنے امور کو جاری کرتا ہے۔“

راوی نے عرض کیا: میں آپ پر خدا ہو جاؤں وہ کون ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: اوصیاء (التوحید: صفحہ ۱۶، حدیث نمبر ۱)

کیا ہمارے اماموں کے سوا کوئی اور اوصیاء ہیں جن کے بارے میں رسول خداؐ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کی معرفت حاصل کریں؟ اور جو کوئی بھی مر گیا اور اپنے امام کو نہ پہچانا تو اس کی موت حالت کفر کی موت ہے۔ اور انکار کی موت ہے اور بہت سی حدیثوں میں فرمایا ہے:

من مات وهو لا يعرف امامه مات ميتة الجاهلية

”جو کوئی مر گیا اور اپنے امام کی معرفت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا“

(بحار الانوار: ج ۲۳/ص ۷۶، الاحقاق: ج ۱۳/ص ۸۶)

علامہ ابنی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے جو صحاح ستہ اور اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ جسے قبول کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور کسی کا اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا تا وقتہ اپنے آپ کو اس حقیقت کے مطابق نہ ڈھال لے۔ اس ضمن میں دو اشخاص آپس میں اختلاف نہیں رکھتے اور کسی نے بھی اس کے متعلق شک نہیں کیا۔ اور یہ تعبیر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی بھی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی عاقبت بد ہو گئی، اور وہ ہر قسم کی سعادت، خوش بختی اور کامیابی سے دور ہوگا، کیونکہ جاہلیت کی موت، موت کی بدترین قسم ہے۔ (القدیر: ج ۱/ص ۳۶۰)

پس اس دلیل کو امام باقرؑ کی روایت سے فضیل نے نقل کیا ہے۔ آنحضرتؐ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور فرمایا:

جاہلیت کے زمانے میں بھی اس طرح طواف کرتے تھے۔ البتہ لوگوں پر واجب ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ پھر حضرتؐ نے ہماری طرف رخ انور کیا اور اپنی محبت و ولایت کا ہماری نسبت اظہار کیا اور اپنی نصرت و مدد کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اس آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی:

فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ . (سورہ ابراہیم: آیت: ۳۷)

”پس لوگوں کے دلوں کو اس طرح قرار دے کہ ان کی طرف مائل ہوں“

(الکافی: ج ۱/ ص ۳۹۲: حدیث نمبر ۱)

پس اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی انبیاء کی طرح ہو اور تمہاری موت شہداء جیسی ہو تو ولایت اہل بیت علیہم السلام کو قبول کرو اور اپنے عمل و رفتار زندگی میں ان کی پیروی کرو تاکہ جو تمہیں پسند ہے وہ دیکھ سکو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے متعلق رسول اکرمؐ نے وضاحت فرمائی ہے۔

من احب ان يحيى حياة تشبه حياة الانبياء ويموت ميتة تشبه ميتة الشهداء ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن فليتلو علناً ونبواً وليه وليقتد بالائمة من بعده فانهم عترتي خلقتوا من طينتي اللهم ارزقهم فهمي وعلمي، وويل للمخالفين لهم من امتي اللهم لا تنلهم شفاعتي. (الکافی: ۱/ ۲۰۸ حدیث نمبر ۳)

”جو کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء جیسی زندگی گزارے اور شہداء جیسی موت آئے اور جنت میں اس کا ٹھکانا ہو جسے مہربان خدا نے بنایا ہے، اسے چاہیے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کی ولایت کو قبول کر لے اور ان کے بعد جو امام ہیں ان کی اقتداء کر لے وہ سب میری عترت ہیں اور میری طینت سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اے پروردگار! میرا فہم اور علم ان کو عطا کر۔ پھر ارشاد فرمایا: اس شخص کے لئے ہلاکت ہو جو ان کی مخالفت کرے۔ اے خدا! ایسے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ فرما“

اگر چاہتے ہو کہ خاندان رسالت کے فضائل اور کمالات کی معرفت حاصل کرو، تو ان کے نصیحت آمیز کاموں میں دقت کرو، بلکہ ان کے شیعیان ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، داؤدؑ اور سلمانؑ کے کاموں میں غور کرو، بلکہ حضرت سلمانؑ کے وحی آصف بن برخیا کے علم و قدرت کے متعلق بھی غور

فکر کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح طبیعت میں تصرف رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس صرف کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ پوری کتاب کا ان کو علم نہیں دیا گیا تھا۔

قرآن کریم اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٍّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيُبْلُوَنِي أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. (سورہ نمل: آیت نمبر ۳۸-۴۰)

”حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا: کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے قبل حاضر کر دے“ عفریت جن نے کہا: میں اسے لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں۔ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امین ہوں۔ وہ شخص جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا: میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کرنے پر قادر ہوں۔ جب اس نے ایسا کیا اور سلمان علیہ السلام نے تخت کا مشاہدہ کیا تو کہا: یہ خدا کا فضل و کرم ہے، تاکہ وہ ہمارا امتحان لے کہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا انکار۔ جو کوئی شکر کرے اس نے اپنے لئے شکر کیا ہے اور جو کوئی انکار کرے تو میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے“

آصف بن برخیا کی اس بات میں کہ (انا اتیک بہ) ”میں اس کو لے آؤں گا“ ایک اہم نکتہ موجود ہے جو وہابیت اور ان کے جاہل پیروکاروں کے عقیدہ کی نفی ہے۔ ہم ایسے اشخاص کے لئے جو ولایت کے مسائل کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں وضاحت کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے آصف بن برخیا پر احسان فرمایا اور انہیں اپنے اسماء میں سے ایک اسم کی



تعلیم دی۔ اس اسمِ اعظم کے توسط سے زمان و مکان میں تصرف کرنے کی قدرت و طاقت پیدا کر لی اور بلیقہس کے تخت کو مملکتِ سبا سے فارس تک لے آیا، حالانکہ ان دو مقامات کے درمیان ۵۰۰ فرسخ کا فاصلہ تھا اور یہ خدا کا ان پر ایک عظیم فضل و کرم تھا۔ اور آصف نے اس عطا شدہ قدرت و طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہا تو سلمانؑ سے کہا: ”میں اس کو لے آؤں گا“ یہ نہیں کہا میں اسے باذنِ خدا لے آؤں گا“

اس آیت کریمہ سے مشکف ہوتا ہے کہ جب خدا اپنے انبیاء اور اولیاء کو قدرت و ولایت عطا کرتا ہے تو ان پر واجب نہیں ہے کہ اظہارِ قدرت پر کہیں کہ ہم اس کام کو اذنِ خدا سے انجام دے رہے ہیں، اسی طرح ہم پر بھی واجب نہیں ہے کہ جب ہم اولیاء سے متوسل ہوں تو یہ کہیں کہ ہماری حاجت کو پورا فرمادیتے خدا کے اذن سے۔ جیسا کہ آپ نے آصف بن برخیا کی حضرت سلمانؑ کے ساتھ گفتگو کو ملاحظہ فرمایا، جب کہ آصف کا علم اور قدرت آئمہ علیہم السلام کے علم و قدرت کے مقابلہ میں دریا کے سامنے قطرہ کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی کمتر ہے کیونکہ آئمہ کے پاس تمام کتاب کا علم ہے۔

عبدالرحمان بن کثیر امام صادق علیہ السلام سے آیہ شریفہ

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ  
طَرَفُكَ. (سورہ نمل: آیت نمبر ۴۰)

میں نقل کرتے ہیں کہ حضرتؑ نے اپنی انگلیوں کو کھولا اور اپنے مبارک سینہ پر رکھا اور فرمایا:

وَعِنْدَنَا وَاللَّهِ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ. (الکافی: ج ۱/ ص ۲۲۹ حدیث ۵)

”خدا کی قسم ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے“

اس مطلب کو بیان کرنے والی بہت سی روایات ہیں۔ اصح بن نباتہ کی روایت کی طرف

متوجہ ہوں۔

اصح لکھتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا: اے میرے آقا! آپ

سے ایک مطلب پوچھنا چاہتا ہوں جس کے متعلق مجھے یقین ہے اور وہ رازوں میں سے ایک راز



ہے اور آپ اس سے واقف ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

اے اصحٰ! کیا تم چاہتے ہو کہ رسول اکرمؐ کی حضرت ابو بکر کے ساتھ مسجد قبا کی گفتگو مشاہدہ کرو۔

اصحٰ نے عرض کیا: جی یا حضرت یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے ارادہ کیا ہے۔  
 آپؐ نے فرمایا: اٹھو میں نے اچانک اپنے آپ کو کوفہ میں پایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے  
 میں نے مسجد کو دیکھا۔ حضرت مجھے دیکھ کر مسکرائے اور پھر فرمایا خدا نے ہوا کو سلمان بن داؤد کے  
 لئے مسخر کیا۔

غُلُوْهَا شَهْرًا وَ رَآحَهَا شَهْرًا (سورہ سہاء: آیت نمبر ۱۲)

”اور سلمانؑ کو جو کچھ عطا کیا مجھے اس سے کہیں زیادہ عطا کیا“

اس نے عرض کیا: خدا کی قسم! برحق ہے ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد حضرتؐ نے فرمایا:

نحن الذين عندنا علم الكتاب وبيان ما فيه وليس عند احد من خلقه  
 ما عندنا لانه اهل سر الله

”کتاب کا علم اور اس کا بیان ہمارے پاس ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس

کی مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم سرالٰہی بھی رکھنے والے ہیں“

پھر فرمایا: ہم پروردگار عالم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور رسول خداؐ کے وارث ہیں۔

فرمایا: اندر داخل ہو جاؤ۔ پس میں مسجد میں داخل ہو گیا، اچانک میں نے پیغمبر اکرمؐ کو

مسجد کے محراب میں دیکھا کہ اوپر چادر لپیٹے ہوئے تھے۔ اسی دوران امیر المؤمنین علیؑ علیہ السلام کو

دیکھا جنہوں نے ایک بڑے صحابی کے گریبان کو پکڑا ہوا تھا۔ پیغمبرؐ اس وقت در حال انکھ اپنی انگلی

دانتوں میں لیے ہوئے تھے۔ فرمایا تو اور تیرے اصحاب میرے بعد بدترین لوگوں میں سے تھے۔

تم پر خدا اور میری طرف سے لعنت ہو۔

(بخاری الاثر: ج ۴/ص ۱۱۸۳ اس کے علاوہ کتاب مناقب آل ابی طالب ج ۴/ص ۵۲)

اس واقعہ سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خاندان وحی علیہ السلام اس ولایت کے سبب

جوان کے پاس تھی آسمانوں اور زمینوں میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔

امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا:

اس ذات کے حق کی قسم! جس نے دانے کو چیرا اور مخلوق کو پیدا کیا۔ میرے پاس آسمانوں اور زمینوں کے متعلق وہ اختیار اور قدرت ہے کہ تم اس کے جاننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ خدا کے اسم اعظم ۷۲ حروف ہیں۔ آصف بن برخیا ان میں سے صرف ایک کے متعلق علم رکھتا تھا۔ اسی ایک حرف کی بناء پر تخت بلیقےں اور اس کے درمیان جو زمین تھی میں تصرف کیا وہاں گئے تخت کو اٹھایا زمین دوبارہ اپنی اصلی حالت پر چلی گئی اور یہ پورا عمل پلک جھپکنے سے پہلے انجام پایا۔

خدا کی قسم! تمام ۷۲ حروف کا علم ہمارے پاس ہے۔ ایک حرف ایسا ہے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور وہ خدا کے علم غیب میں پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی طاقت و قدرت نہیں رکھتا ہے مگر بزرگ و برتر خدا کے سبب سے جس نے ہماری معرفت حاصل کر لی اس نے ہمیں پہچان لیا اور جس نے ہماری پہچان نہ کی اس نے ہمارا انکار کیا۔ (بحار الانوار: ج ۲/۳۷، حدیث نمبر ۵)

امام صادق علیہ السلام ایک روایت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

ان الله جعل ولايتنا اهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب

عليها يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب ويستبين الايمان

(تفسیر عمیاشی: ج ۱/ص ۵)

”خدا نے ہماری ولایت کو قرآن اور تمام آسمانی کتابوں کا مدار قرار دیا ہے“

قرآن کی محکم آیات اس مدار کے ارد گرد چکر کاٹی ہیں اسی کی وجہ سے آسمانی

کتابوں کی آواز میں بلندی پیدا ہوئی اور ایمان ظاہر ہوا“

یہ تو وہ چیز ہے جو ان ہستیوں نے فرمائی ہے اور ظاہر کی ہے۔ رہی بات ان چیزوں کی جن کو ہم قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انہوں نے اسے چھپا دیا، اس کا علم خدا کے پاس ہے جو کچھ اپنے فضائل و کمالات انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ اتنی مقدار میں ہیں جن کو لوگ قبول کر سکتے تھے۔ اور ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد محکم حقیقتوں سے لوگوں کی راہنمائی کرنا۔ ان کو

صراطِ مستقیم پر چلانا اور بلند ترین مراتب تک پہنچانا ہے۔ علاوہ ازیں خود خدا نے فرمایا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو۔

قرآن میں بیان ہے کہ:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (سورۃ ضحیٰ: آیت ۱۱)

”اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو“

اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو یاد کرنا درحقیقت خدا کی عظیم ترین نعمتوں کی یاد کرنا ہے۔ اس مطلب کی تائید امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت کرتی ہے۔

آپؑ نے فرمایا: جنگ نہروان سے واپسی کے بعد لوگوں نے امیر المومنینؑ سے عرض کیا کہ معاویہ آپؑ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپؑ کے اصحاب کو قتل کر رہا ہے۔ آپؑ نے ایک خطبہ کے ضمن میں خدا کی حمد و ثناء، پیغمبر اکرمؐ پر درود و سلام اور خدا کی اپنے رسول پر نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد فرمایا: اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو جو میں کہہ رہا ہوں نہ کہتا: خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

اس کے بعد آپؑ نے فرمایا: اے پروردگار! تو اس لائق ہے کہ تیری حمد و ثناء کی جائے کیونکہ تیری نعمتیں ان گنت ہیں، اور تیرے اس فضل و کرم کی وجہ سے تجھے بھلایا نہیں جاسکتا۔

اے لوگو! مجھ تک تمہاری باتیں پہنچی ہیں۔ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ میری موت نزدیک ہے، شاید کہ تم میری عظمت سے جا مل ہو اور مجھے ابھی تک پہنچانا نہیں ہے۔ میں تمہارے درمیان وہی کچھ چھوڑے جا رہا ہوں جو رسول خداؐ چھوڑ گئے۔ جو کہ خدا کی کتاب اور میری عترت ہے، اور یہ عترت نجات کی طرف ہدایت کرنے والے خاتم الانبیاءؑ، نیکوں کے سردار اور رسول مصطفیٰ کی عترت ہے۔ (بشارۃ المصطفیٰ: ص ۱۲)

ہمارے اماموں نے اپنے فضائل کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اسی وجہ سے تھا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، ان کی فکریں کمزور ہیں اور عقلیں ناقص ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنے تمام فضائل بیان نہیں کئے کیونکہ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان حقائق کو برداشت کر سکیں



جب کہ حق کی بات وزن دار ہوتی ہے۔ اور جب قائم آل محمد علیہم السلام نے ظہور فرمائیں گے تو لوگ علم اور عقل کے لحاظ سے کامل ہو جائیں گے جیسے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے:

اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم

و کملت بها احلامهم (بحار الانوار: ج ۵۲/ص ۳۲۸ حدیث نمبر ۳۷)

”جب ہمارے قائم ظہور کریں گے تو آپ اپنا ہاتھ لوگوں کے سروں پر رکھیں گے جس کے سبب ان کی عقلیں اپنے اصلی مقام پر آ جائیں گی اور ان کی فکریں کامل ہو جائیں گی“

اس زمانے میں جب لوگوں پر ایسی مہربانی ہو جائے گی تو اس وقت لوگ پوشیدہ رازوں اور حقیقتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور انہیں قبول کرنے لگیں گے۔

امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

يا كميل: ما من علم الا وانا افتحه وما من سر الا والقائم يختمه

(بحار الانوار: ج ۷۷/ص ۲۶۹)

”اے کمیل! کوئی ایسا علم نہیں ہے مگر یہ کہ میں نے اس کا آغاز کیا ہے اور کوئی بھی ایسا راز نہیں ہے مگر یہ کہ حضرت قائم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا اختتام ہوگا“

جب حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداه ظاہر ہوں گے اور زمین کو اپنے نور سے منور کریں گے تو علوم و حقائق کو لوگوں کے درمیان رکھیں گے، کیونکہ وہ اپنی پر برکت حکومت میں جب اپنا دست شفقت لوگوں کے سروں پر رکھیں گے تو ان کی عقلیں اور فکریں اپنے اصلی مقام پر آ گئی ہوں گی اور ان کا شعور اور فہم مکمل ہو چکا ہوگا۔

پس جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اور جہاں تک ہماری رسائی ہے یہ کتاب ان ہستیوں کے فضائل و مناقب کے دریا میں سے ایک قطرہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کا کبھی انکار نہ کرنا اور نہ ہی ان سے خوف کھانا اور تعجب کرنا، اور خدا سے دعا کرو کہ خاندان وحی کے متعلق تمہاری معرفت کو



زیادہ فرمائے، کوشش میں رہو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کیونکہ قرآن فرماتا ہے:

إِنَّهُ لَا يَأْتِنُكَ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ  
 ”سوائے کافروں کے رحمت خدا سے کوئی مایوس نہیں ہوتا“

(سورۃ یوسف: آیہ ۸۷)

اپنے مولا آقا کہ جس کے تم اختیار میں ہو اور جو سب کائنات کا حاکم ہے اس سے ملتی ہو۔  
 يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَكْنَا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزَجَّمَةٍ فَأَوْفٍ لَنَا  
 الْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.

”اے کائنات کے عالم ہم خود اور ہمارے اہل و عیال بچارے ہو چکے ہیں اور  
 تھوڑے سے سرمایہ کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے  
 دامن کو بھردے اور ہم پر احسان فرما کیونکہ خدا نیکو کار لوگوں کو اچھی جزاء دیتا ہے“

(سورۃ یوسف: آیہ ۸۸)

اور جب تیرا مولا آقا معارف کو سمجھنے کے بارے میں تجھ پر احسان فرمائے گا تو اس  
 وقت تو اس چیز کا متحمل ہو جائے گا جس کا فرشتہ مقرب، نبی مرسل یا وہ بندہ متحمل ہوا ہے کہ جس  
 کے دل کا خدا ایمان کے لئے امتحان لے چکا ہے۔ (بصائر الدرجات: صفحہ ۲۱)

اور اہل بیت علیہم السلام کے اسرار اور رموز کو ان روایات سے سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہو جو  
 ہم تک پہنچی ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں اور تمہیں دریائے نور سے ایک ”قطرہ“ نصیب فرمائے۔

## مولف کتاب

کتاب کے مولف نجف اشرف کے مشہور علماء میں سے ہیں اور آپ امیر المومنین علی  
 علیہ السلام کے حرم مطہر میں امام جماعت تھے۔ علامہ متنبع حاج آقا بزرگ طہرانی مولف کے  
 حالات زندگی کے متعلق فرماتے ہیں:

سید احمد بن سید رضی بن سید احمد بن سید نصر اللہ بن سید حسین موسوی ساوجبندی ترمیزی  
 علماء اور مدرسین میں سے تھے۔ ان کے دادا بزرگوار سید حسین ساوجبندی کے رہنے والے تھے، اور وہاں

سے تہریز منتقل ہوئے۔ ان کی اولاد نے نسل در نسل اسی جگہ زندگی گزاری ہے اور ان میں سے بڑے صاحب علم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔

مرحوم مستطاب ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۵ھ شہر تہریز میں پیدا ہوئے اور اسی جگہ بڑے ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بعض بزرگوں سے حاصل کی۔ علامہ میرزا صادق تہریزی کے درس میں شرکت فرمائی، استاد میرزا محمد حسین نائینی، شیخ ضیاء الدین عراقی، میرزا علی ایروانی اور سید ابوالحسن اصفہانی کے درسوں میں بھی شریک ہوئے اور ان علماء میں سے کچھ کی علم فقہ میں تقاریر کو بھی لکھا۔ اور ان علماء میں سے بعض نے ان کو اجازہ بھی دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے شیخ عباس قمی مرحوم اور آقا بزرگ طہرانی سے روایت بھی نقل کی ہے۔

### مؤلف کی تالیفات اور تصنیفات

- (۱) القطرہ من بحار مناقب النبی والحرۃ، جس کو ۱۳۶۰ھ میں لکھا گیا۔
  - (۲) ”دلائل الحق فی اصول الدین“ یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل ہے، اور ۱۳۷۰ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔
  - (۳) ”ضیاء الصالحین والجمہدین“
  - (۴) ترجمہ کتاب ”سمیل الصالحین ونج السالکین“ تالیف علامہ سید حسن صدر، انہوں نے اس پر کچھ اضافہ بھی کیا۔
  - (۵) ”اوجز البیان“ یہ کتاب علامہ سید محمد کشمیری کی کتاب ارجوزہ در بیان اصول دین و ایمان کی شرح پر لکھی گئی۔
  - (۶) مکاسب پر تعلیقہ اور علامہ نائینی، علامہ حاج میرزا علی ایروانی، علامہ سید ابوالحسن اصفہانی کے دروس مرتب کیے۔ (نقباء البشر فی القرن الرابع عشر: ص ۱۰۰)
- بزرگ عالم دین شیخ ہادی امینی اپنی کتاب ”معجم رجال الفکر والادب فی الخلف“ میں مؤلف کے حالات زندگی کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ احمد بن سید رضی بن سید احمد جو ۱۳۲۵ھ میں پیدا ہوئے

اور ۱۳۹۹ھ میں وفات پائی، صاحب فضل علماء میں سے تھے۔ اور بلند مرتبہ مجتہد۔ صاحب تقویٰ و عبادت اور نیک سیرت انسان تھے۔ وہ فقہ و اصول کے اکابر اساتذہ میں سے تھے۔ ایک باہمت، انتہائی کوشش کرنے والے اور امام جماعت تھے۔ وہ تمریز میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم کے لئے وہاں کے مشہور ترین علماء سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے بعد ۱۳۳۲ھ کو نجف اشرف کی طرف کوچ کر گئے۔ اور علمی مراکز میں معروف ترین شخصیتوں کی بکلاسوں میں شرکت فرمائی اور میرزا محمد حسین نائینی، شیخ ضیاء الدین عراقی، میرزا علی امروانی اور سید ابوالحسن اصفہانی جیسے بزرگوں سے استفادہ کیا۔ نجف اشرف میں قیام کے دوران تالیف، تحقیق، عبادت اور نماز باجماعت قائم کرنے میں مشغول رہے۔ اور ہمیشہ پرہیزگاری، بلند ترین تقویٰ اور توفیقات عبادت سے موصوف رہے۔ آخر کار ۱۳۹۹ھ ق کو دعوت حق کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئے۔

آپ کے فرزندان ایک بلند مقام ادیب سید علی، ڈاکٹر سید محمد رضی، سید محمد حسین اور سید محمد علی ہیں۔

ان کی مذکورہ کتابوں کے علاوہ منظر عام پر آنے والی دیگر کتابوں کو ذکر کرتے ہیں۔

(۷) ”الرقا والاسی“ (مقتل امام حسین کے متعلق)

(۸) ”الزیارة والبشارة“ ۳ جلدیں

(۹) ”المناسک والمدارک“

(۱۰) ”مختب خاتم الرسائل باحسن الوسائل“ دو جلدیں (معجم رجال الفکر والادب فی الجف) خلا الف عام

## تالیف کتاب کے بعد مؤلف کے اہم ترین خواب

مؤلف کے بڑے اور بافضلیت بیٹے سید حاجی علی مستحب دام عزہ العالی نقل کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار خدا ان کے درجات کو بلند کرے، جب اس کتاب کے پہلے حصے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، اور ان کا سر



ان کی دادی فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کی گود میں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور عظمت کہ سردادی زہراء کی گود میں ہے۔ بڑا تعجب کیا اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں اور کون سے عمل نے ان کو اس بلند مقام تک پہنچایا ہے؟ جب اس سوال نے ان کے ذہن میں بالکل چپائی تو کائنات کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا نے ان کی طرف الہام کیا کہ یہ اس شخص کی جزا ہے جس نے کتاب القطرہ لکھی۔

کچھ ایسے مستبر اور قابل اطمینان اشخاص نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ مؤلف ان اشخاص میں سے تھے جو چالیس سال تک بوقت سحر امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہوا کرتے تھے، کیونکہ حرم مطہر کی چابی جس خادم کے پاس تھی وہ مؤلف مرحوم کو اپنے آپ پر مقدم کرتا اور چابی ان کو دے دیتا۔ مؤلف جب حرم کا دروازہ کھولتے تو اندر جا کر کچھ دیر کے لئے دروازے کو بند کر دیتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے زائرین کے لئے کھول دیتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس تھوڑی سی مدت میں طالب و مطلوب میں کونسی راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن ان کے ایک قریبی ساتھی نے مجھے بتایا کہ سحری کے اوقات میں، میں نے انہیں دیکھا کہ صریح مبارک کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور اپنی ریش مبارک سے گرد و غبار کو صاف کیا کرتے تھے اس کے بعد جب حرم مطہر کے دروازے کو کھول دیتے تو نماز صبح تک نماز تہجد اور عبادت میں مشغول رہتے، جب تک زندہ رہے یہ سلسلہ جاری رہا وہ تھا حرم مطہر حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں امام جماعت تھے، تمام عمر جمعہ کی راتوں کو ننگے پاؤں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو تشریف لے جاتے۔ صرف ان دنوں میں سواری استعمال کرتے جب ننگے پاؤں نہ جا سکتے، لیکن زیارت کو کبھی ترک نہ کیا۔ اور سید الشہداء کی زیارت کے آخری سفر میں خود اپنی وفات سے مطلع کیا، اپنے ایک دوست سے کہا یہ میری آخری زیارت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری سانسیں نجف اشرف میں آئیں۔ پس جس دن نجف اشرف واپس لوٹے تو اسی دن رحلت فرما گئے۔

”سعادۃ مندی سے زندگی بسر کی اور سعادۃ مندی سے دنیا سے چلے گئے“

وَلَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ  
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورۃ یونس: آیہ ۶۴)

”اور ان کے لئے دنیا میں (رحمانی خواب دیکھنے کے سبب) اور آخرت میں (خدا کے اولیاء اور اس کی نعمتوں کے دیکھنے کی وجہ سے خوش خبری ہے۔ خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی خدا کے دوستوں کے لئے ہے“

### کتاب القطرہ

مشہور و معروف کتاب ہے جو پیغمبر اکرمؐ اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں ہے۔ مؤلف نے اس کتاب کی تالیف میں بہت سی ہاتھ سے لکھی ہوئی قدیم و جدید کتب سے استفادہ کیا۔ مؤلف کے اپنے ذاتی کتب خانہ میں ہاتھ سے لکھی ہوئی گرانقدر کتابیں مثال کے طور پر ”سلیم بن قیس“ جیسی کتاب موجود تھی۔ اس جیسی کتابوں سے اور دوسری چھپی ہوئی قیمتی مثلاً بحار الانوار تالیف شدہ علامہ مجلسی سے استفادہ کیا۔

یہ کتاب شروع میں ایک ایسے نسخے کے طور پر منظر عام پر آئی جس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ اس کتاب کے پہلے حصے کی تحقیق جناب حمید الاسلام والمسلمین شیخ محمد ظریف نے کی اور انہوں نے دوسرے حصے کی تحقیق فاضل اور محقق جناب آقا محمد حسین رحیمیان کے ساتھ مل کر کی۔ چھپا ہوا نسخہ غلطیوں سے مبرا نہ تھا۔ اس لئے کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کے اصلی مسودہ کو دیکھ کر اصلاح کی جائے۔ اس کتاب میں جتنی آیات و احادیث ہیں ان کی اصل سندوں کو بھی نکالا اور کچھ مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کی، یہاں تک کہ موجودہ شکل میں کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اور انشاء اللہ ان کے لئے جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مفید ثابت ہوگی اور جو اس کے نور سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو نورانیت عطا کرے گی اور حمد و ثناء خاص ہے اس ذات کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ (سید مرتضیٰ مجتہدی سیستانی)

## مقدمہ مؤلف

حمد و ثناء لائق ہے اس خدا کے لئے جس نے ہمیں اپنی پہچان کروائی اور اپنے اولیاء کی شناخت ہمارے نصیب کی۔ جس نے اپنی اور اپنے اولیاء کی محبت کو ہماری طرف الہام فرمایا! اسے لوگوں کے لئے بہترین عمل قرار دیا، اور ختم نہ ہونے والے سلام و درود ہوں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمدؐ اور ان کی پاک آلؑ پر۔

اما بعد! مؤلف کتاب، احمد رضی الدین مستبیط جو کہ علم و آگاہی کے ایک ادنیٰ سے خدمت گزار ہیں رقمطراز ہیں کہ جب میں نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت جو کتاب ”امالی“ میں ہے اور پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہے کا غور سے مطالعہ کیا کہ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے بھائی علی علیہ السلام کے لئے وہ فضائل قرار دیئے ہیں کہ خود ان کے علاوہ کوئی اور ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی ان فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت صدق دل سے یاد کرے گا تو خدا اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ اگرچہ جنوں اور انسانوں کے جملہ گناہوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے، جو کوئی بھی ان فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھے تو جب تک وہ لکھی ہوئی فضیلت باقی رہے گی فرشتے اس کے لئے استغفار کریں گے اور جو کوئی بھی ان فضائل میں سے ایک فضیلت کو سنے گا تو جو گناہ کان سے سرزد ہوئے ہوں گے خدا ان کو بخش دے گا، اور جو کوئی بھی لکھے ہوئے فضائل کو دیکھے گا تو جو گناہ آنکھ سے کئے ہوں گے خدا ان کو بھی



معاف کر دے گا۔

اس کے بعد فرمایا:

النظر الى علي ابن ابي طالب عبادۃ، وذكره عبادۃ، ولا يقبل ايمان عبدا لا بولايته والبراءۃ من اعدائه.

”علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک وہ علی سے محبت نہ رکھے اور ان کے دشمنوں سے نفرت نہ کرے“

(امالی صدوق صفحہ ۲۰۱/ حدیث نمبر ۱۰ مجلس ۲۸، بحار الانوار: ج ۳۸/ ص ۱۹۹ حدیث ۳)

مؤلف اس ضمن میں مزید تشریح فرماتے ہیں:

”خدا اس کے آئندہ گناہ معاف فرمادے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے گا اور ان کی عاقبت کو بخیر انجام دے گا“ تاکہ اس جملہ سے یہ لازم نہ آئے تا فرمائی اور گناہ کی اجازت۔ ہے جو کہ عقلی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور وہ روایت جو اصول کافی میں منقول ہے کہ ابی المغرا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن جعفرؑ نے فرمایا: کوئی عمل بھی ابلیس اور اس کی افواج کے لئے ایمانی بھائیوں کی زیارت کرنے سے زیادہ قتل کرنے والی نہیں ہے۔ اور فرمایا:

وان المومنین يلتقيان فيذكران الله ثم يذكوران فضلنا اهل البيت عليهم السلام فلا يبقى على وجه ابليس مضغۃ لحم الا تتخذ حتى ان روحه تستغيث من شدة ما تجد من الالم فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقرب الا لعنه فيقع خاساً حسيراً مدحوراً.

”جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کے چہرہ پر جتنا گوشت ہوتا ہے گر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح شدت درد سے چیختی ہے“ آسمان کے

فرشتے اور جنت کے خزانہ دار اسے سن لیتے ہیں اور اس پر لعنت کرتے ہیں اور کوئی مقرب فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ اس پر لعنت کرتا ہے“

(الکافی: ج ۲/ ص ۱۸۸ حدیث نمبر ۱۔ البحار الانوار: ج ۶۳/ ص ۲۵۸ حدیث ۱۳۱)

ایک دوسری روایت جو تفسیر امام حسن علیہ السلام میں پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

اے امت محمد! جب تم مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاؤ تو محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام کو یاد کرو، تاکہ خدا ان کی برکت سے ان فرشتوں کی جو تم پر مومل ہیں شیطانوں کے مقابلہ میں مدد فرمائیں۔

تم میں سے ہر ایک کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی بائیں طرف دوسرا فرشتہ ہے جو اس کی برائیاں لکھتا ہے، اور اس کے ساتھ دو شیطان ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، تاکہ اسے گمراہ کریں۔ جب دو شیطان اس کے دل میں دوسوہ پیدا کرتے ہیں تو مومن خدا کو یاد کرے اور ذکر شریف ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین“ پڑھے تو دونوں شیطان شکست کھا جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے، لہذا ابلیس کے پاس جا کر شکایت کرتے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں لہذا لشکر کے ساتھ ہماری مدد کر۔ ابلیس ایک ہزار شیطانوں کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ مومن کی طرف آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ذکر خدا کرتا ہے اور محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام پر درود بھیجتا ہے تو شیطانوں کا لشکر اس پر اثر نہیں کر پاتا اور اس پر حملہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہ ابلیس سے کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی اس کا دشمن نہیں ہے، تو اور تیرا لشکر اس پر حملہ کر کے اس پر غلبہ حاصل کرو اور اسے گمراہ کرو جب ابلیس اس کا ارادہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ ابلیس نے اپنے لشکر کے سربراہ میرے بندے کو نشانہ بنایا ہے اس کی مدد کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو۔

ہر شیطان کے مقابلہ میں ایک لاکھ فرشتہ جنگ کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ آگ کی سواروں پر سوار ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں آگ کی تلواریں، نیزے، خنجر، تیر اور دوسرا

آگ کا اسلحہ ہوتا ہے۔ فرشتے اس اسلحہ کے ساتھ ان کو قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابلیس کو گرفتار کر کے اسلحہ سے اس پر وار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے: اے خدا! تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وقت معلوم و معین تک تجھے مہلت ہے۔ خدا فرشتوں سے فرماتا ہے: میں نے وعدہ کیا ہے کہ اسے نہیں ماروں گا۔ یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس پر عذاب اور تکلیف مسلط نہیں کروں گا۔ تم اس کو آگ کے اسلحہ کے ذریعے مارو اور میں اسے زندہ رکھوں گا۔ فرشتے اسے مار مار کر زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابلیس اپنی اس حالت پر اور اپنی مجروح شدہ حالت پر پریشان اور غمگین ہے، اور اس کے زخموں کو مشرکین کی کافرانہ آوازوں کے علاوہ کوئی چیز بھی مرہم پٹی نہیں کرنے دیتی۔ اگر وہ مومن شخص خدا کی اطاعت، اس کی یاد اور درود بھیجنے کو فراموش نہ کرے تو ابلیس کے زخم باقی رہتے ہیں اور اس کے احکام کی نافرمانی کرے تو ابلیس کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس بندے پر تسلط کر لیتا ہے۔ اسے لگام دے کر اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ پھر شیطانوں سے کہتا ہے: تمہیں یاد ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب اس کو ہم نے ذلیل اور رام کر لیا ہے اب تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ پھر پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

فان اردتم ان تدیموا علی ابلیس سخنة عینه والم جرحاته، فداو  
موا علی طاعة اللہ و ذکرہ، والصلوة علی محمد وآلہ وان زلتم عن  
ذلک کنتم اسرا ابلیس فیو کب افقتکم بعض مردته.

”اگر چاہتے ہو کہ ابلیس کے زخم باقی رہیں اور ہمیشہ غمناک رہے تو اطاعت خدا اور محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام پر درود کو ہمیشہ بجالاتے رہو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابلیس کے اسیر ہو جاؤ گے، اور اس کے لشکر تم پر سوار ہو جائیں گے“

(تفسیر منسوب بہ امام حسن عسکری: صفحہ ۳۹۶)

اس روایت کو ملاحظہ کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے بیکراں دریا سے ایک قطرہ تحریر کروں اور اپنی فرصت کے مطابق اس کا ذکر کروں اور اس کتاب کا نام میں نے ”قطرہ“ رکھا ہے۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام کے دریا سے ایک قطرہ۔



کیف يستوعب الكتاب سجایاہ

وہل ينزح الرکاء البحارا

”کس طرح یہ کتاب ان ہستیوں کے فضائل اور کرامات کو اپنے اندر سمو سکتی ہے؟ کیا ایک چھوٹے سے پیالے کے ذریعے دریا کے پانی کو مقید کیا جاسکتا ہے؟“  
ایک دوسرا شاعر کہتا ہے۔

قطره نیارد صفت ز دریا لیکن

برقدر خود کند حکایت دریا

ذره نیادر صفت ز خورشیا لیکن

برمثل خود کند روایت خورشیا

ذره چه داند حدیث طلعت خورشید

پشہ چه داند رموز خلقت عنقاء

”قطرہ میں دریا کے اوصاف نہیں ہوتے، لیکن اپنی مقدار میں دریا کی حکایت کرتا ہے“  
ذرہ میں سورج کے اوصاف نہیں ہوتے، لیکن ذرہ سورج کی خبر دیتا ہے۔ ذرہ کو سورج کے حسن کا کیا علم؟ مچھر کو کیا پتہ کہ عنقاء پرندے کی خلقت میں کتنے راز پوشیدہ ہیں؟“

فلو نظرو الندمان ختم اناہا

لا سکرهم من دونها ذلک الختم

”اگر ہم نشین اس مہر کو دیکھیں جو برتنوں پر لگی ہوئی ہے تو وہ مہر ہی بغیر پینے کے ان کو مست کر دے گی“

اس مبارک کتاب کو نجف اشرف میں قیام کے دوران لکھا جب کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی ہمسائیگی میں رہتا تھا۔ اس کتاب میں جو لطیف نکات اور گہری تحقیقات موجود ہیں وہ اس مقدس حرم کی برکت اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فیض سے ہیں۔ خدا اور اپنے مولا و آقا

کے اس لطف و کرم پر شکر گزار ہوں۔

شاحا من ار بعش رسا نم سریر فضل  
مملوک آن جنابم و محتاج این درم  
گر برکنم دل از تو و مهر از تو بکسکم  
این مهر برکہ افکنم این دل کجا برم  
”اے آقا! مجھے عرش کے تخت کے ساتھ کیا سرکار میں تو آپ کا غلام اور اس  
در کا محتاج ہوں

اگر دل آپ سے جدا کر لوں اور محبت کو آپ سے دور کر لوں تو پھر کس سے محبت  
کروں اور دل کدھر لے جاؤں“

سفینہ دلم از مدح شاہ پر گھر است  
گواہ حال بدین علم عالم العظام  
”آقا کی مدح سے دل بھرا ہوا ہے اس کا علم خود خدا جانتا ہے“

تطوف ملوک الارض حول جنابہ  
وتسعی لکم لحظی بلثم ترابہ  
فکان کبیت اللہ بیت علاقہ  
تراجم تیجان الملوک بیابہ  
فیکثر عند الاستلام ازوحامہا  
آتاہ ملوک لارض طوعا و املت  
ملیگا سحاب الفضل منہ تهللت  
ومہما دنت زادت خضوعاہ علت  
اذا مارانہ من بعید ترجلت  
وان ہی لم تفعل ترجل ہامہا

”زمین کے بادشاہ آنحضرتؐ کے حرم کے طواف میں مشغول ہیں اور میری آنکھیں اس مکان کی خاک کو چومنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شان و عظمت کے لحاظ سے خدا کے گھر کی مانند ہے۔ ایسا گھر کہ جس کا وجہ سے ہم فضیلت پاتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے تاج اس گھر کے دروازے کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اس گھر کو چومنے کے وقت بڑا رش ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنی چاہت اور اختیار سے آتے ہیں اس شاہی گھر کی طرف جس پر رحمت و بخشش کے بادل بارش برساتے ہیں

اور جب اس گھر کے نزدیک ہوتے ہیں تو ان کا خضوع و خشوع زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو برتری ملتی ہے۔ اور جب دور سے اس گھر کو دیکھتے ہیں تو قدموں کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں اور اگر قدلم یہ کام نہ کریں تو چہرے قدموں کا کام انجام دیتے ہیں“

اصل کتاب کو شروع کرنے سے قبل چند مقدمات ضبط تحریر کئے جن کا ذکر کچھ یوں ہے۔

## مقدمہ اول

وہ محبت جو انسان کو ولایت کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ ولایت جو ایک مخصوص بیعت، اندرونی دعوت اور قانون الہی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) موہوبی: یہ ایسی قسم ہے جو عطاء خداوندی ہوتی ہے اور کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔

کتاب ”تحف العقول“ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مومن طاق کو سفارشات کے باب میں نقل کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا:

يا بن النعمان: ان حبنا اهل البيت ينزله الله من السماء من خزائن تحت العرش كخزائن الذهب والفضة ولا ينزله الا بقدر ولا يعطيه



الا خیر الخلق وان له غمامة القطر، فاذا اراد الله ان یخص به من احب من خلقه اذن لتلك الغمامة فتَهطلت كما تهطلت السحاب فتصیب الجنین فی بطن امه (حب العقول: ج ۳۱۰ البخار الانوار: صفحہ ۷۸/ص ۲۹۲)

”اے نعمان کے بیٹے! ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور دوستی کو خدا عرش کے نیچے خزانوں میں سے آسمان سے نازل کرتا ہے جیسے کہ سونے اور چاندی کے خزانے ہوں۔ اور اس کو مقدار معین کے علاوہ نازل نہیں کرتا۔ اور اپنے بہترین بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اور اس کے لئے ایک بادل ہے بارش برسانے والے بادل کی طرح۔ جب خدا چاہتا ہے کہ اس محبت سے اس کو بہرہ مند کرے جسے دوست رکھتا ہے تو اس بادل کو برسنے کی اجازت فرماتا ہے اس وقت برستا ہے اور جو بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ بھی اس سے مستفید ہوتا ہے“

یابہ محبت و ولایت نیک لوگوں کی اور والدین کی دعا کے مرہون منت ہوتی ہے۔ جیسے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ کے والد سے نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات نماز تہجد اور عبادت کے بعد ایک ایسی حالت مجھ میں پیدا ہوتی کہ جس سے میں جان گیا کہ اب جو چیز بھی میں خدا سے چاہوں گا خدا مجھے عطا فرمائے گا، گویا میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد باقر جھولے میں ہے۔ میں نے فوراً کہا: اے پروردگار! بحق محمد و آل محمد علیہم السلام اس بچے کو مروج دین اور احکام مبین کو نشر کرنے والا بنا اور اسے اپنی ختم نہ ہونے والی توفیقات عنایت فرما یہ کہ اس دعا کے سبب ایسے مرتبہ پر سرفراز کر کہ اگر مذہب شیعہ کو مذہب مجلسی کا نام دے دیا جائے تو بے جا نہ ہو، کیونکہ دین کی رونق اسی کی وجہ سے ہے جسے کہ مذہب شیعہ کو جعفری کہتے ہیں۔ (دار السلام: ج ۲/ص ۳۰۵)

یا حضرت صالح اور حضرت ابراہیم کی دعا کے سبب ہے۔ جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے:

فَاَجْعَلْ الْفِتْنَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. (سورة ابراهيم: آية ۳۷)

”لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنادے کہ ان کی طرف مائل ہو جائیں“

یا اس چیز کا مشاہدہ بیداری میں ہوتا ہے کہ یک لخت ان کی محبت دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے کچھ بزرگوں سے سنا ہے کہ امیر المومنین کے دوستوں میں سے کسی ایک شخص کا بھتیجا تھا جو حضرت کا دشمن تھا۔ اس شخص نے حضرت سے درخواست کی کہ اسے اپنے دوستوں میں سے بنادے، ایک دن وہ شخص اتفاق سے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھا تو اس کا بھتیجا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرا اور حضرت پر سلام نہ کیا یہ شخص اپنے بھتیجے کی اس حرکت سے بڑا شرمندہ ہوا۔ اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر کرم اس نوجوان پر پڑی وہ نوجوان فوراً واپس پلٹا۔ اپنے آپ کو حضرت کے قدموں میں گرا دیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اس سے پہلے میرے نزدیک دشمن ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن اب آپ سے زیادہ کسی کو دوست نہیں رکھتا ہوں۔

آپ دوستوں کو محروم نہیں کرتے بلکہ آپ تو دشمنوں پر بھی نظر کرم رکھتے ہیں، وہ جو آنکھ کے اشارے سے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں کیا وہ ہم سے نظر کرم دور کر سکتے ہیں۔  
کہا گیا ہے کہ درج ذیل شعر کا دوسرا مصرعہ خود حضرت نے پڑھا ہے چنانچہ آپ کی طرف منسوب ہے۔

اور جیسا کہ ایک شاعر نے یہ مصرعہ لکھا کہ ”زہرہ شیر شود آب ز دل داری دل“ لیکن دوسرا مصرعہ لکھنے سے قاصر تھا تو حضرت نے خواب میں اسے دوسرا مصرعہ تعلیم فرمایا کہ۔

اسد اللہ مگر آید بھوا داری دل

اور ایسا ہی واقعہ زہیر کو امام حسینؑ کے ساتھ ملاقات کے وقت پیش آیا کہ زہیر کہتا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اتریں اور خیمہ زن ہوں میں بھی اسی منزل پر اپنا خیمہ لگاؤں۔ لیکن ایک منزل پر مجبوراً ایک ہی جگہ خیمے لگائے، ہم بیٹھے تھے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہمارے پاس آیا اس نے سلام کیا اور کہا: اے زہیر! امام حسین علیہ السلام نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ تو ان کے پاس حاضر ہو۔ اس کلام کو سنتے ہی جو کچھ اس

کے ہاتھ میں تھا زمین پر گر گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کہ سر پر پرندہ بیٹھا ہو۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا: رسول خدا کے بیٹے نے تیری طرف اپنا قاصد بھیجا ہے ان کی بات کیوں نہیں سنتے ”سبحان اللہ“ کیا ہوگا قاصد کے ساتھ جاؤ اور حضرت کی بات سن کر واپس آ جاؤ۔ زہیر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور زیادہ وقت نہ گذر تھا کہ خوش و خرم چہرے کے ساتھ واپس آیا اور حکم دیا کہ اس کے خیمے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس لگا دیں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے میں نے طلاق دی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تو میری وجہ سے دکھ و تکلیف میں مبتلا ہو۔ (الارشاد: صفحہ ۲۳۶، لہوف: صفحہ ۳۰، بحار الانوار: ج ۳۳/ص ۳۷۱)

یا اہل بیت علیہم السلام کی محبت ان کو خواب میں دیکھنے سے بھی دل میں پڑ جاتی ہے۔ ہمارے استاد محدث نوری اپنے استاد شیخ جعفر شوشتری سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں علوم دینی سے فارغ ہو کر تبلیغ کے لیے اپنے وطن واپس آیا کہ لوگوں کی ہدایت و راہنمائی کے متعلق اپنا وظیفہ انجام دوں، چونکہ میں وعظ و نصیحت اور عزاداری کی مجالس کے متعلق اتنا تجربہ نہ رکھتا تھا، اس لئے ماہ رمضان کے دنوں میں اور جمعہ کے دن تفسیر صافی منبر پر پڑھ کر بیان کرتا تھا اور مجالس عزاداری کے دنوں میں کتاب ”روضۃ الشہداء“ تحریر مولیٰ حسین کا شفی سے بڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ میرے لئے بہت مشکل تھا کہ کتاب کو دیکھے بغیر لوگوں کو وعظ و نصیحت کروں اور لوگوں کو گریہ و زاری پر مجبور کروں، یہاں تک کہ ایک سال گذر گیا اور دوبارہ محرم کا مہینہ آ گیا۔ ایک رات میں نے اپنے آپ سے کہا: کب تک کتاب کو ساتھ رکھو گے اور لوگوں کو پڑھ کر سناتے رہو گے، جب کہ دوسرے لوگ بغیر کتاب کے منبر پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں، میں اسی فکر میں تھا کہ تھک گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا، گویا کہ میں سرزمین کربلا میں ہوں، اور وہی ایام ہیں جب امام حسین علیہ السلام کے سواروں نے نزول فرمایا اور خیمے نصب کیے جبکہ دشمن کے لشکر نے بھی سامنے خیمے لگائے ہوئے تھے، میں اپنے مولیٰ اور تمام لوگوں کے سردار حضرت ابا عبد اللہ کے خیمے میں گیا اور آپ پر سلام کیا، آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھالیا اور حبیب بن مظاہر سے فرمایا:



ان فلانا و اشار الى ضيفنا اما الماء فلا يوجد عندنا منه شئ وانما  
يوجد عندنا دقيق و سمن فقم واصنع له منهما طعاما واحضره لديه  
”فلاں شخص (اشارہ میری طرف کیا) ہمارا مہمان ہے۔ پانی تو ہمارے خیموں  
میں موجود نہیں ہے۔ لہذا جو آٹا اور گھی موجود ہے اسی سے کھانا تیار کرو اور لے  
آؤ“

حبيب نے ایسا ہی کیا اور کھانا تیار کرنے کے بعد میرے سامنے رکھ دیا میں نے چند  
لقمے ہی کھائے تھے کہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اہل بیت علیہم السلام کے  
مصائب کے متعلق بڑے اہم و دقیق نکات اور آثار الہام ہوئے کہ اس سے قبل میں ان کی طرف  
متوجہ نہ تھا، اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور میں بھی  
موعظہ بیان کرنے کے قابل ہو گیا اور مطالب کو بیان کرنے کے متعلق انتہائی بلند درجہ پر پہنچ  
گیا۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ (فوائد الرضویہ صفحہ ۶۷)

اسی طرح محدث نوری سید عبد اللہ شبر جو اپنے زمانے کے مجلسی دوم مشہور تھے اور جن کی  
کتاب جامع المعارف والا حکام، بحار الانوار کی طرح مشہور ہے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا  
کہ میری تالیفات کے زیادہ ہونے کی وجہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہما السلام کی نظر کرم ہے۔ میں نے  
آنحضرت کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھے ایک قلم عنایت کیا اور فرمایا: لکھو! اسی وقت مجھ میں لکھنے  
کی قوت پیدا ہو گئی، اور جو کچھ بھی میں نے لکھا اسی قلم کی برکت سے ہے۔ (دارالسلام: ج ۲/ص ۲۵۰)  
اور کبھی کبھی صرف ان کا مقدس نام سننے سے ان کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا  
کہ سلمان فارسی کے اسلام لانے کے بارے میں ہے یا آب فرات سے دانائی و حکمت حاصل  
ہونے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔

## فرات اور شیعان علی!

جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الفرات من شيعة على عليه السلام وما حنك به احد الا احبنا اهل  
البيت عليهم السلام

”فرات شیعان علی کے لئے ہے کسی کو بھی فرات کے پانی سے دانائی و حکمت  
حاصل نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت کرتا ہو“

(کامل الزیارات: صفحہ ۱۱ حدیث ۱۵ بحار الانوار: ج ۱۰۰/ص ۲۳۰ حدیث ۱۸)

یا محبت کرنے والے خاص شہروں کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تعریف کی گئی  
ہے۔ جیسے کہ کوفہ، قم اور آہ کا شہر اور جن شہروں کی مذمت کی گئی ہے وہ محبت کرنے والے نہیں  
ہوتے ہیں۔

## دشمنان آل محمد کون؟

کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:  
ثلاثة عشر صنفا وقال تميم ستة عشر صنفا من امة جدی لا  
يحبوننا يحبوننا ولا الى الناس ويغضوننا ولا يتولوننا ويخذلوننا  
يوخذلون الناس عنا فهم اعداؤنا حقا لهم نار جهنم ولهم عذاب  
الحريق

”تیرہ اقسام اور تميم کی روایت کے مطابق میرے جد بزرگوار کی امت میں ۱۶ قسم  
کے لوگ ہیں جو ہمیں دوست نہیں رکھتے، اور ہماری دوستی کی طرف لوگوں کو نہیں  
بلا تے، ہمارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور ہماری ولایت کو قبول نہیں کرتے اور  
لوگوں کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں اور یہ  
جہنم کی آگ اور جلا دینے والے عذاب کے حق دار ہیں۔

راوی کہتا ہے:

میں نے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں کو میرے سامنے بیان کریں۔ خدا ان کے

شر سے محفوظ فرمائے“

آپ نے فرمایا: وہ شخص جس کی خلقت میں کوئی عضو زیادہ ہو ایسے لوگوں میں سے کسی کو آپ نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ ہمارے ساتھ دشمنی کا اظہار کریں گے اور ہماری ولایت ان کے پاس نہ ہوگی۔

ایسا شخص جس کی خلقت میں نقص ہو۔ ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ پاؤ گے مگر یہ کہ اس کے دل میں ہمارے خلاف فریب و دھوکا ہوگا۔

ایسا شخص جس کی دائیں آنکھ پیدائشی طور پر پوری طرح نہ کھلتی ہو۔ جس میں بھی ایسی صفت موجود ہوگی اسے نہیں پاؤ گے مگر یہ کہ ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہوگا، اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ سازشوں میں شریک ہوگا۔

ایسا شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے بال ابھی تک سفید نہ ہوئے ہوں۔ اور اس کی داڑھی کوئے کی دم کی طرح ہو۔ جس کسی میں بھی یہ صفت موجود ہوگی وہ ہمارے خلاف لوگوں کو دشمنی اور ظلم کے لئے جمع کرتا ہوگا اور ہمارے دشمنوں کو زیادہ کرتا ہوگا۔

انتہائی سیاہ رنگ ہونا۔ کوئی بھی ایسا نہ ہوگا مگر یہ کہ ہمیں گالیاں دیتا ہوگا اور ہمارے دشمنوں کی طرف داری کرتا ہوگا۔

ایسا شخص جس کے سر کے بال عیب یا کسی آفت کی وجہ سے گر گئے ہوں۔ ایسا کوئی نہ پاؤ گے مگر یہ کہ ظاہر بظاہر اور چھپ کر ہماری عیب جوئی اور ہمارے خلاف چغل خوری کرتا ہوگا۔

جس کی آنکھ نیلی ہو۔ کوئی بھی ایسا نہ پاؤ گے درحالات کہ ایسے لوگ زیادہ ہیں مگر یہ کہ ہمارے سامنے ایک چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے سامنے نہ ہوں تو دوسرے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں۔

حرام زادہ: کوئی بھی ایسا نہ ہوگا مگر یہ کہ ہمارا دشمن پاؤ گے درحالات کہ وہ کھلم کھلا گمراہ ہوگا۔ ایسا شخص جو برص کی بیماری میں مبتلا ہو۔ ایسا کسی کو نہ پاؤ گے اور ملاقات نہ کرو گے مگر یہ کہ ہماری گھات میں ہوگا۔ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے راستے میں بیٹھا ہوگا۔ تاکہ وہ اپنے



خیال میں راہ حق سے منحرف کر سکے۔

ایسا شخص جو جذام میں مبتلا ہو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن ہیں۔  
ایسا شخص جسے علت ابنہ ہو۔ یعنی لواطہ کرواتا ہو۔ ایسا کسی کو نہ پاؤ گے مگر یہ کہ ہمیں برا  
بھلا کہتا اور لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتا ہوگا۔

## اہل بختان

یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت برے لوگ ہیں ان کو  
فرعون، ہامان اور قارون جیسا ہوگا۔

## اہل ری

یہ لوگ خدا، رسول اور اہل بیت رسول کے دشمن ہیں۔ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ جنگ کو  
جہاد اور ان کے مال کو غنیمت جانتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے والے  
عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

## اہل موصل

یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے بدترین لوگ ہیں۔

اہل زور یا یہ شہر آخری زمانے میں تعمیر ہوگا۔ یہ لوگ ہمارا خون بہانے سے سکون حاصل کریں  
گے۔ ہماری دشمنی کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری دشمنی میں ایک  
دوسرے سے محبت کریں گے اور تعلقات پیدا کریں گے۔ ہمارے ساتھ جنگ کو واجب اور ہمیں قتل کرنا  
لازم جائیں گے۔ اے بیٹے! ایسے لوگوں سے اجتناب کرو اور ان سے دور رہو۔ یقینی طور پر جب بھی  
دو آدمی ان میں سے آپ کے دوستوں میں سے کسی کو اکیلا پائیں گے تو اسے قتل کرنے کی کوشش کریں  
(الخصال: ج ۲/ص ۵۰۶، حدیث ۴، بحار الانوار: ج ۵/ص ۷۸، حدیث ۸)

مؤلف کہتا ہے کہ شہری، موصل، بختان اور اصفہان کی روایت میں مذمت ان شہر  
والوں کے درمیان پانچ خصلتوں کے فقدان کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ان پانچ مفقود خصلتوں

میں سے ایک اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دوستی ہے۔ (بحار الانوار: ج ۶۰/ ص ۲۰۱)

اسی طرح دوسرے شہروں کی روایات میں جو مذمت ذکر ہوئی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جس زمانے میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت ان شہروں کے رہنے والے اس طرح کے تھے۔ یا اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ ان کے بارے میں اس طرح کا ارشاد فرمایا ہے البتہ کلی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اور سب کو شامل نہیں کیا گیا، تاکہ ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا جاسکے جو نیک و صالح ہیں اور جو اوصاف انسان میں غیر اختیاری طور پر پائے جاتے ہیں جیسے خلقت میں زیادتی یا کمی ان کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا نہ ہو، کہ کس طرح یہ اوصاف عداوت و دشمنی کی علامت بن سکتے ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے اس شخص کی مذمت کی جائے، کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے تمام صورتیں قابلیت اور استعداد کے مطابق پیدا کی ہیں۔ ہمارے ایک استاد نے اس کا یوں جواب دیا ہے کہ جو صورتیں علم ازلی میں موجود تھیں وہ زبان حال سے درخواست کر رہی تھیں کہ ان کو عالم وجود میں بھیجا جائے، پروردگار عالم جس کی پاک ذات خالصتا بے نیاز اور بخشش والی ہے اور جس کا کام اپنا فیض پہنچانا ہے اس نے اپنے لئے ضروری سمجھا کہ اس فیض کی بنا پر انہیں وجود عطا کرے۔ کیونکہ وجود اور بخشش درخواست کرنیوالے کی استعداد، قابلیت اور اس کے حال کے مطابق ہے لہذا پروردگار کا فیض پہنچانا مکمل طور پر عادلانہ اور درست تھا۔ اور اگر کوئی نقص ہے تو وہ درخواست کرنے والے کی طرف سے ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنے مقتضائی حال کے مطابق عمل کرتی ہے۔

مؤلف کہتا ہے: بہتر یہ ہے کہ موجودہ استعداد اور قابلیت اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ بعد میں کوئی اختیاری کمال واقع نہیں ہوگا۔ اس صورت میں کوئی اعتراض نہیں ہے ان مشکلوں پر جو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ اور بعض آثار و علامات کا تقاضا کرتی ہیں کیونکہ یہ شکلیں اس چیز کے عین مطابق ہیں جس کو یہ اختیار کریں گی۔

اگر راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ علت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ بالفاظ دیگر خدا تعالیٰ ان کی ارواح سے مطلع تھا کہ وہ محمد و آل محمد کو دوست نہیں رکھتے اور میثاق یعنی عالم ذر میں

اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے ساتھ اقرار نہیں کیا تھا۔ اس لئے ان کی شکلوں کو اس طرح بنایا۔  
 محبت کی دوسری قسم اکتسابی ہے۔ اس قسم کو حاصل کرنے کے چند طریقے اور راستے ہیں۔  
 اہل بیت علیہم السلام کی اچھی اور پسندیدہ صفات کے متعلق غور و فکر کرنا جن کی طرف  
 انسان خود بخود مائل ہوتا ہے۔ اور ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ علم، بردباری، پرہیزگاری،  
 واجب التعظیم ہونا، زہد، عبادت، شجاعت، مہربانی اور قدرت وغیرہ یقینی طور پر انسان کی فطرت اور  
 طبیعت ایسی ہے کہ اگر کسی شخص میں اچھے اوصاف اور کمالات موجود ہوں تو اسے دوست رکھتا ہے  
 ان بے شمار نعمتوں کے متعلق غور و فکر کرنا جو خدا تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کے وسیلہ  
 سے دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہیں اور کچھ انسان خود کسب کرتا ہے۔

پہلی قسم جو خدا نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہیں جیسے روح کا پھونکنا اور دوسری روحانی  
 طاقتوں کو انسان کی خلقت بدن میں ڈالنا۔

دوسری قسم کسی ہے۔ جیسا کہ بدن کو نفس کی بدبو اور برائیوں سے پاک کرنا، اور نفس کو  
 بہترین اخلاقیات سے آراستہ کرنا جیسے مال اور مقام کو حاصل کرنا۔ رہی بات اخروی انعام کی جو  
 اہل بیت علیہم السلام کے واسطے سے ہیں حاصل ہوا ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ (بخاری الانوار: صفحہ ۴۰/۹۶)  
 بہر حال اہم ترین دنیاوی نعمت جو کہ کائنات ہے وہ انہی پاک ہستیوں کے توسط سے  
 ہے۔ کیونکہ یہی حضرات اس کی خلقت کا اصل سبب ہیں اور تمام عالم کے وجود کی علت غائی  
 ہیں۔ لہذا زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے فقط ان پاک ہستیوں کے سبب سے ہے۔ چنانچہ پیغمبر  
 اسلام نے ارشاد فرمایا ہے:

لولا انا وانت یا علی ما خلق الله الخلق

”اے علی! اگر میں اور تو نہ ہوتے تو خدا مخلوق کو پیدا ہی نہ کرتا۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے افضل ترین مخلوق کو اس عالم میں پست ترین مخلوق  
 کے لئے علت غائی اور سبب بنایا ہے، زمین کو نباتات کے اگنے کے لئے پیدا  
 کیا، نباتات کو حیوانات کے لئے پیدا کیا، حیوانات کو انسانوں کے لئے پیدا کیا۔



جیسے کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَخَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (سورة بقرہ: آیت نمبر ۲۹)

”جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے“

اور کامل و اکمل انسان جو روئے زمین پر خدا کے جانشین ہیں اور خلقت کا آخری منشاء و

مقصد ہیں وہ محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے:

زمین باقی نہ رہے

لو بقیۃ الارض بغیر امام لساخت

”اگر زمین بغیر امام اور حجت کے ہو تو ریزہ ہو جائے گی“

(بحار الانوار: ج ۲۳/ص ۳۷ حدیث ۶۴)

یہ اس لئے ہے کہ زمین امام کی خاطر پیدا ہوئی ہے۔ جب ایک چیز دوسری چیز کی خاطر پیدا کی گئی ہو تو جب وہ چیز نہ رہے جو خلقت کا سبب بنی ہو تو دوسری چیز بھی خود بخود باقی نہیں رہے گی۔ پس واضح اور روشن ہو گیا کہ اہل بیت علیہم السلام ہر نعمت کی بنیاد اور ہر لطف و احسان کا سبب ہیں۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے:

دشمنی اور محبت

جملت القلوب علی حب من احسن الیہا و بغض من اسار الیہا

(تحف العقول: ج ۳۷/بحار الانوار: ج ۷۷/ص ۱۳۲ حدیث ۶۸)

”دلوں کو اس کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ نیکی کرے اور اس کی دشمنی پر پیدا کیا گیا ہے جو ان سے دشمنی کرے۔“

بہت سی ایسی روایات گواہی کے طور پر موجود ہیں کہ آئمہ علیہم السلام کو نعمت کا واسطہ، سبب اور سرچشمہ تصور کیا گیا۔ جیسا کہ حضرت حجت اروا حنا فداہ سے ایک روایت کو پہلے ہم اشارہ کے طور پر ذکر کر چکے ہیں۔

لما شئ منه الا وانتم له السبب واليه السبيل

”کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر آپ اس کے لئے سبب اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہیں“

(بخاری الاوار: ج ۹۴/ص ۳۷۷/سطر ۶)

کراچی علیہ الرحمۃ کتاب ”کنز القوائد“ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ حضرت کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب آپ نے کھانا ختم کیا تو فرمایا:

### نعمت الہی

الحمد لله رب العالمين اللهم ان هذا منك ومن رسولك

”تمام حمد خدا کے لئے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اے خدا! یہ نعمت آپ کی

اور آپ کے رسول کی طرف سے ہے“

ابو حنیفہ نے کہا: کیا خدا کے لئے شریک بنا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

### انتقام اور فضل و کرم

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

”انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ خدا اور رسول نے انہیں اپنے فضل و کرم سے

غنی کر دیا“ (سورۃ توبہ: آیہ ۷۷)

### رضایت الہی

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. (سورۃ توبہ: آیہ ۵۹)

”کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ خدا اور رسول کے عطا کئے ہوئے پر راضی ہو

جاتے اور کہتے خدا ہمارے لئے کافی ہے۔ اور عنقریب خدا اور اس کا رسول اپنے

رحم و کرم سے عطا فرمائے گا“

ابو حنیفہ نے کہا: کیا آپ کے خیال میں، میں نے اب تک ان دو آیتوں کو نہیں پڑھا اور نہیں سنا؟ حضرت نے فرمایا:

ان دو آیتوں کو تو نے پڑھا اور سنا ہے لیکن تو اور تجھ جیسوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

## دلوں پر تالے

اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (سورۃ محمد: آیہ ۲۴)

”یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جس کے نتیجہ میں کوئی چیز ان میں داخل نہیں ہوتی“

اور ایک یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (سورۃ مطفین: آیہ ۱۴)

”اس طرح نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں“

ہر حال میں انسان اہل بیت علیہم السلام کے وسیلہ سے بھلائی حاصل کرتا ہے اور انہیں کے سبب سے مصیبت کو دور کرتا ہے کیونکہ حادثات زمانہ کے زہریلے تیرپے درپے نکلتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بدیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ انسان اہل بیت علیہم السلام کے وسیلہ سے ہی ان کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان نعمتوں اور مہربانیوں جو ان حضرات کے واسطے سے ملتی ہیں کو یاد رکھے اور فراموش نہ کرے تو اسے ایک ایسی روشنی اور نورانیت مل جائے گی کہ اہل بیت علیہم السلام کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب اور دوست سمجھے گا۔

ان پاک و مطہر ہستیوں کے ارشادات اور احکام کی پیروی کرنا، ایسی چیزوں پر عمل کرنا جو ان کی محبت میں اضافہ کریں، ان کی سیرت اور کردار کی پیروی کرنا، ان کی حرکات و سکنات میں ان کی



طرح عمل کرنا اور جس چیز سے روکیں اس سے رکنا یہ سب کی سب چیزیں مراتب محبت کے حصول میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں اور محبت کے مراتب کو بڑھاتی ہیں۔

جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا کہ روایات میں مذکور ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت حاصل نہیں ہوتی مگر تقویٰ کے ساتھ اور تقویٰ وہی واجبات تکمیل اور محرمات کو ترک کرنا ہے اور یہ معنی اس بنا پر ہے کہ لفظ ولایت جو روایت میں آیا ہے اس کی واو کو فتح یعنی (زبر) کے ساتھ پڑھیں۔

طریقی ”مجمع البحرین“ میں حدیث شریف ”بنی الاسلام علی الخمس“ ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے“ اور ان پانچ میں سے ایک ولایت ہے۔ کی وضاحت کی ہے کہ ولایت واو کے فتح (زبر) کے ساتھ محبت کے معنی میں ہے۔

(مجمع البحرین: ج ۳/ ص ۱۹۸۱ مادة دلی بحار الانوار: ج ۶۸/ ص ۳۲۹ حدیث ۸ ص ۳۳۲ ج ۸ ص ۳۷۶ ج ۲۱)  
 رہی بات ان پاک و مطہر ہستیوں کے حق کی پہچان کرنا اور ان کی امامت پر اعتقاد رکھنا، تو یہ اصول دین میں سے ہے فروغ میں سے نہیں ہے۔

## دوسرا مقدمہ

دوسرا مقدمہ ان علامات اور نشانیوں کے متعلق ہے جن کے ذریعے سے محبت پہچانا جاتا ہے اور غیروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ان علامتوں اور نشانیوں کی طرف اشارہ ہی نہیں بلکہ وضاحت ہوئی ہے۔

ان روایات میں سے ایک روایت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب خصال میں پیغمبر اسلامؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

من رزقه الله حب الائمة من اهل بيتي فقد اصاب خير الدنيا

ولآخرة فلا يشكن احد انه في الجنة فان في حب اهل بيتي عشرين

خصلة، عشر منها في الدنيا وعشر في الآخرة

”جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے آئمہ اطہار علیہم السلام کی

محبت نصیب فرمائے تو دنیا و آخرت کی بھلائی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے شک میرے اہل بیت کی محبت کے بیس اثرات ہیں ان میں سے دس دنیا کے ساتھ اور دس آخرت کے ساتھ مربوط ہیں۔ وہ اثرات جو دنیا کے ساتھ مربوط ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

- (۱) دنیا کی طرف رغبت نہ کرنا۔
- (۲) عمل کرنے میں بے حد کوشش کرنا۔
- (۳) دین میں تقویٰ رکھنا۔
- (۴) عبادت کی طرف مائل ہونا۔
- (۵) موت سے قبل توبہ کرنا۔
- (۶) راتوں کو بیدار رہنے کی طرف شوق رکھنا۔
- (۷) جو لوگوں کے پاس ہے اس سے ناامید ہونا۔
- (۸) خدا کے احکام کا خیال رکھنا۔
- (۹) دنیا کو دشمن سمجھنا۔
- (۱۰) سخاوت کرنا ہے

آخرت کے اثرات یہ ہیں:

- (۱) اس کا نامہ اعمال کھولا نہیں جائے گا۔
- (۲) اعمال کو تولنے کا ترازو نصب نہیں ہوگا۔
- (۳) نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
- (۴) اس کے لئے جہنم سے نجات لکھ دی جائے گی۔
- (۵) اس کا چہرہ سفید اور نورانی ہوگا۔
- (۶) جنت کے لباس اس کو پہنائے جائیں گے۔

(۷) اپنے رشتہ داروں میں سے ۱۰۰ افراد کی شفاعت کر سکے گا۔

(۸) خدا اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔

(۹) جنت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔

(۱۰) بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔

پس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میری اہل بیت علیہم السلام کو دوست رکھیں گے۔

(الحاصل: ج ۲/ص ۵۱۵ حدیث ۱، بحار الانوار: ج ۲۷/ص ۷۸ حدیث ۱۲)

مؤلف کہتا ہے کہ دنیا کی دوستی کی دو اقسام ہیں۔

پہلی قسم:

یہ کہ دنیا کو دنیا کی خاطر پسند کرے، اس کا مقصد و ہدف خود دنیا ہو۔ ایسی دنیاوی محبت

قابلِ مذمت ہے۔

دوسری قسم

یہ ہے کہ دنیا سے محبت آخرت اور پروردگارِ عالم کی خوشنودی کو پالینے کا وسیلہ ہو۔ دنیا کو خدا کے حکم کے مطابق کام میں لائے۔ واضح ہے کہ دنیا کی ایسی محبت قابلِ مذمت و نفرت نہیں ہے بلکہ ایسی محبت قابلِ تحسین ہے۔ پس جب دنیا کی اس تقسیم کے مطابق ان روایات کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ کہ بعض میں دنیا کی مذمت ہوئی ہے اور کچھ میں دنیا کی مدح ہوئی ہے۔ محبت کی علامتوں اور نشانیوں کی روایات میں سے ایک روایت امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

یا حنّ من سرّہ ان یعلم امحبّ لنا هو ام مبغض فلیمتحن قلبہ فان

کان یحبّ ولیاً لنا فلیس بمبغض (لنا) وان کان یبغض ولیاً لنا

فلیس بمحب لنا

”اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن تو اپنے دل کا امتحان کرے اگر وہ ہمارے دوست کو دوست رکھتا ہے تو وہ ہمارا دشمن نہیں



ہے۔ اور اگر ہمارے دوست کو دشمن رکھتا ہو تو وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔“

(بخاری المصطفیٰ: صفحہ ۴۶، ابی طوسی: صفحہ ۱۱۳ حدیث ۱۷۲، ابی مہدی: صفحہ ۳۳۲ حدیث ۲، بحار الانوار: ج ۲/ص ۵۳ ح ۶)

اسی کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

انکم لن تنالوا ولا یقنا الا بالورع، والاجتهاد، وصدق الحدیث  
وإداء الأمانة وحسن الجوار (وحسن) الخلق، والوفاء العهد، وصلة  
الرحم وأعينونا بطول السجود ولو ان قاتل علی علیہ السلام  
انتمنی علی امانة لا دیتها الیه (بخاری المصطفیٰ: صفحہ ۲۶۰)

”ہماری ولایت ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتی مگر پرہیزگاری، کوشش کرنے سے، سچ  
بولنے سے، امانت کو ادا کرنے سے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے،  
اچھے اخلاق رکھنے سے، وعدہ ایفاء کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے اور اپنے  
سجدوں کو لمبا کرنے کے ساتھ، ہماری مدد کرو، اگر امیر المومنین علیہ السلام کے  
قاتل کی امانت بھی میرے پاس ہوتی تو میں اسے واپس کر دیتا“

ان روایات میں سے ایک روایت کتاب ”علل الشرائع“ میں رسول اکرمؐ سے نقل ہوئی ہے۔

لایومن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه وتكون عترة ی احب الیه  
من عترة وتكون اهلی احب الیه من اهله وتكون ذاتی احب الیه  
من ذاته

(علل الشرائع: ج ۱/ص ۱۴۰ ح ۱، بحار الانوار: ج ۲۴/ص ۳۱۷ ح ۳۰، بخاری المصطفیٰ: صفحہ ۵۲ اور ۱۶۸)

کوئی بندہ بھی خدا پر ایمان نہیں لاسکتا مگر یہ کہ وہ مجھے اپنے سے زیادہ دوست  
رکھتا ہو، میری نسل کو اپنی نسل سے زیادہ عزیز رکھتا ہو، میرے خاندان کو اپنے  
خاندان سے زیادہ چاہتا ہو اور میرے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ  
چاہتا ہو“

انہیں احادیث میں سے ایک حدیث ہے جو امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے آپ

خدا کے اس فرمان کے ضمن میں فرماتے ہیں۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ . (سورة الاحزاب: آیہ ۴)

”خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل کے ساتھ دوستی کرے اور دوسرے کے ساتھ دشمنی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ایسی خالص دوستی رکھتے ہیں جیسے سونے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو اس کی ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور خالص ہو جاتا ہے“

عن اِزاد ان يعلم حينا فليمتحن قلبه: فان شارك في حينا حب عدونا فليس منا ولمنا منه واللہ عدوه وجبرائیل و میکائیل واللہ عدو للکافرين“

”جو کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں دوست رکھتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل کا امتحان کرے۔ اگر ہماری دوستی کے ساتھ ہمارے دشمن کی دوستی کو شریک کرے تو وہ ہمارا نہیں ہے اور ہم اس سے نہیں ہیں۔ خدا، جبرائیل اور میکائیل اس کے دشمن ہیں اور خدا کافروں کا دشمن ہے“

(تذیل الایات: ج ۲/ص ۳۴۷ حدیث ۵۶، بحار الانوار: ج ۲۳/ص ۳۷۷ حدیث ۲۳، بشارة المصطفیٰ: صفحہ ۸، مابلی طوسی: صفحہ ۱۲۷)

شیخ صدوق کتاب ”امالی“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

من جالس لنا عائبا او مدح لنا والیا او واصل لنا قاطعا او قطع لنا

واصلا او والی لنا عدوا او عادى لنا ولیا فقد کفر بالذی انزل السبع

المثنائی والقرآن العظیم . (امالی صدوق: صفحہ ۱۱۱ ج ۲ مجلس ۱۱۳، بحار الانوار: ج ۲۷ ص ۲۵)

”جو کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے جو ہمارے عیب بیان کرے، یا ایسے شخص

کی تعریف کرے جو ہمیں پشت کر گیا ہو، یا ایسے شخص کے ساتھ رابطہ کرے جو ہم

سے رابطہ منقطع کر چکا ہو، یا ایسے شخص سے رابطہ اور تعلق ختم کرے جس کا ہمارے

ساتھ تعلق ہو، یا ہمارے دشمن کے ساتھ دوستی کرے، یا ہمارے دوست کے ساتھ

دشمنی کرے یقینی طور پر اس نے سورہ حمد اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والے خدا کے ساتھ کفر کیا۔

کتاب ”اختصاص“ اور ”بصائر الدرجات“ میں امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک دن حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد جمع تھے کہ آپ کا ایک شیعہ آیا اور عرض کی، اے امیر المومنین علیہ السلام میں آپ کی محبت کے ساتھ خدا کی چھپ کر ایسے عبادت کرتا ہوں جیسا کہ ظاہر بظاہر اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ پوشیدہ محبت کرتا ہوں اور ظاہر بظاہر محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

صدقتم اما فاتخذ للفقر جلبابا فان الفقر اسرع الى شيعتنا من السيل الى قرار الوادي

”تم نے سچ کہا ہے، فقر کے لئے لباس تیار کرو (جو تیرے کو چھپا دے یہ صبر سے کنایہ ہے) بے شک فقر اور تنگدستی ہمارے شیعوں کی طرف اس سے بھی تیز جاتا ہے جتنا تیز سیلاب کا پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔“

وہ شخص فرمان امیر المومنین سن کر خوشی سے روتا ہوا واپس چلا گیا۔ (الاختصاص: ص ۳۰۵) ایک دوسری روایت میں امام باقر علیہ السلام کا وہ فرمان ہے جو جابر جعفی کو وصیتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو ایک جامع اور نفع بخش فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

تو اس وقت تک ہمارا دوست نہیں بن سکتا جب تک تو ایسا نہ ہو جائے کہ اگر پورے شہر کے لوگ تجھے کہیں کہ تم برے آدمی ہو تو تجھے اس بات کا غم اور حزن نہ ہو۔ اگر سب لوگ تجھے اچھا اور نیک آدمی کہیں تو اس سے خوشی نہ ہو۔ لیکن اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھ۔ اگر قرآن کا راستہ تمہارا راستہ ہے یعنی قرآن دوری کا حکم دیتا ہو تو اس سے دور رہتا ہے، قرآن جس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہو تو اس کی طرف راغب ہوتا ہے، جس سے قرآن ڈراتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے۔ تو بس ثابت قدم رہ اور مضبوط و مستحکم ہو جاؤ اور تجھے خوش خبری ہے اور جو کچھ تیرے متعلق کہا



گیا ہے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر تیرا طرز زندگی قرآن کے مخالف ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو تیرے نفس کو مغرور کرتی ہے؟

ان المومن معنى بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها فمرة يقم  
اودها ويخالف هواها فى محبة الله ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها  
فينعشه الله فينتعش ويقلل الله عشرته فينذر

”مومن ہمیشہ اس میں کوشاں رہتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرے تاکہ  
خواہشات نفس پر غالب آسکے۔ اور نفس کے ٹیڑھے پن کو درست کر سکے۔ راہ  
خدا میں نفس پرستی کی مخالفت کرتا ہے، اور جب کبھی خواہشات نفسانی اس پر  
غالب آجاتی ہیں اور ان کی پیروی پر مائل ہونے لگتا ہے۔ تو اس وقت خدا اس  
کی مدد کرتا ہے اس کو خواہشات کے غلبہ سے نجات دے کر بلند کرتا ہے۔ اسے  
بخش دیتا ہے اور وہ دوبارہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے“

(صحیح العقول: ص ۲۸۴، بحار الانوار: ج ۸/ ص ۱۶۲ حدیث ۱)

جابر سے نقل ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کائنات کے آقا اور مولیٰ امام باقر علیہ  
السلام کی بیس سال خدمت کی۔ جب میں نے آپ سے رخصت لینے کا ارادہ کیا اور الوداع کرنا  
چاہا تو عرض کیا۔ کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میرے لئے نفع بخش ہو۔

حضرت نے فرمایا: اے جابر! کیا بیس سال ہمارے پاس رہنے کے بعد بھی تجھے کسی  
چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے عرض کیا: جی! آپ ایک ایسے بیکراں سمندر ہیں جس کے کنارے  
تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ ارشاد فرمایا:

يا جابر بلغ شيعتى عنى السلام واعلمهم انه لا قرابة بيننا وبين الله  
عز وجل ولا يتقرب اليه الا بالطاعة له:

يا جابر من اطاع الله واحبنا فهو ولينا

”اے جابر! میرے شیعوں کو میری طرف سے سلام پہنچانا اور ان سے کہنا

ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خدا کا قرب صرف اور صرف خدا کی اطاعت کرنے میں ہے۔“

اے جابر! جو کوئی خدا کی اطاعت کرے اور ہمارے ساتھ محبت رکھے تو اس کے پاس ہماری ولایت ہے“

(امالی طوسی صفحہ ۲۹۹ حدیث ۲۹، مجلس ۱۱، بحار الانوار: ج ۸/ص ۱۸۲ حدیث ۸، بشارۃ المصطفیٰ: صفحہ ۱۸۹)

کتاب ”کافی“ میں معلیٰ بن خنیس سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے مومن کے حقوق کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: مومن کے ستر حقوق ہیں صرف سات کے متعلق تجھے بتاتا ہوں۔ کیونکہ مجھے تیرا بہت خیال ہے اور ڈرتا ہوں کہ کہیں ان سب پر عمل نہ کر سکویا ان کو قبول نہ کرو۔ میں نے عرض کیا۔ آپ فرمائیں، انشاء اللہ میں ان پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا:

لا تشبع ويجوع ولا تكتسى ويعرى وتكون دليله، وقميصه الذي يلبسه ولسانه الذي يتكلم به وتحب له ماتحب لنفسك وان كانت لك جارية بعثتها لتمهد فراشه وتسعى في حوائجه بالليل والنهار فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا، ولايتنا بولايتنا  
الله عز وجل

- (۱) ایسا نہ ہو کہ تو سیر ہو اور وہ بھوکا ہو۔
- (۲) تیرے تن پر لباس ہو اور وہ بے لباس ہو۔
- (۳) اس کے راہنما بنو۔
- (۴) اس کے لئے چھپانے والا لباس بنو۔
- (۵) اس کے لئے کلام کرنے والی زبان بنو۔
- (۶) اس کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو۔
- (۷) اگر تمہارے پاس کوئی کنیز ہو تو اس کے پاس بھیجو تا کہ اس کا بستر بچھائے۔ رات دن

اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں رہے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیرا ہماری ولایت کے ساتھ رشتہ پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ ہماری ولایت خدا کی ولایت کے ساتھ متصل ہے۔“ (الکافی ۱/۲: ۱۷۴ حدیث ۱۲، بحار الانوار: ۴/۷۲: ۲۵۵ حدیث ۵۲)

کتاب ”البلد الامین“ میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل

(البلد الامین: ۷۷: ۲۷ روحۃ الواعظین ۳۲۱)

”جو تہجد کی نماز نہ پڑھے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے“

اسی طرح فرماتے ہیں:

ابغض الخلق الى الله جيفة بالليل وبطل بالنهار

(بحار الانوار: ج ۸ ص ۱۵۸ حدیث ۵۳)

”خدا ایسے بندے کو سخت دشمن رکھتا ہے جو ساری رات مردار کی طرح پڑا رہے

اور دن کو بیکار گزار دے“

### تیسرا مقدمہ

مطلوب مقدمہ یہ ہے کہ لوگوں کی آئمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں معرفت ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ کبھی تو لوگ افراط و تفریط میں پڑ جاتے ہیں۔

ایک گروہ معرفت میں اتنی زیادہ کوتاہی کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ آئمہ اطہار علیہم السلام کو ان کے حقیقی مقام و مرتبہ سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اور بہت سی ایسی روایات جو ان کے فضائل اور کمالات کے بارے میں پائی جاتی ہیں ان کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ ان کی معرفت صحیح فکر اور عقل سالم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو کسی ایک مسئلہ میں اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگ ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔

بہت کم لوگ ہیں جو امامت کے دقیق مسائل سے آگاہ ہیں اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کے حقیقی حالات کو ٹھیک ٹھیک ان سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی درمیانے راستے جس میں



افراط و تفریط نہ ہو کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسے لوگ حق بات کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہادی اپنے خفیہ اور باطنی حالات و مراتب کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ صرف ایسے افراد کو اپنے ان پوشیدہ حالات مقامات سے آگاہ فرماتے تھے جو معرفت میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے اور انہیں تاکید کرتے تھے کہ ایسے افراد سے ان چیزوں کو چھپائے رکھیں جو کم عقل اور کمینے ہوں۔ اور حکم فرماتے تھے:

ان امرنا مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان (بصار الدرجات: باب ۲۶: ۱۲)

”ہماری ولایت و امامت کے مسائل اتنے دقیق اور دشوار ہیں کہ ان کو کوئی قبول نہیں کر سکتا مگر خدا کا مقرب فرشتہ یا نبی مرسل یا ایسا بندہ مومن کہ جس کے دل کا خدا نے ایمان کے لئے امتحان لیا ہو۔“

لوگ تفریط کا شکار ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ آئمہ اطہار علیہم السلام کچھ مسائل کو اس وقت تک نہیں جانتے جب تک ان کے دلوں میں القانہ کیے جائیں۔ اس گروہ کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو قائل ہیں کہ آئمہ اطہار علیہم السلام اپنی رائے اور گمان کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ان حضرات کو پیغمبر اکرمؐ کے علاوہ باقی پیغمبروں سے افضل ماننے سے انکار کرتے ہیں۔“

سید شرف الدین نجفی علیہ الرحمہ آیت

(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِأَبْرَاهِيمَ) (سورۃ صافات: آیت ۸۳)

”بے شک اس کے شیعوں میں سے ابراہیم ہیں“

کی تفسیر کے ضمن میں کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ

ابراہیم حضرت علیؑ کے شیعوں میں سے ہیں۔ (تادیل الایات: ج ۲/ ص ۳۹۵ حدیث ۸)

اور کہتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید جعفر بن یزید جعفی کی وہ روایت کرتی ہے جو امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا:

جب خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو پیدا فرمایا تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا۔ ابراہیمؑ نے ایک نور کو دیکھا: عرض کیا! اے پروردگار! یہ کیسا نور ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ جواب ملا یہ میری مخلوق کے افضل ترین شخص محمدؐ کا نور ہے۔ ابراہیمؑ نے اس نور کے ساتھ ایک اور نور کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا، اے خدا! یہ کیسا نور ہے؟ جواب ملا: یہ میرے دین کی حفاظت کرنے والے علیؑ کا نور ہے۔ تین اور نور ان دونوروں کے ساتھ دیکھے، عرض کیا یہ کیسے نور ہیں، جواب ملا ان میں سے ایک نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ جس کے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے چکا ہوں اور دوسرے دو نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دو بیٹے حسن و حسین علیہما السلام کے ہیں۔ ابراہیمؑ نے عرض کیا: میرے خدا! میں نو نور اور دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ان پانچ نوروں کو گھیرا ہوا ہے۔ جواب ملا کہ وہ نو اماموں کے نور ہیں جو سب کے سب علیؑ اور فاطمہ علیہا السلام کی اولاد سے ہیں۔ پھر ابراہیمؑ نے عرض کیا: اے خدا! ان پانچ نوروں کے حق کا واسطہ! ان نو نوروں کی پہچان کرو۔ جواب ملا: اے ابراہیمؑ! یہ علی بن حسین ہے، ان کے بیٹے محمدؐ، ان کے بیٹے جعفرؑ، ان کے بیٹے موسیٰؑ، ان کے بیٹے علیؑ، ان کے بیٹے محمدؑ، ان کے بیٹے علیؑ، ان کے بیٹے حسنؑ اور ان کے بیٹے حجۃ القائم علیہم السلام ہیں۔ ابراہیمؑ نے عرض کیا، بہت سے اور انوار ان کے اطراف میں دیکھ رہا ہوں جن کی تعداد کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جواب ملا اے ابراہیمؑ! یہ انوار ان کے ہیں جو کہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ ابراہیمؑ نے سوال کیا: ان کی نشانی کیا ہے؟ اور ان کی پہچان کس چیز سے ہوگی؟ جواب ملا دن رات میں ۵۱ رکعت نماز پڑھتے ہوں گے۔ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہوں گے۔ رکوع سے پہلے قنوت کرتے ہوں گے۔ اور دائیں ہاتھ میں انگلی پھنتے ہوں گے۔

اس وقت ابراہیمؑ نے عرض کیا:

اللهم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین

”اے پروردگار! مجھے علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے قرار دے“

تو خدا نے اپنی کتاب قرآن میں اس کی اطلاع دی ہے اور فرمایا:

وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُرَاهِنَ

”یعنی علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہیں“

(تاویل الایات: ج ۲/ص ۳۹۶ حدیث ۹، تفسیر برہان: ج ۴/ص ۲۰ حدیث ۱۲)

ایک اور روایت جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اس بات کی تصدیق کرتی

ہے۔ امام نے فرمایا:

ليس الا الله ورسوله ونحن وشيعتنا والباقي في النار

(تاویل الایات: ج ۲/ص ۳۹۷ حدیث ۱۰)

”خدا اور اس کے رسول، ہم اور ہمارے شیعوں کے علاوہ سب جہنم کی آگ میں

ہیں، یعنی باقی انبیاء ہمارے شیعوں میں سے ہیں جو جہنم کی آگ میں نہ ہوں

ہے“

مؤلف کہتا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے خود کہا:

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى..... لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي (سورۃ بقرہ: آیہ ۲۶۰)

”اے پروردگار مجھے دکھلا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے“

لیکن امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا (بحار الانوار: ج ۶۹/ص ۲۰۹ سطر ۸)

”اگر پردے دور کر دیئے جائیں تو میرے یقین میں کوئی زیادتی نہ ہوگی“

پس جلالت، عظمت، شرافت اور بلندی مرتبہ کو دیکھئے کہ حضرت ابراہیمؑ جو ہمارے نبی

کے بعد سب نبیوں سے اشرف ہیں ان کا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک واقعہ کو دیکھ

نہ لیں۔ لیکن ہمارے مولیٰ کے نزدیک ظاہر اور باطن برابر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام

انبیاء، مرسلین، اوصیاء اور نیک و صالح خدا کے بندے امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے



ہیں۔ اور حضرت فضیلت اور برتری اور ولایت کے سبب سوائے پیغمبر اکرمؐ کے سب کے امام ہیں، اور پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ ولایت کے لحاظ سے متحد ہیں، کیونکہ تحقیق شدہ اور ثابت شدہ بات ہے کہ ولایت کلیہ روح نبوت ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے شیعہ کا معنی پیروی کرنے والا یا شعاع کے ہوں۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئمہ اطہار علیہم السلام کو بھول چوک سے پاک جاننا اور اس بات کے قائل ہونا کہ آپ حضرات گذشتہ اور آئندہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، غلو ہے۔ ایسی بات لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہیں اور لاعلمی سے ایسی باتیں کرنے والے کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسی وہم و گمان کی وجہ سے ایسی روایات کو رد کر دینا اور نہ ماننا کہ جن کی عبارت ان روایات کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہو آئمہ اطہار علیہم السلام کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسی روایت ان تک پہنچے جو معجزات پر مشتمل ہوتی ہے تو فوراً روایت کی عبارت پر اعتراض کرتے ہیں یا راوی کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، بلکہ وہ راوی مقام اعتراض میں واقع ہیں ان کا زیادہ جرم اس طرح کی روایت کو نقل کرنا ہے۔ (بحار الانوار: ج ۲۵/ص ۳۴۷ مرآۃ الانوار: ۶۱)

کتاب ”منتخب البصائر“ اور دوسری کتب میں امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

ان حدیث آل محمد علیہم السلام عظیم صعب مستصعب لا یومن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مومن امتحن الله قلبه لا یمان

”بے شک آل محمد علیہم السلام کی حدیث عظیم، سخت اور دشوار ہے اس پر کوئی ایمان نہیں لاسکتا مگر خدا کا مقرب فرشتہ، نبی مرسل یا وہ مومن بندہ جس کے دل کا خدا نے ایمان کے لئے امتحان کیا ہو“

پس آل محمدؐ کی احادیث میں سے جو حدیث تم تک پہنچے اور تمہارا دل اسے قبول کرے اور تم اسے سمجھ جاؤ تو اس کو قبول کرلو، اور جس حدیث کو تمہارا دل قبول نہ کرے اور انکار کرے تو

اسے خدا، رسول اور آل محمد علیہم السلام کی طرف پلٹا دو۔ اور وہ شخص ہلاکت کے لائق ہے جس کے لئے اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے کوئی حدیث پڑھی جائے اور وہ اسے قبول نہ کر لے پس کہیے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ارشادات کا انکار کرنا کفر ہے۔ (مختصر البصائر الدرجات: ۱۲۳، بحار الانوار: ۳۶۶/۲۵، حدیث ۷)

اور جو لوگ افراط کے قائل ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی الوہیت اور خدائی کے قائل ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام عبادت میں خدا کے ساتھ شریک ہیں، یا اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حضرات مستقل طور پر بغیر واسطہ اور بغیر اذن خدا خالق اور رازق ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے اور وہ خدا ایک ہو گئے ہیں۔ یا اس بات کے قائل ہیں کہ بعض روحیں بعض دوسرے لوگوں میں چلی جاتی ہیں، یا یہ کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی معرفت واجبات کو انجام دینے اور محرمات کو ترک کر دینے سے بے نیاز کر دیتی ہے، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ یہ صرف لوگوں کا خیال ہے، یا اس بات کے قائل ہیں کہ آئمہ علیہم السلام میں سے کوئی ایک نبی اکرمؐ پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ گمراہ حلاجیہ سے ہیں اور یہ ایک صوفی گری کی قسم ہے جو حلول اور اباحہ کے قائل ہیں شیخ مفید فرماتے ہیں حلاج کے کام اگرچہ صوفی گری کے تھے لیکن اظہار شیعہ ہونے کا کرتا تھا۔ اس کے پیروکار زندیق اور کافر ہیں۔ کیونکہ ہر فرقہ کے دین کا اظہار کرتے ہیں اور حلاج کے لئے غلط اور باطل چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسے کہ مجوسی ذر وشت کے لئے معجزے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ حلاجیہ فرقہ کے لوگ غالی ہیں اور ان کی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عبادت کے لئے فارغ رہنا چاہیے حالانکہ نماز اور باقی تمام واجبات کو ترک کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کے اسم اعظم کو جانتے ہیں اور حق ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ علم کیمیا کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ دھوکہ اور جادو کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ (بحار الانوار: ج ۲۵/ص ۳۳۵ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار: ص ۶۳)

تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور کتاب ”احتجاج“ میں حضرت رضا علیہ السلام سے

روایت نقل ہوئی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے:

آنحضرت ”المغضوب علیہم ولا الضالین“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین علی علیہ السلام کو مقام عبودیت سے بلند سمجھتے ہیں۔ ایک شخص بلند ہوا اور امام سے عرض کی کہ آقا! اپنے خدا کے ہمارے سامنے اوصاف بیان کریں۔ حضرت رضا علیہ السلام نے صفات باری تعالیٰ کا ذکر کیا۔ راوی نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کی ولایت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ جو تمام اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں علی علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ جب حضرت نے اس بات کو سنا تو آپ کا جسم کا پٹنے لگا، اور فرمایا:

سبحان الله عما يقول الظالمون والکافرون علوا کبیرا: اولیس کان علی علیہ السلام آکلا فی الاکلین ونا کحا فی الناکحین وکان مع ذلک مصلیا خاضعا بین یدی اللہ؟ آلمن کان ہذہ صفاتہ یکون الہا فان کان ہذا الہا فلیس منکم احد الا وہو الہ لمشارکتہ لہ فی ہذہ الصفات الدالات علی حدوث کل موصوف بہا

”خدا پاک و منزہ ہے ان چیزوں سے جو ظالم اور کافر لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ کیا علی علیہ السلام غذا نہیں کھاتے؟ دوسرے لوگوں کی طرح نکاح نہیں کرتے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ خدا کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ جو ایسے صفات رکھتا ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ خدا ہے تو پھر تم میں سے ہر ایک خدا ہوگا، کیونکہ وہ صفات جو حدوث میں دلالت کرتی ہیں ان میں وہ بھی شریک ہے“

اس شخص نے عرض کیا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو ایسے معجزے دکھائے جن سے دوسرے لوگ عاجز تھے۔ لہذا اس لئے وہ خدا کہتے ہیں کیونکہ جب وہ ممکن اور عاجز چیزوں کی صفات کو ظاہر کرتے تو اس طرح معاملہ ان پر مشتبہ کر دیتے تھے اور



ان کا امتحان لیتے تھے تاکہ ان کا ان کے بارے میں ایمان اختیار ہو۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا: انہوں نے اس بات سے غلط مطلب اخذ کیا ہے، صحیح تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جب ان سے عاجزی اور محتاجی ظاہر ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کمزور اور محتاج لوگوں کے ساتھ ان کی صفات میں شریک ہیں۔ اور جب ان سے معجزات ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ معجزات ان کا کام نہیں ہے بلکہ اس قدرت کا کام ہے جو مخلوق کی طرح نہیں ہے یعنی قدرت پروردگار کو ظاہر کیا ہے اور خدا کا کام اس کے توسط سے انجام پایا ہے۔

پھر حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا: یہ کافر اور گمراہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے یہاں تک کہ ان کو غرور اور تکبر نے دیوچ لیا، وہ اپنے غلط نظریات اور ناقص عقول کے ذریعے غیر خدا کے راستے پر چل پڑے، اس طرح انہوں نے خدا کی قدرت کو کم اور اس کے حکم کو ہچ شمار کیا اور اس کی شان عظیم کے متعلق توہین کے مرتکب ہوئے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ خدا قدرت اور طاقت والا ہے اور اس کی قدرت اس کی اپنی ذاتی ہے کسی دوسرے نے اس کے پاس امانت نہیں رکھی اور نہ ہی اس نے اپنی بے نیازی میں کسی دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔  
(تفسیر امام حسن عسکری: ج ۵۰-۵۶ الاحقاج: ج ۲/ص ۳۳۹ بحار الانوار: ج ۲۵/ص ۲۷۴)

مؤلف کہتا ہے: حق بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو آئمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں انہوں نے مقام پروردگار کو محدود کر دیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی معرفت اپنی عقل کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں درحقیقت انہوں نے آئمہ طاہرین علیہم السلام کو نہ افضل جانا ہے اور نہ ہی تعظیم کی ہے کیونکہ امام علیہ السلام کا مقام اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ان کی عقل اس کا احاطہ کر سکے۔ بلکہ انہوں نے تو خالق متعال کو حقیر جانا ہے کہ اس کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ خدا کی شان اس سے بلند تر ہے جو کافروں اور ظالموں نے بیان کی ہے۔

(بحار الانوار: ج ۲۵/ص ۲۸۴ حدیث ۳۳)

حقیقت میں مذہب حقہ جس پر ہمارے بزرگ تھے اور اب ہم ہیں یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق اور تمام موجودات کو رزق دینے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک اور مثل

نہیں ہے۔ رسول اکرم حضرت محمدؐ اور آئمہ طاہرین علیہم السلام اس کے خاص بندے ہیں، وہ خلق ہوئے ہیں اور انہوں نے پرورش پائی ہے۔ ضروریات بندگی ان پر واجب ہے۔ یعنی جو کچھ بندگی اور عبادیت کے لئے ضروری اور لازم ہے اس پر عمل کریں۔ آئمہ طاہرین علیہم السلام میں نبوت کا احتمال نہیں پایا جاتا ہے اور نبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ پیغمبر اکرمؐ کے لئے شان الوہیت سے کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان عظیم ہستیوں کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے اور تمام پسندیدہ امور اور حالات عجیبہ ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اپنے اسرار اور اسم اعظم ان کے اختیار میں دیئے ہیں۔ ان کی پیروی کے بغیر اپنی اطاعت کو مخالفت شمار کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہر طرح کے برتاؤ کو اپنے ساتھ برتاؤ قرار دیا ہے۔

جیسے کہ زیارت جامعہ صغیرہ میں اس کے متعلق وضاحت ہوئی ہے۔

من والاہم فقد والی اللہ ومن عاداہم فقد عادی اللہ ومن عرفہم

فقد عرف اللہ ومن جہلہم فقد جہل اللہ ومن اعتصم بہم فقد

اعتصم باللہ ومن تخلی منہم فقد تخلی من اللہ عزوجل

(من لا یحضرہ الفقیہ: ج ۲/ ص ۶۰۸ حدیث ۳۲۱۲، اخبار الرضا: ج ۲/ ص ۲۷۶ حدیث ۱، العجائب: ج ۶/ ص ۸۳)

”جس نے ان کو دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا جس نے ان کے ساتھ

دشمنی کی اس نے خدا کے ساتھ دشمنی کی۔ جس نے ان کو پہچانا اس نے خدا کو

پہچانا جس نے ان کو نہ پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا، جو کوئی ان کی پناہ حاصل

کرے اس نے خدا کی پناہ حاصل کی، اور جس نے ان سے روگردانی کی اس

نے خدا سے روگردانی کی“

تمام امور کی تدبیر خدا نے ان کے سپرد کی ہے، سوائے مستقل طور پر اور بغیر واسطہ

اور بغیر مرضی خدا کے پیدا کرنے، روزی دینے، مارنے اور زندہ کرنے کے امور کے ایسا نہیں ہے

کہ وہ اپنی مرضی اور وحی یا الہام کے بغیر ہی جس کو چاہیں حلال کر دیں۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. (سورۃ نجم: آیت ۳ اور ۴)

”یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اس طرح سے کامل بنایا کہ وہ حق اور صحیح کے علاوہ کسی چیز کو اختیار ہی نہیں کرتے اور ان کی فکر میں کوئی ایسی چیز آتی ہی نہیں ہے جو خدا کی مرضی کے مخالف ہو۔ لہذا خدا نے بعض امور ان کے سپرد کر دیئے ہیں۔ جیسے کہ بعض نمازوں کی رکعات کو زیادہ کرنا، نماز نافلہ کو متعین کرنا، مستحی روزوں کی تعین، دادا کا میت پوتے سے وراثت میں چھٹا حصہ لینا۔ اور تمام ایسی چیزوں کو حرام قرار دینا جو نشہ آور ہوں۔ یہ سب اس لئے ہے تاکہ خدا کے نزدیک آنحضرتؐ کی جو عزت و مقام ہے اسے ظاہر کرے۔ البتہ ان تمام امور میں اصل تعین وحی یا الہام کے بغیر نہیں ہے۔ (بحار الانوار: ج ۲۵/ص ۳۳۸)

جیسے کہ صفار نے کتاب ”بصائر“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: خدا نے اپنے پیغمبر کو اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ پرورش دی، یہاں تک کہ جیسے وہ چاہتا تھا اور اس کا ارادہ تھا ویسے ہی اسے مستحکم اور مضبوط بنادیا۔ پھر شریعت بنانے کا کام ان کے سپرد کر دیا، اور فرمایا:

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا

”ہمارا رسول تمہیں جو حکم دے اسے لے لو اور جس امر سے روکے اس سے

اجتناب کرو“ (سورہ حشر: آیہ ۷)

فَمَا فَوْضَ اللّٰهُ اِلٰى رَسُوْلِهِ فَقَدْ فَوْضَهُ الْبِنَا

”جو کچھ خدا نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے ہمیں بھی اس کا اختیار دیا ہے“

(بصائر الدرجات: ۳۸۳ حدیث بحار الانوار: ج ۲۵/ص ۳۳۲ حدیث ۹ اصول کافی: ج ۱/ص ۲۸۶ حدیث ۹)

عیاشی اپنی تفسیر میں جابر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کے سامنے یہ آیت تلاوت کی:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (سورۃ آل عمران: آیہ ۱۲۸)

”یعنی امور کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے“



حضرت نے جواب میں فرمایا: خدا کی قسم امور کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا:

وکیف لا یکون له من الامر شی وقدر فوض الله الیه ان جعل ما حل  
فهو حلال وما حرم فهو حرام

”کس طرح وہ امور پر اختیار نہیں رکھتا حالانکہ خدا نے اپنے دین کے معاملہ کو  
اس کے سپرد کیا ہے اور جس چیز کو اس نے حلال کیا اسے حلال قرار دیا اور جس  
چیز کو حرام کیا اسے حرام قرار دیا۔

(تفسیر عیاشی: ۱/۱۳۹، بحار الانوار: ۲۵/۳۳۷، حدیث ۱۷، تفسیر برہان: ۱/۳۱۳، حدیث ۲، الاختصاص: ۳۲۶)

اور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے جو فرمان شریف شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن عثمان  
بن سعید کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ ایک دعا ہے کہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اسے  
رجب کے مہینے میں ہر روز پڑھیں:

اللهم انی اسالک بمعانی جمیع ماید عوک به ولاة امرک  
المامونون علی سرک المستبشرون بامرک والواصفون  
لقدرتک ، المعلنون لعظمتک، اسالک بما نطق فیهم من  
مشیتک فجعلتهم معادن لکلماتک وارکانا لتوحیدک وآیاتک  
ومقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل مکان يعرفک بها من  
عرفک لا فرق بینک وبینها الا انهم عبادک وخلقک فتفها  
وزنقها بیدک بدوها منک وعودها الیک اعضاء واشهاد لبهم  
ملات سماءک وارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت.....)

”اے خدا! تجھ سے ان معانی کا سوال کرتا ہوں جن کے ذریعے سے والیان  
امر تجھے پکارتے ہیں، وہ جو تیرے رازوں کے امین اور تیرے امر کے ساتھ  
خوشخبری دینے والے ہیں۔ وہ جو تیری قدرت کے اوصاف اور تیری عظمت کو  
بیان کرنے والے ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ جس کے

ساتھ تیرا ارادہ ان کے بارے میں نطق کرتا ہے، پس تو نے ان کو اپنے کلمات کی کان اور اپنی یکتائی کی نشانیوں کے ارکان قرار دیا ہے۔ اور ان کو ہر مقام پر اپنا جانشین بنایا ہے جس نے بھی تیری معرفت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے کی۔ تیرے اور ان کے درمیان (علم، قدرت اور دیگر صفات کے لحاظ سے) کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں۔ ان کے امور کا کھلنا اور بند ہونا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی ابتداء اور انتہا تجھ سے اور بازگشت تیری طرف ہے۔ وہ تیرے مددگار اور تیری مخلوق پر گواہ ہیں۔ ان کے وجود سے آسمان اور زمین کو پر کیا، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے“

یہ مکمل دعا شیخ طوسی کی کتاب ”مصابح“ اور دعاؤں کی دوسری کتابوں میں موجود ہے اور اس دعا میں ایسے راز ہیں کہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ نا اہل اشخاص کے سامنے راز نہ کھل جائیں، اس کا ذکر نہیں کیا جاسکتا؟ ہذا تعالیٰ ایسے ارشادات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ (مصابح المعجذ جس ۵۵۹۔ الاقبال، ص ۲۴۲)

کافی میں ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں۔

وان عندنا سرا من سر الله وعلما من علم الله

(الکافی: ۴۰۲/۱: حدیث ۵/الوانی: ۶۴۵/۳: حدیث ۵/بحار الانوار: ۲۵/۳۸۵: حدیث ۴۴)

”ہمارے پاس خدا کے رازوں میں سے راز ہے اور علم باری تعالیٰ میں سے علم ہے“  
 ”کشی“ نے اپنی کتاب رجال میں جابر سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا: میں قربان جاؤں آپ نے اپنے مخصوص رازوں میں سے چھ مطالب ایسے بتائے ہیں جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا، میرے کندھوں پر ان کا بڑا بوجھ ہے جو کبھی کبھی میرے سینے میں طوفان برپا کر دیتے ہیں اور میں دیوانے کی طرح گننے لگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:

یا جابر فاذا كان ذلک فاخرج الى الجبانة فاحفر حفيرة وادل

راسک فیہا ثم قل حدثنی محمد بن علی علیہما السلام بكذا وكذا

(رجال کشی: ۱۹۳ ج ۳۳۳)

”اے جابر! جب تیری حالت ایسی ہو جائے تو صحرا کی طرف نکل جایا کرو اور ایک گڑھا کھود کر اپنا سر اس کے اندر کر کے کہا کرو، امام باقر علیہ السلام نے ایسے ایسے فرمایا ہے“

مؤلف کہتا ہے کہ سر کا معنی مخفی کرنا اور ظاہر نہ کرنا ہے۔ اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی ایسے مطلب کو سر کہتے ہیں جو ظاہر کرنے کے قابل تو ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کے سننے کی ہمت رکھتے ہیں، اور کبھی ایسے مفہوم کو سر کہتے ہیں جو ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے متعلق اگر بتایا جائے تو وہ راز ہی نہیں رہتا۔ پہلی قسم کو سر نسبی کہتے ہیں اور دوسری کو سر حقیقی کہتے ہیں۔

پہلی قسم کے راز ایسے ہیں جو اہل بیت علیہم السلام نے اپنے خاص اور منتخب بندوں پر افشاں کیے ہیں۔ جب کہ دوسری قسم کے اسرار صرف انہیں کے پاس ہیں کیونکہ ان کی حقیقت ہی سر (راز) ہے۔ لہذا جو کلمات ان سے ہم تک پہنچے ہیں انہوں نے ان میں ایسے امور کے ساتھ تعریف کی ہے جو محدود اور معین نہیں۔ ان میں سے ایک مذکورہ عبارت بھی ہے۔ ”تیرے مقامات کے ذریعے سے“ وہ مقامات کہ ان کے لئے کسی مکان میں کوئی تعطیل نہیں ہے۔ ان معانی کے ذریعے سے کہ تیرے والیان امر ان کے ذریعے سے تجھے پکارتے ہیں۔

آپ رحمت کے دروازے اور ایسے کامل کلمات ہیں کہ فکر و عقل اور گہری سوچوں سے بھی ماوراء ہیں۔

یہ ایسا مقام ہے جس کی تشریح اور توضیح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس مقام پر قدم ڈگمگاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے فضائل کے باب میں ہم ایک حدیث نقل کریں گے۔ جس میں جملہ (فیہم ملات سمانک وارضک) ”تو نے آسمان اور اپنی زمین کو ان کے وجود سے پر کیا ہے“ کی تفسیر کی ہے۔

اسی طرح اس میں بھی کوئی اشکال و اعتراض نہیں ہے کہ کوئی اس بات کا قائل ہو کہ



لوگوں کے اجتماعی معاملات مثلاً لوگوں کی سیاست اور اس کی تکمیل ان کے سپرد کی ہے۔

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ”آیہ شریفہ“ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ) (سورہ حشر: آیہ ۷) کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم خدا کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرتے ہیں، اسی طرح کے عطا کئے گئے علم کے مطابق لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں۔

(بحار الانوار: ۲۵/۳۳۹)

اسی طرح اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ کوئی اس بات کا قائل ہو کہ علوم اور احکام کو بیان کرنا ان کی اپنی صوابدید کے مطابق ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جیسا وہ بہتر سمجھیں، بیان کریں، کیونکہ لوگوں کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ لہذا کچھ لوگوں کے جواب میں تو تقیہ اختیار کرنا پڑ جاتا ہے اسی لئے بہت سی روایات میں فرماتے ہیں:

عليكم المسالة وليس علينا الجواب (بحار الانوار: ۲۳/۱۷۴)

”تم پر استفسار کرنا واجب ہے لیکن ہم پر جواب دینا واجب نہیں ہے“

اسی طرح عطا کرنے کا معاملہ بھی ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔

کتاب ”بصائر“ میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ

اذا ارائت القائم صلوات الله عليه اعطى رجلا مائة الف واعطى

رجلا آخر ادرهما فلا يكبر في صدرك فان الامر مفوض اليه

(بصائر الدرجات ۳۸۶ حدیث ۱۰، مختصر البصائر: ۹۵ حدیث ۲۷)

”جب تم دیکھتے ہو کہ حضرت قائم علیہ السلام ایک شخص کو ایک لاکھ درہم اور

دوسرے کو ایک درہم دیتے ہیں تو تیرے دل پر سخت نہ گزرے کیونکہ وہ

معاملات میں مختار ہیں“

اور یہ بات معلوم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام وہی اختیار کرتے ہیں جسے خدا چاہتا ہے

”بصائر“ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے:

ان الله جعل قلوب الائمة موردا لا رادته فاذا شاء الله شيئا شاووه

وہو قول اللہ عزوجل (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)

(سورہ الانسان: آیت ۳۰، سورہ تکوین: آیت ۲۹)

”خدا نے آئمہ علیہم السلام کے دلوں کو اپنے ارادے کا ٹھکانا بنایا ہے جب خدا کسی چیز کو چاہتا ہے تو یہ حضرات بھی اسی کو چاہتے ہیں اور قول خدا ”کہ اولیاء خدا وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے“ کا بھی یہی معنی ہے۔

بعض دوسری روایات میں فرمایا ہے: (بصائر الدرجات: ۵۱۲، تفسیر قمی: ۴/۴۰۹)

ان الامام وکولاً رادة الله عزوجل لا يشاء الا ان يشاء الله

(بحار الانوار: ۲۵/۳۸۵ حدیث ۴۱)

”بے شک امام علیہ السلام خدا کے ارادے کی تجلی گاہ ہے۔ امام علیہ السلام نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔“

مذکور ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہم ایسے کہتے ہیں۔

وارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم

(الکافی: ۴/۵۷۵ حدیث ۲، الفقیہ: ۲/۵۹۳ حدیث ۳۱۹۹، لہجہ یب: ۶/۵۳ حدیث ۱)

”خدا کا ارادہ اس کے امور کی تقدیروں میں تمہاری طرف نازل ہوتا ہے اور تمہارے گھروں سے نکلتا ہے۔“

اسی طرح زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں۔

لا يوازها خطر ولا يسموا الى سمائها النظر ولا يقع على كنهها

الفكر ولا يطمع الى ارضها البصر ولا يقادر سكانها البشر

(بحار الانوار: ج ۱۰۲/ص ۱۵۱)

”کوئی مرتبہ و منزل اس کے ہم پلہ نہیں ہے، اور نظر سے اس کے مرتبہ آسمانی کا ادراک نہیں ہو سکتا، فکریں اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتیں، بصیرت کا کیا کام اس کی سر زمین میں سیر کرے، بشری قدرت اس جگہ ٹھکانا نہیں کر سکتی۔ زیارت

امام منتظر حضرت حجت صلوات اللہ علیہ السلام میں پڑھا جاتا ہے: یہ وہ زیارت ہے جس کو سید بن طاووس نے نقل کیا ہے اور زیارت ندبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ زیارت بارہ رکعات نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جس کی ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھا جاتا ہے۔ اسی زیارت کی ابتداء ان کلمات کے ساتھ ہے

سلام علی آل یس ذلک هو الفضل المبین

(بحار الانوار: ۹۴/۳۷ حدیث ۲۳، صحیفہ مہدیہ: ۱۳۳)

اس زیارت میں ایسے دقیق اور جاذب نظر نقاط ہیں کہ بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔

فما شئنی منه الا وانتم له السبب والیہ السبیل

اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ تم اس کے لئے اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہو

ودلیل ارادته

”تم اس کے ارادے تک پہنچنے کے لئے راہنما ہو“

وانتم جاہنا اوقات صلاحنا وعصمتنا بکم

”آپ نماز کے اوقات میں ہمارے سامنے ہیں ہماری حفاظت آپ ہی کے

سبب سے ہے“

والقضاء المثبت ما استاثرت به مشینکم والممحوما استاثرت به سنتکم

”وہ جس پر قضاء ثابت اور تبدیل نہیں ہو سکتی جس کے متعلق تمہارا ارادہ ہو چکا

ہو اور جس کو تمہاری سنت اختیار کر لے وہ تبدیل ہونے اور محو ہونے کے قابل ہو

جاتی ہے“

شیخ طبرسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”احتجاج“ میں ایک روایت نقل کی ہے جو اس

بات پر دلالت کرتی ہے کہ امور اہل بیت علیہم السلام کے سپرد نہیں ہوئے، کچھ شیعہ حضرات اس

معاملہ میں اختلاف رکھتے ہیں کہ آیا خدا نے پیدا کرنے اور روزی دینے کے امور آئمہ علیہم السلام



کے پردے ہیں یا نہیں۔ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا نے ان کو یہ قدرت عطا کی ہے اور ان کے پردے کیا ہے لہذا نتیجہً یہ حضرات خلق بھی کرتے ہیں اور روزی بھی دیتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ امر محال ہے۔

دونوں گروہ اکٹھے ہو کر محمد بن عثمان جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص اور ترجمان تھے کے پاس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے آئے، خط لکھ کر حضرت کی خدمت میں ارسال کیا۔ حضرت نے فرمایا:

کہ وہ خدا تبارک و تعالیٰ ہے جس نے جسموں کو پیدا اور روزی کو تقسیم کیا ہے۔ اس لئے کہ نہ وہ جسم ہے اور نہ ہی اس میں طول کیا ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  
 ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے“

(سورہ شوریٰ: آیت ۱۱)

فاما الائمة عليهم السلام فانهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه  
 فيرزق ايجابا لمسالتهم واعظاما لحقهم  
 ”آئمہ علیہم السلام خدا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں پس وہ پیدا کرتا ہے، اور اس  
 سے تقاضا کرتے ہیں چنانچہ وہ روزی دیتا ہے ان کے سوال کا جواب دیتے  
 ہوئے اور ان کے حق کی عظمت کی خاطر“

(الاحتجاج: ۲/۲۸۴، بحار الانوار: ۲۵/۳۲۹ حدیث ۴، غیۃ طوسی: ۱۷۸)

کتاب ”روضۃ الواعظین“ میں کامل بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ  
 میں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تاکہ ان سے تفویض کے متعلق سوال  
 کروں۔ آنحضرت کی خدمت میں سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا، اچانک میں نے ایک چاند  
 سے بچے کو دیکھا کہ جس کی عمر تقریباً چار سال کی ہوگی۔ اس شہزادے نے مجھے فرمایا:

يا كامل جئت الي ولي الله وحجة تسالنه عن مقالة المفوضة،

كذبوا بل قلوبنا اوعية لمشيئة الله (فاذا شاء شئنا) والله يقول ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) (سورہ دھر: آیت ۳۰، سورہ نکور: آیت ۲۹)

”اے کامل خدا کے ولی اور اس کی جتہ کے پاس آئے ہوتا کہ ان سے مغوضہ کے عقیدہ کے متعلق پوچھو۔ وہ جھوٹ کہتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں مطلب اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل خدا کے ارادے کا محل ہیں جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو خدا چاہتا ہے“

(تہذیب النبی: ۶۰، الخراج: ۱/۳۵۸ حدیث ۴ کشف الغمۃ: ۲/۳۹۹، بیان المعرود: ۳۶۱)

کتاب ”خصال“ میں چار سو حدیث کے ضمن میں امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں:

ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مرہویون، وقولوا فی فضلنا ما شئتم

(الخصال: ۲/۶۱۳ سطر ۸، بحار الانوار: ۲۵/۲۷۰ ج ۱۵)

”ہمارے متعلق غلو کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ ہم خدا کے پرورش کئے ہوئے

بندے ہیں۔ اس وقت ہماری فضیلت میں جو کہنا چاہو کہو؛

امام حسن عسکری کی تفسیر میں آنحضرت سے نقل ہوا ہے۔

لا تستجاوزوا بنا العبودیۃ ثم قولوا ما شئتم ولن تبغوا وایاکم

والغلو کغلو النصاری فانی بوی من الغالین

(تفسیر امام حسن عسکری: ۵۰ حدیث ۲۳)

”ہمیں مقام عبودیت سے بلند نہ جانو، اس کے بعد جو چاہو کہو تم ہماری حقیقت

کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ نصاریٰ کی طرح ہمارے بارے میں غلو نہ کرنا

کیونکہ میں غالی لوگوں سے بیزار ہوں“

مزید فرماتے ہیں:-

لا ترفع البناء فوق طاقته فینہدم اجمعلونا مخلوقین وقولوا فینا

ما شئتم فلن تبغوا. (بصائر الدرجات: ۱۳ حدیث ۲۱)

”عمارت کو اس کی طاقت سے زیادہ بلند نہ کرو، وگرنہ وہ گر جائے گی۔ ہمیں خدا کی مخلوق قرار دینے کے بعد ہمارے متعلق جو فضیلت بھی بیان کرنا چاہو بیان کرو، لیکن تم ہماری عظمت کو نہیں پاسکتے“

کتاب ”بصار“ میں کامل تمہارے منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:  
یا کامل: اجعلوا لنا ربا نؤوب الیہ وقلوا فینا ما شئتم ثم قال وما عسی ان تقولوا وعسی ان نقول ما خرج الیکم من علمنا الا الفنا غیر معطوفہ (بصار الدرجات: ۵۰۷ حدیث ۸، بحار الانوار: ۲۵/۲۸۳ حدیث ۳۰)  
”اے کامل! ہمارے لئے رب قرار دو کہ جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری فضیلت میں جو چاہو کہو۔ پھر فرمایا: ممکن نہیں ہے کہ ہمارے حق کو ادا کرو اور ہمارے علوم و معارف میں سے تم تک صرف وہ الف پہنچا ہے جس کا عطف نہ ہوا ہو۔ (یہ کمی اور قلت کی طرف اشارہ ہے)“

”علل الشرائع“، ”عیون الاخبار“، ”کمال الدین“ اور ”امالی“ میں حضرت رضا علیہ السلام سے ایک طویل حدیث امام کی صفات اور عظمت کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امامت قدر و منزلت کے لحاظ سے بلند تر ہے اور از لحاظ شان و مرتبہ عظیم تر ہے اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اس سے بلند تر ہے کہ لوگوں کی عقلیں اس کو پاسکیں اور اپنے ارادے اور نظریات کے ساتھ اس تک پہنچ سکیں یا یہ کہ کوئی امام یا پیشوا اپنی مرضی سے نصب کر سکے۔ حضرت ابراہیم کو مقام نبوت اور مقام غلت خدا نے مقام امامت کے بعد عطا کیا اور ان کو مقام اشرف سے نوازا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:

ھیہات ہیہات، ضلت العقول، وتاہت الحلوم، وحارت الالباب،  
وحسرت العیون، وتصاغر العظماء، وتحیرت الحکماء  
وحسرت الخطباء، وجهلت الالباء، وعجزت الارباء، وکلت  
الشعراء، وعیبت البلغاء عن وصف شان من شانہ وفضیلۃ من



فضائلہ فاقرت بالعجزو التقصير وكيف يوصف او ينعت بكنهه؟ او يفهم شئ من امره، او يوجد من يقوم مقامه، او يغني غناءه لا كيف وانی؟

”بعید ہے بعید ہے۔ امامت کے متعلق عقلیں سرگردان ہیں، فہم اور شعور حیرت میں ہیں، اور فکریں پریشان ہیں، آنکھیں کمزور ہیں، بڑے بڑے جھوٹے نظر آتے ہیں، حکماء پریشان اور خطباء گونگے ہیں، صاحبان علم جہالت میں چالاک اور ہوشیار عاجز ہو جاتے ہیں، شعرا اور فصیح و بلیغ کمزور ہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ مقام امامت کی شان بیان کر سکے۔ سب کے سب اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اعتراف کرتے ہیں کہ کس طرح امامت کے اوصاف بیان کئے جاسکتے ہیں یا اس کی حقیقت کی پہچان کی جاسکتی ہے یا اس کے امور میں سے کوئی امر سمجھ آ سکے، یا کوئی ایسا ہو جو مقام امامت پر بیٹھ کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔“

(کمال الدین: ۲/۶۷، حدیث ۳۱، بیون الاخبار: ۱/۱۷۱، حدیث ۱، امالی صدوق: ج ۵۳۶، حدیث ۱)

کتاب ”بحار الانوار“ میں مفصل سے نقل ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند الله ومنزلتنا منه لما احتملتم

فقال له: في العلم؟ فقال: العلم السر من ذلك ان الامام وكر لا

رادة الله عز وجل لا يشاء الا ما شاء الله

(المختصر: ۱۲۸، بحار الانوار: ۲۵/۳۸۵، حدیث ۳۱)

”اگر ہمیں اجازت ہوتی کہ جو مقام ہمارا خدا کے نزدیک ہے وہ لوگوں کو بتا

سکیں تو تم میں اسے تحمل اور قبول کرنے کی طاقت نہ ہوتی“

راوی نے عرض کیا: کیا اس سے مراد آپ کا علم ہے؟ حضرت نے فرمایا: علم تو اس مقام

سے آسان ترین ہے، بے شک امام خدا کے ارادے کے لئے محل ہے، امام نہیں چاہتا مگر وہ جو خدا

چاہتا ہے کتاب ”نوادر الحکمة“ میں اسحاق قتی سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے

اپنے ایک صحابی بنام حمران بن اعین سے فرمایا:

یا حمران: ان الدنيا عند الامام والسموات والارضين الا هكذا  
واشار بيده الى راحته يعرف ظاهرها وباطنها ودخلها وخارجها  
ورطبها وبابسها (المختصر: ۱۳۳، بحار الانوار: ۲۵/۳۸۵ حدیث ۴۲)

”اے حمران: دنیا آسمان اور زمینیں امام کے نزدیک اس ہتھیلی کی مانند ہیں (اور  
آپ نے اشارہ اپنے ہاتھ کی طرف فرمایا) ان کے ظاہر اور باطن ان کے خارج  
اور داخل اور ان کے خشک و تر سب امام جانتا ہے“

امام صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد سے روایت فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی نے  
پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے تین روز بعد ایک خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! میری باتوں کی طرف توجہ  
کرنا اور غور و فکر کرنا۔ مجھے بہت ساعلم عطا کیا گیا ہے۔ اگر وہ سب کچھ جو امیر المومنین علیہ السلام  
کے فضائل کے متعلق میں جانتا ہوں آپ کو بتلا دوں تو تم میں سے ایک گروہ مجھے دیوانہ سمجھنے لگے گا  
اور دوسرا گروہ کہے گا کہ خدایا! سلمان کو قتل کرنے والے کو بخش دے۔

ان لكم منايا تتبعها بلایا الا وان عند علی ابن ابی طالب المنایا  
والبلایا و میراث الوصایا و فضل الخطاب

”تمہارے لئے موت اور اس کے بعد بلائیں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی ابن ابی  
طالب کے نزدیک موت اور بلاؤں کا علم ہے وہ میراث کا علم رکھتے ہیں۔ اور حق  
کو باطل سے جدا کرنے والی حقیقت سے بھی باخبر ہیں“ (بحار الانوار: ۳۲/۳۸۷)

ایک روایت کے ضمن میں مفضل کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض  
کیا: مولا! آپ پر قربان جاؤں، کیا امام میں اتنی طاقت ہے کہ بغداد سے کوئی چیز اٹھائے، حضرت  
نے فرمایا: ”نعم وما دون العرش“

”ہاں: نہ تھا بغداد بلکہ خدا نے عرش کے نیچے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب امام

کے اختیار میں ہے“ (بحار الانوار: ۲۵/۵۸۸ حدیث ۲۵)

اس مقدمہ کا خلاصہ یہ ہے، کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اجمالی طور پر آئمہ معصومین علیہم السلام کے فضائل و مناقب کا اعتراف کرے، چاہے وہ ان کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

اور اس مطلب کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو کتاب ”کافی“ میں یحییٰ بن زکریا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

من سره ان يستكمل الايمان كله فليقل القول مني في جميع  
الاشياء قول آل محمد فيما اسروا ما اعلنوا وفيما بلغني عنهم  
وفيما لم يبلغني (الکافی، ج ۱، ص ۳۹۱۔ بحار الانوار ج ۲۵ ص ۳۲۳)

”جو چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میری ہر بات میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی بات ہے جو کچھ بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے یا چھپایا ہے یا جو ان سے مجھ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا“

ان مقدمات کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کی فضیلت سے ایک قطرے کو اور اس کی فضیلت کو جو ان پاک ہستیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہو اور ان کے شیعوں میں سے ہو، تاکہ آپ کی آنکھوں کا نور بن سکے اور آپ کے دلوں کی ان کی محبت میں مضبوط اور مستحکم رکھے۔

ان مطالب کو پیغمبر اکرمؐ سے لے کر امام وقت حضرت حمزہ بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آباء الطاہرینؑ تک ترحیب سے ایک ایک باب کر کے لاؤں گا، اس حال میں کہ اپنی آنکھیں ان ذوات مقدسہ کے لطف اور مہربانی کی طرف لگائے ہوئے ہوں۔ خدا کی توفیق اور مدد کے ساتھ جس قدر شامل حال ہوگی اور یہ توفیق کہ خدا بہترین دوست ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو توفیق شامل حال فرماتا ہے۔





## وہ روایات جو پیغمبر اکرم حضرت محمدؐ کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں

(۱) امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک صحرا میں رہنے والے عربی نے پیغمبر اکرمؐ سے عرض کیا کہ بہشت کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا:

### اخلاص

لا اله الا الله يقولها العبد مخلصا

”عبد کا خلوص دل کے ساتھ لا اله الا الله کہنا اس نے عرض کیا: اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

العمل بما بعثت به وحب اهل بيتي والله لمن اعظم حقها“  
”جس لئے میں بھیجا گیا ہوں اس پر عمل کرنا اور میری اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنا جو اس کا سب سے بڑا حق ہے“

(امالی طوسی: ۵۸۳ حدیث ۱۲، بحار الانوار: ۱۳/۳۰ حدیث ۳۰)

مؤلف کہتا ہے حقیقت اخلاص یہ ہے کہ تم اس طرح کہو: میرا پروردگار خدا ہے پھر اس پر استقامت سے قائم رہو، عمل خدا کے لئے انجام دو۔ اور اس چیز کو پسند نہ کرو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے۔ (بحار الانوار: ۲۰/۷۲، ۲۹۴ اور ۳۰۱)

## اقرار عبودیت

پیغمبر اکرمؐ اخلاص کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

المخلص الذى لا يسأل الناس شيئا حتى يعبد، واذا وجد رضى،  
واذا بقى عنده شى اعطاه فى الله فان لم يسأل المخلوق فقد اقر  
الله عزوجل بالعبودية واذا وجد فرضى فهو عن الله راض والله  
تبارك وتعالى عنه راض واذا اعطى لله عزوجل فهو على حد الثقة  
بربه عزوجل .

”مخلص کوئی چیز لوگوں سے نہیں مانگتا یہاں تک کہ وہ خود اسے پالیتا ہے، اور  
جب اسے پالیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی چیز باقی  
بچ جاتی ہے تو اسے راہ خدا میں دے دیتا ہے اگر مخلوق سے کسی چیز کا سوال  
نہ کرے تو اس نے اللہ جل جلالہ کی عبودیت کا اقرار کیا ہے اور جب وہ لے  
اور خوش ہو جائے تو خدا سے خوش ہوا ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے  
خوشنود ہوا ہے، اور جب وہ راہ خدا میں کسی چیز کو عطا کرے تو اس پر غماز ہوگا  
کہ وہ پروردگار سے مطمئن ہے“

(معانی الاخبار: ۲۶۰ حدیث ۱، بحار الانوار: ۶۹/۳۷۷ حدیث ۱۹)

(۲) کتاب ”عیون اخبار الرضا“ میں اباصلت ہروی امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے  
ہیں کہ حضرت نے اپنے ابا و اجداد سے اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے  
نقل کیا ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا:

خدا نے مجھ سے افضل کسی کو پیدا نہیں کیا، اور خدا کے نزدیک مجھ سے بڑھ کر کوئی  
عزیز نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ  
افضل ہیں یا جبرائیل؟ آپ نے فرمایا:

## علیٰ دوسرے انبیاء سے افضل

یا علیٰ ان اللہ تبارک و تعالیٰ فضل البیاء والمرسلین علی ملائکته المقربین و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی والائمة من بعدک وان الملائکة لخدامنا وخدام محبینا ”یا علی! خدا نے اپنے رسولوں کو اپنے مقرب فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور مجھے سب نبیوں اور رسولوں پر فضیلت بخشی ہے، میرے بعد فضیلت یا علی“ تیرے لئے اور تیرے بعد والے اماموں کے لئے ہے، بے شک فرشتے ہمارے اور ہمارے مہین کے خدمت گزار ہیں۔“

یا علی! وہ فرشتے جو خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے اطراف میں خدا کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔

## اگر آل محمد نہ ہوتے

یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم، ولا حواء، ولا الجنة ولا النار، ولا السماء ولا الارض۔

”یا علی! اگر ہم نہ ہوتے تو خدا آدم، حواء، جنت، جہنم، آسمان اور زمین پیدا نہ کرتا کس طرح ہم فرشتوں سے افضل نہ ہوں۔ حالانکہ ہم نے فرشتوں سے پہلے خدا کی تسبیح، تہلیل اور تقدیس بیان کی ہے کیونکہ خدا نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا کیا۔ ہمیں اپنی توحید اور تعریف کرنے والی زبان عطا فرمائی۔ پھر فرشتوں کو پیدا کیا۔ جب فرشتوں نے ہمارے بے نظیر نور کو دیکھا تو ہمیں عظیم شہر کیا۔ ہم نے حق تعالیٰ کی تسبیح کی تاکہ فرشتے جان لیں کہ ہم اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں اور وہ ہماری صفات سے پاک ہے۔ ہماری تسبیح



کو دیکھ کر فرشتوں نے بھی تسبیح کی اور اسے ہماری صفات سے پاک و منزہ جانا۔  
جب فرشتوں نے ہماری عظمت کا مشاہدہ کیا کہ ہم نے اس خدا کی جہلیل کی جو وحدہ لا شریک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور خدا نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ یا اس کے بعد ہماری عبادت واجب ہو۔ پس فرشتوں نے کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا: اور جب فرشتوں نے ہمارے مقام کی بلندی کو دیکھا تو ہم نے تکبیر کہی، تاکہ فرشتے جان لیں کہ خدا اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اس کے سبب کے بغیر بلند مقام و مرتبہ تک پہنچ سکے۔

اور جب فرشتوں نے ہماری عزت و قوت کا مشاہدہ کیا تو ہم نے کہا ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ تاکہ فرشتے جان لیں کہ گوئی قوت و طاقت خدا کے سبب کے بغیر نہیں ہے۔ فرشتوں نے ہمیں خدا کی دی ہوئی نعمت اور ہماری اطاعت جو لوگوں پر واجب ہے کا مشاہدہ کیا تو ہم نے کہا ”الحمد للہ“ تاکہ فرشتے جان لیں کہ نعمتوں کی خاطر حمد و ثناء صرف پروردگار کے لائق ہے پس فرشتوں نے بھی ”الحمد للہ“ کہا: پس فرشتوں نے ہمارے وسیلے سے توحید، تسبیح، جہلیل، تحمید کی اور معرفت کی طرف ہدایت حاصل کی۔

## آدمؑ کو سجدہ کیوں؟

ثم ان الله تبارک و تعالیٰ خلق آدم فاو دعنا صلبه وامر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا واکراما

”پھر خدا نے آدم کو پیدا کیا اور ہمیں امانت کے طور پر اس کی صلب میں رکھا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا تاکہ ہماری تعظیم کی خاطر آدم کو سجدہ کریں پس فرشتوں کا سجدہ خدا کے لئے اس کی عبادت کی خاطر تھا اور آدم کے لئے سجدہ خدا کی اطاعت اور احترام کے لئے تھا۔ کیونکہ ہم اس کی صلب میں تھے پس کس طرح ہم فرشتوں سے افضل نہ ہوتے؟ جب کہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے۔“

(عیون اخبار الرضاؑ ۲۰۴/۱: حدیث ۲۲، کمال الدین ۲۵۴/۱: حدیث ۴، طبع الشراعی ۱/۱: ۱۲۵)

ایک شاعر نے اس مطلب کو اس طرح شعر میں بیان کیا ہے:

تصاعدت فی مراقی العز رتبہم  
لفظن انہم للہ اقران  
فلا تقس فضلہم للانبیاء اجل  
فان سلمانہم بعد تصغیر سلیمان

”عزت و عظمت کے درجات میں ان کا رتبہ بلند ہوا یہاں تک کہ یہ گمان ہونے لگا کہ یہ خدا کے نزدیک ہیں۔ ان کی فضیلت کو انبیاء کے ساتھ قیاس نہ کرو بے شک اگر ان کے سلمان کو چھوٹا کرو تو وہ سلیمان ہو جاتا ہے“

(۳) علی بن ابراہیم قتی علیہ الرحمہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ابلیس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت آیا جب آپ خدا کے ساتھ مناجات میں مشغول تھے۔ ایک فرشتے نے اس سے کہا: تیرا براہو تو ان سے کیا امید رکھتا ہے جب کہ وہ خدا کے ساتھ مناجات میں مصروف ہیں؟ ابلیس نے کہا وہی امید جو آدم کے ساتھ تھی جس وقت وہ جنت میں تھے۔

خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا:

اے موسیٰ! میں اس وقت تک کسی کی نماز قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ میری عظمت کے سامنے عاجزی رکھتا ہو، اور ایسی حالت میں رات بسر نہ کرے کہ گناہ اور غلطیوں پر مصر ہو۔ میرے اولیاء اور میرے خاص بندوں کے حق کو پہچانتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: کیا اولیاء سے آپ کی مراد حضرت ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ ہیں؟ خدا نے فرمایا: یہ بھی میرے اولیاء میں سے ہیں لیکن میری مراد وہ ہیں جن کی خاطر میں نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو خلق کیا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! مجھے ان کی پہچان کرو۔ خدا نے فرمایا: وہ محمد ہے اور اس کا دوسرا نام احمد ہے، میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، کیونکہ میں محمود ہوں اور وہ محمد ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے خدا! مجھے

ان کی امت میں سے قرار دے۔ خدا نے فرمایا: یا موسیٰ علیہ السلام:

الامت من امتہ اذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلۃ اہل بیتہ ان مثل  
ومثل اہل بیتہ فیمن خلقت کمثل الفردوس فی الجنان الا ینشرو  
رقعہا ولا یتغیر طعمہا۔

”اے موسیٰ! اگر تو ان کی اور ان کے اہل بیت کی معرفت کرے تو تو ان کی  
امت میں سے ہے۔ میری مخلوقات کے درمیان ان کی اور ان کے اہل بیت  
کی مثال ایسے ہے جیسے فردوس کی مثال جنت میں ہے۔ اس کے پتے نہیں  
گرتے اور اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا“

(محمد و آل محمدؑ ہمیشہ ثابت قدم ہیں اور کبھی بھی لغزش اور انحراف ان میں پیدا نہیں  
ہوتا) جو بھی ان کو پہچانے اور ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو، تو اسے جہالت کے بدلے میں  
علم و ہنر اور ظلمت و تاریکی کے مقابلے میں نور و روشنی عطا کروں گا۔ مجھ کو پکارنے سے پہلے  
اسے جواب دوں گا، اور اس کے مانگنے سے قبل عطا کروں گا۔

اے موسیٰ! جب تو دیکھے کہ فقر و تنگدستی نے تیری طرف رخ کیا ہے تو کہو: خدا کے  
نیک بندوں کی علامت مبارک ہو، اور جب دیکھو مال و دولت آ رہا ہے تو کہو یہ کسی گناہ کی وجہ  
سے عذاب آ رہا ہے۔

اے موسیٰ! ”دنیا سزا کا گھر ہے۔ آدم کو میں نے اس میں سزا دی جب اس نے  
غلطی کی، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سوائے اس کے جو میرے ساتھ مربوط ہے سب پر میں  
نے لعنت کی ہے۔“

اے موسیٰ! ”نیک اور صالح بندے اس دنیا کی حقیقت کا ادراک رکھنے کے سبب  
اس سے دوری اور بے رغبتی کا اظہار کرتے رہے اور جو لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف تھے  
انہوں نے اس کی طرف رغبت پیدا کی۔ میری مخلوق میں سے جس نے بھی دنیا کو اہمیت دی  
میں نے اس کی آنکھوں کو اس کے ساتھ روشن کیا۔ اور جس کسی نے بھی اس کو حقیر جانا میں نے



اسے اس سے بہرہ مند کیا۔

پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر ہو سکے تو ایسا کام انجام دو جس سے لوگ تجھے نہ پہچانیں۔ اگر لوگ تیری تعریف نہ کریں تو اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور تیرے لئے کوئی اشکال نہیں ہے کہ لوگ تجھے برا بھلا کہیں، لیکن خدا کے نزدیک تو قابل تعریف ہو۔ بے شک امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

لا خیر فی الدنیا الا لاحد رجلین رجل یزداد کل یوم احسانا  
ورجل یتدارک منیتہ بالتوبۃ والیٰ له بالتوبۃ واللہ لو سجد حتی  
ینقطع عنقہ ما قبل اللہ منہ الا بولا یتنا اہل البیت

”سوائے دو آدمیوں کے کسی کے لئے بھلائی نہیں ہے ایک وہ آدمی جو ہر روز ایک نیا احسان کرنے کے ساتھ اپنی خوبی میں اضافہ کرتا ہو۔ اور دوسرا وہ جو گزشتہ گناہوں کا توبہ کے ساتھ جبران کرتا ہو۔ وہ توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر اس قدر طویل سجدہ کرے کہ اس کی گردن جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اہل بیت کی ولایت اس کے پاس نہ ہوتی۔“

آگاہ رہو، جو بھی ہمارے حق کی پہچان رکھتا ہے۔ یہ امید رکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق کی وجہ سے اسے اجر و ثواب ملے گا تو وہ روزانہ کی ضرورت کے مطابق خوراک، تن، ڈھانپنے کے لئے کپڑا اور سر چھپانے کے لئے چھت پر راضی ہوتا ہے اور وہ اس وصف کے ساتھ خوف زدہ اور مضطرب ہوتا ہے۔ (تفسیر قمی: ۲۴۳/۱، معانی الاخبار: ۲۰)

مؤلف کہتے ہیں: فیضؑ نے اس روایت کے آخر میں اس چیز کا اضافہ کیا ہے کہ وہ دوست رکھتے ہیں کہ دنیا سے ان کا نصیب اور حصہ اس قدر ہو، خدا تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی اس طرح توصیف کی ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ (المومنون: آیہ ۶۰)

”وہ لوگ جو ان کا وظیفہ تھا اس کو بجالائے پھر بھی ان کے دل خوفزدہ ہیں“

راوی نے عرض کیا:

وہ عمل جو انجام دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا: وہ عمل خدا کی اطاعت ہے ہماری حجت اور ولایت کے ساتھ، اور ان کو خوف اس بات کا ہے کہ شاید عمل قبول نہ ہو۔ خدا کی قسم ان کا ڈر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ صحیح راہ پر چلے ہیں یا نہیں، بلکہ ان کا خوف تو اس وجہ سے ہے کہ کہیں ہماری محبت اور اطاعت میں کمی یا کوتاہی تو واقع نہیں ہوئی۔

پھر فرمایا: اگر کر سکتے ہو کہ اپنے گھر سے باہر نہ جاؤ، تو نہ جاؤ، کیونکہ جب تم باہر جاؤ گے تو تم پر واجب ہو جائے گا کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، حسد نہ کرو، سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ، لوگوں کے سامنے اپنی نمائش اور ریا کاری نہ کرو، لوگوں کے ساتھ دھوکا اور فریب نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا: بہترین عبادت کرنے کی جگہ کسی مسلمان کے لئے اس کا گھر ہے، اس میں اپنی آنکھ، زبان، خواہشات، اور اعضاء شہوانی کی حفاظت کر سکتا ہے، جو کوئی بھی خدا کی نعمت کی پہچان کر لیتا ہے اور اس کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی نعمت میں اضافہ کرے قبل اس کے کہ اس کی زبان سے اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے وہ متکبرین میں سے ہے۔

راوی نے عرض کیا: کوئی اپنی فضیلت اور برتری اس عافیت میں دیکھتا ہے جو اسے نصیب ہوئی ہے کیونکہ وہ اس کا گناہوں کے ارتکاب کے وقت مشاہدہ کرتا ہے، حضرت نے فرمایا: صیحات: کبھی خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تیرے گناہوں کو حساب کے لئے باقی رکھتا ہے۔ کیا تو نے موسیٰؑ کے جادو گروں کا قصہ نہیں پڑھا؟ پھر فرمایا: بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے غفلت اور غرور میں گرفتار ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو خدا کی پردہ پوشی کی وجہ سے غافل ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کی طرف سے اپنی مدح و تعریف سن کر غرور کرتے ہیں۔

پھر فرمایا:

## بے امید لوگ

انی لا رجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الامة الا لاحد ثلاثة صاحب سلطان جائر و صاحب هوى فاسد و الفاسق المعلن ”میں ان لوگوں کی اس امت میں سے نجات کی امید رکھتا ہوں جو ہمارے حق کو پہچانتے ہوں البتہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نجات کی امید نہیں ہے۔ (۱) وہ جو ظالمانہ حکومت کرتے ہوں۔ (۲) جو فاسد اور بری خواہشات رکھتے ہوں (۳) وہ جو سرعام برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوں“ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰهُ

”ان سے کہہ دو اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تا کہ خدا تمہیں دوست رکھے“ (سورۃ آل عمران: آیت ۳۱)

اس کے بعد فرمایا: اے حفص! محبت و دوستی، خوف اور ڈر سے بلند تر ہے۔ پھر فرمایا:

والله ما احب الله من احب الدنيا ووالی غیرنا ومن عرف حقنا و احبنا فقد احب الله تبارک و تعالیٰ

”خدا کی قسم جو کوئی دنیا کی محبت رکھتا ہو اور غیر کی ولایت کو قبول کرے، اس کے پاس خدا کی محبت نہ ہوگی، اور جو کوئی ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہو اور ہماری محبت کا دم بھرتا ہو تو وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا“

اس وقت ایک شخص رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟ بارگاہ خداوندی

میں تمام آسمان و زمین گریہ و زاری کریں تاکہ تو بخشا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو تیرے متعلق ان کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔



پھر حضرت نے فرمایا: اے حفص! ہمیشہ پیچھے رہو۔ اپنے آپ کو معاملات میں آگے نہ رکھو۔ (یعنی سربراہ بننے کی کوشش نہ کرو)

اے حفص! پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف آجاتا ہے تو اس کی زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ایک دن حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اپنے صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے، ان میں سے ایک اٹھا اور اس نے اپنا قمیض پھاڑ دیا۔ خدا نے حضرت موسیٰؑ کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اس بندے سے کہہ دو کہ قمیض نہ پھاڑے بلکہ اپنے دل کو ہمارے لئے کھول دے (تاکہ ہماری بات اور نصیحت اس میں جگہ بنائے)

پھر حضرت نے فرمایا: حضرت موسیٰ بن عمرانؑ اپنے ایک صحابی کے پاس سے گزرے جب کہ وہ سجدہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰؑ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب واپس آئے تو وہ تب بھی سجدے میں تھا حضرت موسیٰؑ نے فرمایا: اگر تیری حاجت میرے اختیار میں ہوتی تو میں اسے ضرور پورا کر دیتا۔ خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا۔

یا موسیٰ لو سجد حتی ینقطع عنقه ما قبلته حتی یتحول عما اکره

الی ما احب

”اے موسیٰ! اگر وہ سجدہ کو اتنا لمبا کرے کہ اس کی گردن جدا ہو جائے تو بھی

قبول نہ کروں گا یہاں تک کہ اپنی فکر اور دل کو اس سے ہٹائے جس کو میں

پسند نہیں کرتا اور اس طرف متوجہ ہو جسے میں پسند کرتا ہوں“

(الوانی: ۲۶/۲۶۵ حدیث ۱، کافی: ۸/۱۲۸ حدیث ۹۸)

(۴) کتاب ”تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام“ میں حضرت سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے

فرمایا: حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال

میں کہ آپ نے ایک سفید رنگ کی کوئی چادر اپنے، امیر المومنین، فاطمہ، حسن اور

حسین علیہم السلام پر اوڑھی ہوئی تھی۔ اور آنحضرتؐ فرما رہے تھے:

اللهم هؤلاء اہلی انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن کلمہم

”اے پروردگار! یہ میری اہل بیت ہیں ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے ان کے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے“

جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اے رسول خدا! مجھے بھی انہوں میں داخل فرمالیں آپ نے فرمایا: تو ہم میں سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: مجھے اجازت ہے کہ اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! جبرائیل علیہ السلام چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر باہر نکلے اور آسمان کی طرف ملکوت اعلیٰ میں چلے گئے، جو فرشتوں کا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب اوپر گئے تو ان کی خوبصورتی اور نورانیت میں اضافہ ہو چکا تھا، فرشتوں نے پوچھا، جب آپ گئے تھے اس وقت اتنا نور نہ تھا مگر اب آئے ہیں تو آپ کے نور میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: ایسے کیوں نہ ہو؟ میں محمد و آل محمد علیہم السلام میں شامل ہو گیا ہوں۔ آسمان، کرسی اور عرش کے فرشتوں نے کہا: یہ فضیلت تیرے لائق ہے کیونکہ جو تجھ جیسا ہو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ (تفسیر امام عسکریؑ: ۳۷۶: حدیث ۲۶۱، بحار الانوار: ۷۰/۱، ۲۶۱ اور ۲۶۲)

(۵) کتاب ”محاسن“ میں آیا ہے کہ جنوں کے گروہ سے ایک عورت رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ چالیس دن تک غائب رہنے کے بعد پھر حاضر ہوئی تو آپؐ نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کیا: اے رسول خدا! میں ایک ایسے دریا میں کسی کام کی خاطر گئی تھی، جو اس دنیا کے برابر تھا۔ میں نے اس دریا کے ساحل پر ایک سبز رنگ کا بڑا پتھر دیکھا جس پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لئے بلند کئے ہوئے تھے اور کہہ رہا تھا۔

اللھم انی اسالک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین

علیہم السلام الا ماغفرت لی

”اے خدا! تجھے محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسن اور حسین علیہم السلام کے حق کی قسم دیتا

ہوں کہ مجھے بخش دے“

میں نے اس سے سوال کیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں ابلیس ہوں، میں نے اس سے کہا کہ یہ جن ناموں کو تو نے یاد کیا ہے ان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا: میں نے زمین پر خدا کی اتنے سال عبادت کی اور آسمان پر اتنے سال عبادت کی۔ میں نے آسمان کا کوئی ستون اور پایہ ایسا نہیں دیکھا جس پر یہ نہ لکھا ہو:

لا اله الا الله محمد رسول الله على امير المؤمنين ايده به

”اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمدؐ اس کے رسول ہیں، علیؑ مومنوں کے امیر اور حاکم ہیں اور میں نے علیؑ کے ذریعے اپنے رسولؐ کی تائید اور مدد چاہی ہے“ (الحجرات: ۲۷ حدیث ۹۸، بخاری الاثوار: ۳۹/۱۶۶ حدیث ۶)

مؤلف کہتا ہے کہ یہ روایت تھوڑے سے فرق کے ساتھ کتاب ”خصال“ میں امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے اس روایت کا آخری حصہ کچھ یوں ہے:

اے خدا جب تو نے میرے بارے میں جو قسم کھائی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں تجھ سے درخواست کروں گا کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے حق کی قسم، مجھے جہنم سے نجات دے اور ان پانچ کے ساتھ مجھے معذور فرما:

جن عورت کہتی ہے میں نے اس سے کہا: اے حارث (ابلیس کا نام ہے) جن ناموں کے ساتھ تو نے خدا کو پکارا ہے یہ کہاں ہیں؟

اس نے کہا: آدم کی خلقت سے سات ہزار سال پہلے میں نے ان ناموں کو عرش الہی کے اوپر دیکھا میں تو جان گیا کہ یہ خدا کی عزیز ترین مخلوق ہے اور قابل احترام ہے اسی لئے میں نے ان کے حق کا واسطہ دے کر خدا سے سوال کیا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

والله لو اقم اهل الارض بهذا الاسماء لا جابهم

”خدا کی قسم اگر تمام اہل زمین ان ناموں کی قسم دیں تو خدا ان کی قسم قبول

فرماتے ہیں: ” (الخصال: ۲/۶۲۹ حدیث ۱۳، بحار الانوار: ۳/۱۳۷ حدیث ۱، کشف الغمۃ: ۱/۲۶۶)



(۶) کتاب ”مصابح الانوار“ میں مفصل سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آنحضرت نے مجھ سے فرمایا: اے مفصل! کیا محمدؐ، علیؐ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسین علیہم السلام کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح سے پہچانتے ہو اور ان کی معرفت کی حقیقت تک پہنچ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا: اے میرے آقا و مولا! ان کی حقیقی معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

### معیار معرفت

یا مفضل: من عرفہم کنہ معرفتہم کان مومنا فی السنام الاعلیٰ  
 ”اے مفصل: جو بھی ان کی حقیقی معرفت رکھتا ہے وہ ایمان کے بلند ترین درجات پر فائز ہے“

مفصل کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا: اے میرے مولا مجھے ان کی معرفت کروا دیجئے۔؟ آپ نے فرمایا:

### معرفت الہی کے خزانہ دار

یا مفضل: تعلم انہم علموا ما خلق اللہ عزوجل وذراہ براہ وانہم کلمۃ التقویٰ وخزان السماوات والارضین والجبال والرمال والبحار وعلموا کم فی السماء من نجم وملك ووزن الجبال وکیل ماء البحار وانہا رہا وعیونہا۔ وما تسقط من ورقۃ الا علموها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وهو فی علمہم وقد علموا ذلک۔

”اے مفصل! تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرات وہ سب کچھ جانتے ہیں جو خدا نے پیدا کیا ہے اور اسے عدم سے وجود عطا کیا ہے۔ یہ خدا کے تقویٰ کے مظہر ہیں۔ یہ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، صحراؤں اور دریاؤں کے خزانہ

دار ہیں۔ یہ حضرات آسمان میں ستاروں اور فرشتوں کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پانی کی مقدار، نہروں اور چشموں کی تعداد سے واقف ہیں۔ کوئی ایسا پتہ کسی درخت سے نہیں گرتا جس کا علم ان کے پاس نہ ہو۔ زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کا علم رکھتے ہیں اور کوئی خشک وتر نہیں مگر کتاب مبین میں موجود ہے۔ یعنی ان کے علم میں اس کا نقشہ موجود ہے اور وہ اسے جانتے ہیں۔“

میں نے عرض کیا: اے میرے آقا! میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں، اس کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں۔

حضرت نے فرمایا: ہاں اے مفضل! تو نے درست کہا ہے۔ اے قابل عزت، اے وہ جس کو نعمت عطا کی گئی ہے، اے پاک مرد، تم پاک ہو چکے ہو۔ بہشت تمہیں اور ان اشخاص کو مبارک ہو جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں۔ (مصباح الانوار: ۲۳۷، بحار الانوار: ۲۶/۱۱۶ حدیث ۲۲)

### اسباب راحت

(۷) شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب ”امالی“ میں امام باقر علیہ السلام سے اور آپ اپنے والد محترم سے اور وہ اپنے والد بزرگوار سے اور وہ رسول اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

من اراد التوسل الی وان تکون له عندی ید ینتفع بها یوم القیامۃ

فلیصل اهل بیتی ویدخل السرور علیہم

(امالی صدوق: ۳۶۱، حدیث ۵ مجلس ۴۰، بحار الانوار: ۲۶/۲۲۷، حدیث ۱)

”جو کوئی چاہتا ہے کہ میرا تقرب حاصل کرے اور مجھ پر ایسا حق رکھتا ہو جو

قیامت کے دن اسے فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے میرے اہل بیت علیہم

السلام کے ساتھ احسان کرے اور ان کو خوش کرنے کے اسباب فراہم کرے“

## اہل بیتؑ پر درود

(۸) برقی امام باقر علیہ السلام سے کتاب ”محاسن“ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب قیامت آئے گی تو خدا ابتداء سے لے کر انتہاء تک اپنی تمام مخلوق کو ایک مقام پر جمع کرے گا، اس وقت ایک منادی ندا دے گا کہ اگر رسول خدا پر کسی کا حق ہے تو کھڑا ہو جائے، پس ایک گروہ کھڑا ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کونسا حق پیغمبر پر ہے۔ وہ جواب دیں گے۔

”کنا نصل اہل بیتہ من بعدہ“

”ہم آنحضرتؐ کے بعد ان کے اہل بیت پر درود بھیجا کرتے تھے“ ان سے کہا جائے گا۔

اذہبوا فظوفلوا فی الناس فمن کانت له عند کم ید فخذلوا بیدہ  
فادخلوا الجنة

”جاؤ اور لوگوں کے درمیان تلاش کرو، جس کسی نے بھی تمہارے ساتھ کوئی مہربانی کی ہو اور تمہیں کوئی نعمت دی ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ“

(الحاسن: ۴۷ حدیث ۱۰۹، وسائل الشیخہ: ۱۱/۵۵۸ حدیث ۹)

ایک دوسری روایت میں حضرت سے نقل ہوا ہے:

من اصطنع الی احد من اہل بیتی یدا اکافیہ یوم القیامۃ  
”جس کسی نے بھی میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کو کوئی نعمت دی ہو اور اس پر احسان کیا ہو، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا“

## پھر وہ جنت میں جائے گا

(۹) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طویل روایت جس میں اس بیٹاق کا ذکر فرماتے ہیں جو خدا نے اپنے بندوں سے لیا تھا کہ ضمن میں فرماتے ہیں۔



یا آدم لو احب رجل من الکفار او جمیعهم رجلا من آل محمد  
 واصحابه الخیرین لکافاه الله عن ذلک بان یختم له بالعوبة  
 والایمان ثم یدخله الله الجنة.

”اے آدم! اگر ایک کافر یا تمام کفار پیغمبر کے اہل بیت میں یا اس کے  
 اصحاب میں سے کسی ایک کو دوست رکھتے ہوں گے تو خدا انہیں ان کے عمل  
 کی جزا دے گا اور آخر کار انہیں توبہ کرنے اور ایمان لانے کی توفیق اسے  
 عنایت فرمائے گا پھر انہیں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا“ (تفسیر امام عسکری: ۲۰)

خدا محمد وآل محمد علیہم السلام اور آنحضرتؐ کے اصحاب کے دوستوں میں سے ہر ایک  
 پر اتنی رحمت نازل فرمائے گا کہ اگر اول تا آخر خدا کی تمام مخلوق کی تعداد کو جمع کیا جائے اور وہ  
 سبھی کافر ہوں تو سب کے لئے کافی ہوگی اور آخر کار وہ ایمان کی طرف لوٹ آئے گا تاکہ  
 اس کے سبب جنت میں داخل ہو سکے۔

ولو ان رجلا یفرض آل محمد واصحابه الخیرین او واحدا منهم لعذبه  
 الله عذابا لو قسم علی مثل عدد ما خلق الله لا هلكهم الله اجمعین  
 ”اگر کوئی شخص محمد وآل محمد اور ان کے نیک اصحاب یا ان میں سے کسی ایک  
 کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو خدا اس کو ایسا عذاب دے گا کہ اگر وہ عذاب تمام  
 مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے“

(تفسیر امام عسکری: ۳۹۲ حدیث ۲۶۷، بحار الانوار: ۲۶/۳۳۱ حدیث ۱۲)

## شفاعت رسولؐ

(۱۰) شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب ”خصال“ میں حضرت رضا علیہ السلام سے اور وہ اپنے  
 ابا و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

اربعة انا الشفیع لهم یوم القیامة ولو اتونی بدلوب اهل الارض:

المعین لاهل بیتى والقاضى لهم حوائجهم عند ما اضطروا الیه  
والمحب لهم بقلبه ولسانه والدافع عنهم بیده

”قیامت کے دن چار طرح کے آدمیوں کی شفاعت کروں گا اگرچہ وہ تمام  
اہل زمین کے گناہوں کا وزن اپنے سر لے کر میرے پاس آئیں، وہ لوگ  
جو میرے اہل بیت کی مدد کرتے ہوں، وہ لوگ جو میرے اہل بیت کی  
ضروریات کو پورا کرتے رہے، وہ لوگ جو ان کو دل اور زبان سے دوست  
رکھتے ہوں اور وہ لوگ جو میرے اہل بیت علیہم السلام کی حمایت کرنے کے  
ساتھ ان کا دفاع کرتے رہے ہوں“

(انحصال: ۱/۱۹۶ حدیث ۱، حقیقۃ الرضا، ۲، بحار الانوار: ۲۲۵/۹۶، حدیث ۲۳، عیون اخبار الرضا: ۱/۲۵۳)

## ایک دن کی محبت

(۱۱) ارطبی علیہ الرحمۃ کتاب ”کشف الغمہ“ میں مسند احمد بن حنبل سے اور وہ ابن مسعود  
سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

حب آل محمد يوماً خیر من عبادة سنة ومن مات عليه دخل الجنة  
”آل محمد علیہم السلام کے ساتھ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے  
افضل ہے۔ جو کوئی بھی آل محمد علیہم السلام کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے  
رخصت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا“ (کشف الغمہ: ۱/۱۳۷)

اسی کتاب میں ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”خیر کم منی خیر کم لاهلی“

(کشف الغمہ، ج ۱، ص ۱۳۷، بحار الانوار: ۱۰۳/۲۷، حدیث ۷۲ اور ۷۳)

”میرے نزدیک تم میں بہتر وہ ہے جو میرے اہل بیت علیہم السلام کے لئے  
بہتر ہو“

## پہلے صراط

(۱۲) راوندی کتاب ”نوادر“ میں امام صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباؤ اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

انکم علی الصراط اشد کم حبالا اهل بیتی ولا صحابی

(نوادر راوندی: ۱۵، فضائل الشیخ: ۵)

”پہلے صراط پر تم میں سے سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جس کی میرے اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی“

## آل محمدؐ کی محبت کے فوائد

(۱۳) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب ”خصال“ میں امام باقر علیہ السلام سے اور آپ اپنے آباؤ اجداد علیہم السلام سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

حبی وحب اهل بیتی نافع فی سبعة مواطن اهل الھن عظیمۃ: عند

الوفاة وفی القبر وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب،

وعند المیزان، وعند الصراط. (الخصال: ۳۶۰/۲، حدیث ۳۹، بشارۃ المصطفیٰ: ۱۷)

”میری اور میرے اہل بیت علیہم السلام کی محبت سات مقامات پر فائدہ دے

گی۔ ایسے سات مقامات کہ جن میں خوف و وحشت زیادہ ہے موت کے

وقت، قبر میں، قبر سے اٹھنے کے وقت، جب نامہ اعمال ملے گا، حساب و

کتاب کے وقت، جب میزان لگے گا اور پہلے صراط سے گزرنے کے وقت“

## چنے ہوئے

(۱۴) برسی علیہ الرحمۃ کتاب ”مشارق انوار الیقین“ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔

لا الھ الا اللھ محمد رسول اللھ علی ولی اللھ فاطمۃ خیرۃ اللھ الحسن



والحسین صفوة الله على محبيه رحمة الله وعلى مبغضيه لعنة الله  
 ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اُس کے رسول ہیں، علی اللہ کا ولی ہے،  
 فاطمہ خدا کی منتخب شدہ خاتون ہے اور حسن اور حسین خدا کے چنے ہوئے ہیں  
 ان کے دوستوں پر خدا کی رحمت ہو اور ان کے دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو“

(مشارك انوار اليقين: ۱۱۸)

## نوری فرشتہ

(۱۵) ابن شہر آشوب علیہ الرحمۃ رسول اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:  
 اے ابو ذر! جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو میں نے ایک فرشتہ دیکھا جو نور  
 سے بنا ہوا تاج پہنے ہوئے تھا، نورانی تخت پر متمکن تھا، اس تخت کے دو پایوں سے ایک مشرق  
 کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف، اس کے سامنے ایک تختی تھی جس کی طرف وہ دیکھ رہا تھا،  
 تمام دنیا اس کے سامنے اور تمام مخلوق اس کے دوزانوؤں کے درمیان تھی اور اس کے دونوں  
 ہاتھ مشرق و مغرب تک پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے کہا: اے جبرائیل! یہ کونسا فرشتہ ہے؟ ملائکہ  
 کے درمیان اس سے بڑی خدا کی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض  
 کیا: یہ عزرائیل علیہ السلام ہیں اس کے نزدیک جاؤ اور سلام کرو، میں اس کے نزدیک گیا اور  
 کہا: اے میرے دوست! اے ملک الموت! تجھ پر سلام ہو اس نے عرض کیا: وعلیک  
 السلام یا احمد ما فعل ابن عمک علی ابن ابی طالب علیہ السلام: اے احمد تجھ پر  
 سلام تیرے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا خبر ہے؟ وہ کیا  
 کرتے ہیں؟

میں نے اس سے کہا: کیا میرے چچا زاد کو جانتے ہو؟ اس نے عرض کیا:  
 وکیف لا اعرفه فان الله جل جلاله وکلتی بقبض ارواح الخلق ما خلا  
 روحک وروح علی بن ابی طالب علیہ السلام فان الله یوفاهما بمشیته

”میں کس طرح علی علیہ السلام سے واقف نہ ہوں، جبکہ خدا تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام روحوں کے قبض کرنے پر مامور کیا ہے سوائے آپ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روحوں کے، ان دو روحوں کو خدا خود اپنی مرضی سے نکالے گا“

(الناقب: ۲/۲۳۶، مدینۃ المعارج: ۳/۵۳ حدیث ۷۱۷، بحار الانوار: ۳۹/۹۹ حدیث ۱۰، کتاب الروضة: ۳۳)

(۱۶) پیغمبر اکرمؐ سے آیت:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (سورة شوری: آیت ۲۳)

کی تفسیر کے متعلق روایت ہوئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا میں قیامت کے دن چار گروہوں کی شفاعت کروں گا۔ اگرچہ تمام دنیا کے گناہوں کے ساتھ میدان محشر میں وارد ہوں۔

رجل نصر ذریتی ورجل بذل ماله للذریتی عند الضیق ورجل احب ذریتی

باللسان والقلب ورجل سعی فی حوائج ذریتی اذ طردوا او شردوا

”وہ جو میری اولاد کی مدد کریں وہ جو تنگدستی کے وقت میری اولاد کو مال عطا

کریں وہ جو میری اولاد کو دل اور زبان کے ساتھ دوست رکھے اور وہ جو

در بدری کے عالم میں میری اولاد کی ضروریات کو پورا کریں“

## فرشتوں کا فخر کرنا

(۱۷) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ ابوذر علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا

سے سنا کہ اسرائیل نے جبرائیل پر فخر کیا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، جبرائیل نے

کہا: کس طرح اور کیا دلیل ہے کہ تو مجھ سے افضل ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان

آٹھ فرشتوں میں سے ایک ہوں جو عرش الہی کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور

میں صور پھونکنے پر مامور ہوں اور میں خدا کے دربار میں نزدیک ترین فرشتہ ہوں

جبرائیل نے کہا: میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اسرائیل نے کہا: کیا دلیل ہے کہ تو مجھ سے

افضل ہے جبرائیل نے کہا: میں خدا کی طرف سے وحی پر امین ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو خدا نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی طرف بھیجا۔ چاند گرہن اور چیزوں کے غرق کرنے پر مامور فرمایا: اور خدا جن امتوں کو ہلاک کرے گا تو وہ میرے ہاتھ سے ہی کرے گا۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں نے اپنا جھگڑا خدا کے دربار میں پیش کیا: خدائے ذوالجلال نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، کوئی ایسا بھی ہے جس کو میں نے تم سے افضل بنایا ہے۔ دونوں فرشتوں نے عرض کی: کیا ہم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا کی ہے جب کہ ہمیں نور سے پیدا کیا ہے؟ خدا نے فرمایا: ہاں، پھر حجاب قدرت کو حکم دیا کہ ظاہر ہو جائے۔ جب ظاہر ہوا تو دیکھا کہ ساق عرش پر لکھا ہوا تھا۔

لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين  
خير خلق الله .

”خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمدؐ اللہ کے رسول ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام خدا کی بہترین مخلوق ہیں“  
جبرائیل نے عرض کیا: یارب!

اسالک بحقہم علیک ان تجعلنی خادمہم  
”اے خدا! تجھ سے ان عظیم ہستیوں کے حق کے صدقے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کا خدمت گزار بنادے، خدا نے قبول فرمالیا۔ پس جبرائیل اہل بیت میں سے قرار پایا اور وہ ہمارا خادم اور خدمت گزار ہے“

(بحار الانوار: ۲۶/۳۳۳، حدیث ۷، تاویل الآیات ۲/۸۳۳، حدیث ۷، ارشاد القلوب: ۲/۲۹۵، مدینۃ المعاجز: ۲/۳۹۴)

### طور سینا پر نور الہی

(۱۸) سید شرف الدین علیہ الرحمۃ کتاب ”تاویل الایات الظاہرۃ فی التورۃ



الطاهرة“ میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہما السلام سے ایک بہترین اور نادر حدیث نقل ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد کو اس نور سے پیدا کیا جو خدا کی عظمت اور جلالت سے ظاہر ہوا۔ اور یہ وہی نور الہی ہے جو طور سینا پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے لئے ظاہر ہوا تھا اور چمکا تھا۔ اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام میں جسے دیکھنے کی طاقت نہ تھی۔ جسے دیکھ کر چیخ مار کر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب خدا نے ارادہ فرمایا کہ اپنے حبیب محمد کو پیدا کریں تو اس نور کو دو حصے کیا۔ پہلے حصے سے محمدؐ اور دوسرے حصے سے علیؑ ابن ابی طالب علیہما السلام کو پیدا کیا، ان دو ہستیوں کے علاوہ کسی اور کو اس نور سے پیدا نہیں کیا۔ ان دونوں کو خدا نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور خود اپنی روح ان میں پھونکی، ان کی خود تصویر بنائی اور ان کو اپنی تصویر بنایا۔ اور یہ دونوں خدا کی طرف سے اس کی مخلوق پر گواہ، مخلوق کے درمیان اس کے جانشین، مخلوقات پر اس کی دیکھتی ہوئی آنکھ اور لوگوں کے درمیان اس کی بولتی ہوئی زبان ہیں۔ اپنے علم کو ان میں امانت کے طور پر رکھا، علم کو بیان کرنے کا جوہر ان کو عطا کیا۔ اور اپنے غیب اور پوشیدہ رازوں سے ان کو آگاہ کیا۔ ان دو میں سے ایک کو اپنی روح اور دوسرے کو اپنا نفس قرار دیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا مؤند اور تائید کرنیوالا قرار دیا اس طرح کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔

ظاهر ہما بشریۃ وباطنہما لا ہوتیۃ ظہرا للخلق علی ہما کل الناسوتیۃ حتی یطیقوا روتہما۔

”ان دونوں کا ظاہر بشری ہے اور باطن خدا کی طرف منسوب اور مربوط ہے لوگوں کے درمیان لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں۔“ اور اسی ضمن میں خدا یہ فرماتا ہے

وَلَكَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. (سورۃ انعام: آیت ۹)

”ہم نے ان کو وہی لباس پہنایا جو لباس لوگ پہنتے ہیں“

فہما مقاما رب العالمین وحجاہا خالق الخلاق اجمعین بہما فتح

بدء الخلاق وبہما یختم الملک والمقادیر

”یہ دونوں خدا کے جانشین ہیں اور خالق کائنات کا حجاب ہیں۔ خلقت کا

آغاز ان دونوں سے کیا، کائنات اور مقدرات کا اختتام ان دو کے ساتھ

فرمائے گا“

پس فاطمہ علیہا السلام کو نور محمدؐ سے پیدا کیا جیسے نور محمدؐ کو اپنے نور سے اخذ کیا تھا۔ اور علی و فاطمہ علیہما السلام کے نور سے حسن و حسین علیہما السلام کے نور کو پیدا کیا۔ اس نور کی مانند جو چراغوں سے لیا جاتا ہے یہ ہتیاں نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف ایک باپ کے صلب سے دوسرے باپ کی صلب کی طرف اور ایک ماں کے رحم سے دوسری ماں کے رحم کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ نہ یہ کہ گندے پانی سے اور نجس و پست نطفے سے ہیں بلکہ ایسا نور ہیں جو پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوئے ہیں اس لئے کہ وہ چنے ہوئے موتیوں سے ہیں۔

اصطفا ہم لنفسه وجعلہم خزان علمه وبلغاء الی خلقه اقامہم مقام

نفسه لانه لا یری ولا یدرک ولا تعرف کیفیتہ ولا اینیتہ

”ان ہستیوں کو خدا نے اپنے لئے منتخب کیا اور چنا ہے۔ انہیں اپنے علم کے

خزانوں کا محافظ بنایا ہے، لوگوں تک اپنا پیغام رساں قرار دیا ہے، ان کو اپنا قائم

مقام بنایا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھا نہیں جاتا اور اس کو درک نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی

کیفیت کی معرفت نہیں ہو سکتی اور اس کے مکان کی شناخت نہیں ہو سکتی“

فہولاء الناطقون المبلغون عنہ، المتصرفون فی امرہ ونہیہ فہم

یظہر قدرتہ ومنہم تری آیاتہ ومعجزاتہ وبہم ومنہم عرف عبادہ

نفسہ وبہم یتطاع امرہ

”یہ وہ حضرات ہیں جو خدا کی طرف سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اس کے امر و نہی کو واضح و روشن کرتے ہیں، پس ان کے ذریعے سے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنی نشانیوں معجزات کو دکھلایا، انہی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے سے آشنا کروایا اور انہی کے سبب سے اس کے فرمان کی اطاعت ہوئی“

ولو لا هم ما عرف الله ولا يدري كيف يعبد الرحمن  
 ”اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہوتی اور پتہ نہ چلتا کہ رحمن کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اور خدا وہ ذات ہے جس طرح ارادہ کرتا ہے اسی انجام دیتا ہے“  
 ارشاد قدرت ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ. (سورہ انبیاء: آیہ ۲۳)  
 ”خدا جو کرتا ہے اس کے متعلق سوال نہ ہوگا لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ ان سے سوال کیا جائے گا“

(بخاری الاوار: ۳۵/۲۸ حدیث ۲۳، تفسیر برہان: ۳/۱۹۳ حدیث ۷، تاویل الایات: ۱/۳۹۷ حدیث ۲۷)

## شب معراج

(۱۹) کتاب ”المختصر“ میں رسول خداؐ سے منقول ہے کہ جب شب معراج مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور عرض کی: اے محمدؐ! جو آپ سے پہلے رسالت پر مبعوث ہوئے ہیں ان رسولوں سے سوال کریں کہ وہ کس عقیدہ پر مبعوث کئے گئے ہیں؟ میں نے ان سے سوال کیا، اے خدا کے رسولو! تم مجھ سے پہلے کس عقیدہ پر رسول بنائے گئے ہو؟ ان تمام نے عرض کیا:

علی ولایتک و ولایۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام



”آپ کی اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر مبعوث ہوئے ہیں“

(المختصر: ۱۲۵، بحار الانوار: ۲۶۰/۳۰۷ حدیث ۷۰)

## محاسبہ نفس

(۲۰) تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں آیہ شریفہ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) کی تفسیر

میں آنحضرتؐ سے منقول ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا: يَوْمِ الدِّينِ سے مراد وہ

دن ہے جس دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔

مزید فرمایا: کیا تمہیں ذہین ترین افراد (نابغہ) اور احمق ترین اشخاص کے متعلق

بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ارشاد ہو۔

آپ نے فرمایا:

اَكْبَسُ الْكَبْسَيْنِ مَنْ حَاسِبَ نَفْسِهِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَاحْمَقُ

الْحَمَقَاءُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْإِمَانِي

”عقلند ترین اور باہوش ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور

موت کے بعد عالم برزخ کے لئے عمل بجالائے، اور احمق ترین وہ ہے جو

خواہشات نفس کی پیروی کرے اور امیدوں کے ساتھ دل باندھ لے اور ان

کا خدا سے تقاضا کرے“

اس وقت ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ کس طرح انسان

اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے اور اپنی باز پرس کر سکتا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: جب سارا دن

گزرنے کے بعد رات آئے تو خود اپنی طرف توجہ کر لے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے

کہے۔ اے نفس! جو دن گذر چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، خدا تجھ سے سوال کرے گا کہ وہ

دن تم نے کیسے گزارا اور اس میں کون سا عمل انجام دیا؟ کیا خدا کو یاد کرتے رہے ہو اور اس

کی حمد میں مشغول رہے ہو؟ کیا اپنے مومن بھائی کا حق ادا کیا ہے؟ یا دکھ درد کو اس سے دور کیا

ہے؟ کیا اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال اور اولاد کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے؟ کیا اس کی موت کے بعد اس کے وارثوں کے متعلق حرمت کی حفاظت کی؟ کیا ایک مومن بھائی کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے؟ کیا کسی مسلمان کی مدد کی؟ آج کون سا کام انجام دیا ہے؟ اپنے تمام کاموں کو یاد کرو۔

فان ذکر انه جرى من خير حمد الله عزوجل وكبره على توفيقه  
وان ذكر معصية او تقصيرا استغفر الله عزوجل وعزم على ترك  
معاودته و محا ذلك ( عن نفسه ) بتجديد الصلوة على محمد  
وآله الطيبين و عرض بيعة امير المومنين على نفسه وقبولها واعادة  
لعن شائنيه واعدائه وادافعيه عن حقوقه

”اگر دیکھے کہ اس کے تمام کام اچھے تھے تو خدا کی حمد کرے اور اس کی کبریائی بیان کرے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی تاکہ میں اچھے کام انجام دے سکوں۔ اور اگر اپنے نامہ اعمال میں غلطی اور خطا کو دیکھے تو خدا سے مغفرت طلب کرے اور عہد کرے کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور ان گناہوں کو بار بار درود پڑھنے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرنے اور اس کے قبول کرنے، ان کے دشمنوں جنہوں نے ان کے حق کو غصب کیا اور ان کے مقام سے محروم کیا پر لعنت کرنے اور نفرت کرنے کے ذریعے سے نامہ اعمال سے محو کرے۔ جب کوئی مومن ایسا کرے گا تو خدا تبارک و تعالیٰ فرمائے گا“

لست انا فاشك في شئ من الذنوب مع مواليتك اوليائي  
ومعادتك اعدائي

”میرے اولیاء کے ساتھ تیری ولایت کی وجہ سے اور میرے دشمنوں کے ساتھ تیری برأت کی وجہ سے میں تیرے حساب میں تیرے گناہوں کی وجہ

سے سخت گیری نہیں کروں گا“ (تفسیر امام عسکری: ۳۸، بحار الانوار: ۷۰/۶۹ حدیث ۱۶)

## نورانی چہرہ

(۲۱) ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا:

من قال لا اله الا الله تفتحت له ابواب السماء ومن تلاها بمحمد  
رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك ومن تلاها  
بعلى ولى الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر

(الروضة: ۲، بحار الانوار: ۳۸/۳۱۹ حدیث ۲۷)

”جو کوئی بھی ”لا اله الا الله“ کہے تو آسمان کے دروازے اس کے لئے کھل  
جاتے ہیں اور جو اس کے بعد ”محمد رسول الله“ کہے تو خدا کا چہرہ نورانی ہو  
جاتا ہے اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور جو کوئی اس کے بعد ”علی ولی الله“  
کہے تو خدا تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگر چہ اس کے گناہ بارش  
کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں“

## نبیوں میں افضل کون؟

(۲۲) شیخ صدوق کتاب ”امالی“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپؑ نے

فرمایا: ایک یہودی پیغمبر اسلامؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، آنحضرتؐ کو گھو گھور کر  
دیکھنے لگا۔ رسول خداؐ نے اس سے فرمایا: اے یہودی! میرے ساتھ کوئی کام ہے کوئی  
حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا: میں آپؐ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپؐ افضل  
ہیں یا موسیٰ بن عمرانؑ کہ جن کے ساتھ خدا نے کلام فرمایا، ان پر تورات نازل کی، ان  
کو عصا عطا کیا، جن کے لئے دریا پھٹ گیا اور بادلوں کو حکم دیا کہ ان پر سایہ کریں؟  
پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ کسی کو اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن تیرے جواب میں  
انتنا کہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی تو انہوں نے توبہ کرنے کے لئے یوں کہا:



اللهم انى اسالك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لى  
 ”اے خدا! تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد وآل محمد کے حق کے صدقے میں  
 مجھے معاف فرما دے“ تو خدا نے انہیں معاف کر دیا۔

اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں غرق ہونے سے ڈرے تو کہا:  
 اللهم انى اسالك بحق محمد وآل محمد لما العجيتنى من الغرق  
 ”اے خدا! بحق محمد وآل محمد علیہم السلام مجھے غرق ہونے سے نجات دے۔“  
 خدا نے انہیں نجات دی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا  
 گیا تو انہوں نے کہا:

اللهم انى اسالك بحق محمد وآل محمد لما العجيتنى منها  
 ”اے خدا محمد وآل محمد کے صدقے میں مجھے آگ سے نجات دے“  
 خدا نے انہیں نجات دی اور آگ کو ان پر سرد کر دیا  
 اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور ڈرنے لگے تو کہا:

اللهم انى اسالك بحق محمد وآل محمد لما امتنيتنى  
 ”اے خدا تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس خوف و ہراس سے  
 نجات عطا فرما“

خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْآعْلَى (سورۃ طہ: آیہ ۶۸)

”مت ڈرو کیونکہ تو ہی بلند و کامیاب ہوگا“

اے یہودی! اگر موسیٰؑ اس زمانے میں آجائے اور مجھے پالے اور پھر مجھ پر اور  
 میری نبوت پر ایمان نہ لائے تو ان کا ایمان اور نبوت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔  
 يا يهودى ومن ذريتي المهدي عليه السلام اذا خرج نزل عيسى بن  
 مريم لنصرته فقدمه وصلى خلفه

”اے یہودی میری نسل میں سے مہدیؑ جب ظہور کریں گے تو عیسیٰ بن مریمؑ آسمان سے ان کی مدد کے لئے نازل ہوں گے اور نماز کے وقت عیسیٰ بن مریمؑ مہدیؑ کو آگے کریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور اگر مویؑ اس زمانے میں زندہ ہوتے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ میری متابعت اور پیروی کرتے“

(امالی صدوق: ۲۸۷ حدیث ۴، مجلس ۳۹، الاحتجاج: ۵۳/۱، بحار الانوار: ۱۶/۳۶۶ حدیث ۷۲)

### پل صراط اور محبت

(۲۳) ابن بابویہ کتاب ”بشارة الہیۃ“ میں امام صادق علیہ السلام سے اور حضرت اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

البتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتہ

”پل صراط سے گزرتے وقت سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جس کی محبت میرے اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ ہوگی“

### حوض کوثر کا سردار

(۲۴) سید بن طاووس کتاب ”ظراف“ میں امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ رسول

اکرمؐ نے فرمایا: اے علیؑ! میں تمہیں حوض کوثر پر کھڑا کروں گا۔ تو ساقی ہے اور اپنے دوستوں کو پانی پلاؤ گے، حسن علیہ السلام غیروں کو حوض سے دور کریں گے، حسین علیہ السلام وہاں حکم جاری کریں گے، علی بن الحسین علیہ السلام ان کو تقسیم کریں گے محمد بن علی علیہ السلام حصے کریں گے، جعفر بن محمد علیہ السلام ان کے پیشوا اور راہنما ہوں گے، مویؑ بن جعفر علیہ السلام دوستوں کو دشمنوں کو شمار کریں گے اور منافقوں کو ہلاک کریں گے، علی ابن مویؑ علیہ السلام مومنین کو زینت دیں گے اور انہیں آراستہ کریں گے، محمد بن علی علیہ السلام اہل بہشت کو ان کے مخصوص مقامات پر بٹھرائیں

گئے۔ علی بن محمد علیہ السلام مومنوں کی حور العین کے ساتھ شادی کرائیں گے اور ان کا خطبہ عقد پڑھیں گے۔ اور حسن بن علی علیہ السلام اہل بہشت کے لئے ایک روشن چراغ ہیں کہ جن کے نور سے وہ نورانیت حاصل کریں گے۔

والمہدی علیہ السلام شفیعہم یوم القیامۃ حیث لا یاذن الا لمن یشاء وبرضی

”اور مہدی علیہ السلام اس وقت اپنے دوستوں کی شفاعت کریں گے جب کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہ جسے خدا اجازت دے گا“

(بخاری الانوار: ۲۶/۳۱۶ حدیث ۸۰)

### ہندوستان میں ایک درخت

(۲۵) ابن شہر آشوب علیہ الرحمۃ کلب نامی ایک شخص سے نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے: میں نے ہندوستان کے ایک شہر میں ایک درخت کو دیکھا جس کے پھول سرخ رنگ کے تھے اور ان پر لکھا ہوا تھا۔ ”محمد رسول اللہ“ اور بہت سے ایسے درخت اور پتھر بھی دیکھے جن پر نام مبارک محمدؐ اور علیؑ علیہ السلام لکھا ہوا تھا۔

(لسان المیزان: ۴/۳۹۰ حدیث ۱۵۵۸، معینۃ العاجز: ۲/۳۶۰ ج ۱ ص ۶۸۰)

### کشتی پر سواری

(۲۶) کتاب بستان الواعظین میں محمد بن ادریس سے نقل کرتے ہیں کہ عیسائیوں کے ایک رہبر کو مکہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس سے کہا: وہ کون سی وجہ ہے کہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے روگردان ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ اس دین سے بہتر دین میں نے اپنا لیا ہے۔ مزید کہا: میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھا کہ اچانک وسط سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے کے ساتھ چمٹ گیا۔ سمندر کی موجیں مجھے کبھی ادھر اور کبھی ادھر لے جاتی تھیں یہاں تک کہ میں



ایک جزیرہ میں جا پہنچا کہ جس میں گھنے درخت تھے۔ اور ان پر شہد جیسے پھل تھے۔ جزیرہ کے درمیان ایک نہر گذرتی تھی جس میں میٹھا پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اس نعمت پر خدا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ درختوں کے پھل سے کچھ کھانا چاہا اور نہر سے پانی بھی پینا چاہیے تاکہ تیری جان میں جان آئے اور تو موت کے منہ سے بچ سکے۔ میں نے پورا دن اس جگہ گزارا، جب رات ہوئی تو ڈرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی درندہ آ کر مجھے تکلیف پہنچائے۔ ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اور ایک شاخ کا سہارا لے کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے پانی کے اوپر کسی کو چلتے دیکھا جو خدا کی تسبیح پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا:

لا اله الا الله العزيز الجبار محمد رسول الله النبي المختار على  
ابن ابي طالب سيف الله على الكفار، فاطمة وبنوها صفوة الجبار،

على مبغضيه لعنة الله الجبار، وما واهم جهنم وبئس القرار  
”خدائے جبار کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد خدا کے رسول اور اس کے منتخب  
نبی ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کی تلوار ہے کافروں پر اور فاطمہ  
علیہا السلام اور اس کے بیٹے خدا کے پسندیدہ ہیں۔ ان کے دشمنوں پر خدائے  
جبار کی لعنت اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ اس تسبیح کا تکرار کرتا  
رہا یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ پھر اس نے کہا: اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی  
معبود نہیں ہے وہ اپنے کئے ہوئے وعدوں میں سچا ہے، محمد اس کے رسول جو  
ہدایت کرنے والے اور باعث رشد و کمال ہیں، علی علیہ السلام کے دشمنوں پر  
بڑا سخت عذاب ہے۔ فاطمہ اور اس کے بیٹوں کو پسندیدہ اوصاف والے خدانے  
چنا ہے اور ان کے دشمنوں پر صاحب عزت و عظمت والے خدا کی لعنت ہو۔

جب وہ خشکی پر پہنچا تو میں نے اسے اچھی طرح دیکھا کہ اس کا سر شتر مرغ کی  
طرح، شکل انسان کی مانند ہاتھ اور پاؤں اونٹ کی مثل اور دم مچھلی کی دم کی طرح تھی۔ میں

بہت ڈر گیا کہ اب نہیں بچوں گا۔ میں بھاگنے لگا۔ ایک آواز میرے کانوں میں سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا رک جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، میں اسی جگہ رک گیا۔ اس نے مجھ سے کہا: تو کونسا دین رکھتا ہے؟ میں نے کہا: نصرانی ہوں۔ اس نے کہا: افسوس ہے تجھ پر۔ ابھی اسلام قبول کر لو کیونکہ تو اس وقت جنوں کے ایک مسلمان گروہ کے درمیان ہے اور یہاں پر صرف وہ بچ سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ میں نے اس سے کہا: کیسے اسلام لاؤں؟ اس نے کہا کہ خدا کی وحدانیت اور محمدؐ کی رسالت کی گواہی دو اور کہو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ میں نے یہ گواہی دی اور اسی طرح کہا: پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے اسلام کو علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ساتھ مکمل کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ عقائد تیرے تک کیسے پہنچے اور تجھے کس نے سکھائے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم جنوں میں سے ایک گروہ رسول خداؐ کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور آنحضرتؐ سے سنا کہ آپؐ نے فرمایا: جب قیامت آئے گی تو بہشت ایک بلند اور فصیح زبان کے ساتھ ندا کرے گی۔

یا الہی قلدو عدتنی تشد ارکانی و تزینتی

”اے پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے ارکان کو مضبوط اور مجھے تزئین فرمائے“

خدائے تبارک و تعالیٰ فرمائے گا:

قد شددت ارکانک وزینتک باہنۃ حبیبی فاطمۃ الزہراء وبعلمها  
علی ابن ابی طالب وابنیہما الحسن والحسین والتسعة من ذریۃ  
الحسین علیہم السلام.

”میں نے تیرے ارکان کو مضبوط کر دیا ہے اور تجھے اپنے حبیب کی بیٹی فاطمۃ الزہراءؑ اس کے شوہر علی ابن ابیطالبؑ ان کے دو بیٹے حسنؑ اور حسینؑ اور اولاد حسینؑ میں سے لو کے ذریعے عزین کیا ہے“

پھر اس جزیرے کی عجیب و غریب مخلوق نے مجھ سے کہا: اس جگہ رہو گے یا اپنے

وطن واپس جاؤ گے۔ میں نے کہا: واپس جاؤں گا۔ اس نے کہا: تھوڑا سا صبر کرو۔ اگر کوئی کشتی یہاں سے گذرے تو تمہیں سوار کر دیں گے، اچانک ایک کشتی کو پانی میں دیکھا اسے اشارہ کیا: اور مجھے ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے اس کی طرف بھیج دیا۔ جب میں اس کشتی میں سوار ہوا تو گروہ نصاریٰ سے بارہ آدمیوں کو میں نے اس میں دیکھا اور جب تمام قصہ ان کو سنایا تو تمام کے تمام اسلام لے آئے۔

## ناصی لوگ کون؟

(۲۷) محمد بن یعقوب، ابن اذینہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ناصی (جو لوگ آل محمد صلیہم السلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہوں) لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں، کس موضوع کے بارے میں، آپ نے فرمایا: اپنی اذان، رکوع اور سجدوں کے متعلق، میں نے عرض کیا وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی کعب نے ان چیزوں کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا: جھوٹ کہتے ہیں خدا کا دین اس سے بلند تر ہے کہ خواب میں دیکھا جائے۔ حضرت کے اصحاب میں سے سدیر نام کے ایک شخص نے عرض کیا: مولانا! آپ پر قربان جاؤں۔ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب خدا اپنے پیغمبر کو سات آسمانوں پر لے گیا تو پہلے مرحلہ میں آپ کے وجود کو بابرکت اور خیر و رحمت کا سرچشمہ قرار دیا۔ دوسرے سرحد میں آپ کو نماز کی تعلیم دی پھر ایک نور کا کجاوہ آپ کی طرف بھیجا جس میں چالیس طرح کے انوار تھے۔ جو عرش الہی کے اطراف کا احاطہ کئے ہوئے تھا۔ اور دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ تھیں، ان نوروں میں سے ایک زرد رنگ کا تھا اب جو چیزیں بھی زرد رنگ کی ہیں وہ اسی نور کی وجہ سے ہے۔ ایک نور سرخ رنگ کا تھا۔ اور سرخ رنگ چیزوں نے اس سے سرخی حاصل کی ہے۔ ایک نور سفید رنگ کا تھا۔ اور تمام سفیدی اس کی وجہ



سے ہے اور باقی انوار دوسری مخلوقات کے رنگ کی طرح تھے۔ اس کجاوہ کا دستہ اور زنجیر چاندی کے تھے۔ پیغمبر اکرمؐ اس میں بیٹھ گئے اور انہیں آسمان کی طرف لے گئے، فرشتوں نے جب دیکھا تو ایک طرف ہو کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ”سبوح قدوس“ پاک و منزہ ہے پروردگار، یہ نور کس قدر ہمارے خالق کے نور کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جبرائیل نے کہا: ”اللہ اکبر“ تمام فرشتے خاموش رہے پھر آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے، گردہ در گردہ بن کر فرشتے آنے لگے اور حضرت پر سلام کرتے اور کہتے۔ اے محمدؐ آپ کا بھائی کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھا ہے فرشتوں نے عرض کیا: جب واپس جاؤ تو ان کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا: حضرتؐ نے فرمایا: کیا تم میرے بھائی کو جانتے ہو انہوں نے عرض کیا:

وكيف لا نعرفه وقد اخذ الله عز وجل ميثاقلك وميثاقه منا وشيعته  
الي يوم القيامة علينا وانا لتتصفح وجوه شيعته في كل يوم وليلة  
خمسا يعنون في وقت كل صلوة وانا لنصلي عليك وعليه  
”ہم کس طرح انہیں نہ جانتے ہوں؟ جب کہ خدا نے آپؐ اور ان کے متعلق ہم سے عہد و پیمان لیا ہے اور ہم علی علیہ السلام کے شیعوں کے چہروں کو پانچ نمازوں کے وقت میں غور سے دیکھتے ہیں اور ہم آپؐ اور آپ کے بھائی پر درود بھیجتے رہتے ہیں“

پھر خدا نے میرے لیے چالیس نوروں کا اضافہ کیا کہ ہر نور پہلے والے نور سے مختلف تھا ان کے دستے اور زنجیر چاندی سے بنائے۔ اس کے بعد مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے، جب دوسرے آسمان کی فضا کے قریب پہنچے تو فرشتے آسمان کی ایک طرف ہو کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے:

سبوح قدوس رب الملائكة والروح

”پاک۔ منزہ ہے فرشتوں اور روح کا پروردگار کس قدر یہ نور ہمارے خالق

کے نور کے ساتھ ملتا ہے“

پھر جبرائیل نے کہا:

اشهد ان لا اله الا الله

فرشتے جمع ہوئے اور جبرائیل سے سوال کیا کہ جس کو ساتھ لائے ہو وہ کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ محمدؐ کا وجود مبارک ہے۔ انہوں نے کہا: کیا ان کو رسالت عطا کی گئی ہے؟ جبرائیل نے کہا: ہاں! رسول خداؐ نے فرمایا کہ فرشتے آ کر مجھے ملنے لگے اور سلام کرنے لگے اور کہا کہ اپنے بھائی کو ہمارا سلام عرض کرنا۔ میں نے ان سے کہا: کیا تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا: کس طرح انہیں نہ جانتے ہوں؟ جب کہ خدا نے ہم سے آپؐ آپ کے بھائی اور ان کے شیعوں کے بارے میں قیامت کے دن تک عہد و پیمان لیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے بھائی کے شیعوں کے چہروں کی طرف پانچ نمازوں کے وقت غور سے دیکھتے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا: پھر پہلے چالیس نوروں سے مختلف دوسرے چالیس انوار کا اضافہ ہوا اور چاندی کا دستہ اور زنجیر مجھے دی گئی پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ اس آسمان کے فرشتے ایک طرف جا کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے۔

سبح قدوس رب الملائكة والروح

”اور کہنے لگے یہ کس کا نور ہے جو ہمارے پروردگار کے نور کی مانند ہے؟“

جبرائیل نے پڑھا:

اشهد ان محمدا رسول الله

تمام ملائکہ نے جمع ہو کر آنحضرتؐ سے عرض کیا: اے خدا کی پہلی اور آخری مخلوق خوش آمدید۔ اے وہ جو تمام لوگوں کو جمع اور انہیں تقسیم کرنے والے ہو۔ محمدؐ تمام پیغمبروں کے درمیان بہترین پیغمبر ہیں اور علیؑ علیہ السلام تمام اوصیاء کے درمیان بہترین وصی ہیں۔ رسول خداؐ نے فرمایا کہ پھر فرشتوں نے مجھ پر سلام کیا اور میرے بھائی علیؑ علیہ السلام کے متعلق مجھ سے سوال کیا، میں نے ان سے کہا کہ میں اسے آسمانوں پر نہیں لایا وہ زمین پر ہے کیا تم اسے

جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا:

کیف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور كل سنة وعليه رق ابيض فيه اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والائمة واسم على والحسن والحسين عليهم السلام وشيعتهم الى يوم القيامة وانا لنبارك عليهم كل يوم وليلة خمسا يعنون في وقت كل صلوة يمسخون رؤوسهم بايديهم.

”ہم کس طرح انہیں نہ جانتے ہوں درحالانکہ ہر سال ہم بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں وہاں ایک سفید رنگ کا ورقہ ہے جس پر محمدؐ، علیؑ، حسنؑ، حسینؑ اور دوسرے ائمہ کے اسماء اور قیامت تک کے آنے والے ان کے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ہم ہر روز پانچ وقت کی نمازوں کے اوقات میں ان کے شیعوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ان کے وجود میں خیر و برکت عطا فرمائے“

آنحضرتؐ نے فرمایا: پھر پہلے والے چالیس نوروں سے مختلف دیگر چالیس نور، چاندی کا دستہ اور زنجیر میرے لئے بڑھا دیئے گئے، اور مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اس جگہ فرشتے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہاں صرف مختلف قسم کی آوازوں کو میں نے سنا، فرشتے جمع ہو گئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور سب کے سب میری طرف اس طرح آئے جیسے کسی کے ساتھ معافہ کرتے ہیں: جبرائیل نے دو مرتبہ کہا: ”حی علی الصلوٰۃ“ اس کے بعد دو مرتبہ کہا ”حی علی الفلاح“ فرشتوں نے کہا: یہ دو آوازیں ایک دوسرے کے قریب اور جانی پہچانی ہیں محمدؐ کے ذریعے سے نماز پڑھی جائے گی اور علیؑ علیہ السلام کے سبب نجات اور فلاح تک پہنچیں گے۔ پھر جبرائیل نے دو مرتبہ کہا ”قد قامت الصلوٰۃ“ فرشتوں نے کہا: یہ مخصوص ہے قیامت تک شیعوں کے لئے، شیعہ ہی نماز قائم کریں گے۔ اس وقت فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا۔ آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا: کیا تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا:



نعرہ وشیعہ وہم نور حول عرش اللہ وان فی البیت المعمور قالبا من نور فیہ کتاب من نور فیہ اسم محمد و علی والحسن والحسین والآئمۃ وشیعہم الی یوم القیامۃ لا یزید فیہم رجل ولا ینقص منہم رجل والہ لمیشاقنا (الذی اخذ علینا) وانہ لیقراء علینا فی کل یوم الجمعۃ

”ہم انہیں اور ان کے شیعوں کو جانتے ہیں وہ عرش الہی کے ارد گرد نور ہیں بیت المعمور میں نور کا تختہ ہے جس میں محمدؐ، علیؑ، حسنؑ، حسینؑ، دیگر آئمہؑ اور قیامت تک ان کے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ شیعوں کی تعداد میں نہ کسی کا اضافہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کم ہوتا ہے اور یہ وہ عہد و بیان ہے جو ہم سے لیا گیا ہے۔ اور ہر جہہ کے دن اسے ہمارے لئے پڑھا جاتا ہے۔“

اس حدیث میں وضو، رکوع اور سجود کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ ہم نے صرف اپنے موضوع کے ساتھ مربوط حصے کو ذکر کیا ہے۔“

(الکافی: ۳/۳۸۲ حدیث ۱، علل الشرائع: ۳۱۲ حدیث ۱، بحار الانوار: ۱۸/۳۵۵ ح ۶۶)

مؤلف کہتے ہیں کہ حدیث معراج پر دو اعتراض کئے گئے ہیں ایک یہ کہ آسمانوں سے گذرنے کی وجہ سے لازم یہ آئے گا کہ آسمانوں میں شکاف پڑ جائے اور پھر دوبارہ آپس میں مل جائیں۔ دوسرا اعتراض یہ کہ ایک بھاری اور وزنی جسم کس طرح اوپر جا سکتا ہے اور آسمان تک پہنچ سکتا ہے؟ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے آسمان ایک لطیف جسم ہو جیسے کہ پانی یا مثل پانی، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے۔ تعجب تو اس بات پر کرنا چاہیے کہ عالم لاہوت سے اس عالم خدا کی طرف آگئے نہ یہ کہ یہ اوپر کس طرح چلے گئے کیونکہ وہ تو ہیں ہی اوپر سے، بلکہ ان کا وجود کائنات کی خلقت کا سبب اور علت ہے۔ جیسا کہ بہت سی روایات میں اس مفہوم کا ذکر ہو چکا ہے۔

## ایک شخص اور آگ

(۲۸) شیخ مفید علیہ الرحمۃ کتاب ”امالی“ میں امام باقر علیہ السلام سے اور حضرت اپنے اباؤ و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا: جب قیامت آئے گی اہل بہشت، بہشت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک شخص آگ کے درمیان ستر خریف اور ہر خریف ستر سال کا ہوگا۔ رہنے کے بعد خدا کو پکارے گا اور کہے گا:

یارب اسالک بحق محمد و اہل بیتہ لما رحمتی

”اے پروردگار تجھ سے بحق محمد و آل محمد علیہم السلام سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحمت فرما۔ اس وقت خدا جبرائیل کو حکم دے گا کہ ہمارے اس بندے کے پاس جاؤ اور اسے جہنم سے باہر نکال دو، جبرائیل عرض کرے گا کہ پروردگار میں آگ میں کیسے جاؤں؟ دربار خداوندی سے آواز آئے گی کہ ہم نے حکم دیا ہے لہذا آگ تمہارے لئے سرد اور بے ضرر ہو جائے گی“

جبرائیل عرض کرے گا: مجھے اس کی جگہ کا علم نہیں ہے۔ خدا فرمائے گا: جہنم میں مقام سجین کے کنویں میں ہے۔ جبرائیل فوراً دوزخ کی طرف آئے گا اور اسے وہاں گرفتار دیکھے گا خدا کے حکم کے مطابق اسے آزاد کر دے گا۔ اس وقت وہ شخص دربار خداوندی میں اس بات کا منتظر ہوگا کہ اب کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرمائے گا۔ اے میرے بندے کس وقت سے مجھے یاد کر رہے ہو وہ عرض کرے گا: خدایا! مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ خدا فرمائے گا:

اما عزتی وجلالی لولا ما سالتنی بحقہم عندی لا طلت ہوانک

فی النار ولکنہ حتم علی نفسی ان لا یسألنی عبد بحق محمد و اہل

بیتہ الا غفرت لہ ما کان بینی و بینہ وقد غفرت لک الیوم ثم یومر

بہ الی الجنة .

”میری عزت و جلالت کی قسم: اگر مجھے میرے عزیزوں کی حرمت کا واسطہ اور

قسم نہ دی ہوتی تو ایک لمبی مدت تک تو جہنم میں رہتا، لیکن میں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے محمد و آل محمد علیہم السلام کی قسم دے گا اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے بخش دوں گا۔ آج میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ پھر خدا کا حکم ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔“

(امالی مفید: ۲۱۸ حدیث ۶ مجلس ۲۵، بحار الانوار: ۳۱۲/۲۷۰ حدیث ۵۵)

کتاب ”تفسیر امام حسین عسکری علیہ السلام“ میں حضرت سے نقل ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو اس کے تین لاکھ ساٹھ ہزار رکن بنائے اور ساٹھ ہزار فرشتے پیدا کئے۔ اگر خدا ان فرشتوں میں سب سے چھوٹے (کم رتبہ والے) فرشتے کو اجازت دے کہ آسمانوں اور زمین کو نگل جائے تو اس کے دلیوں کے درمیان ایک وسیع و عریض بیابان ایک ذرے کی مانند ہوگا۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بندو! میرے عرش کو اٹھاؤ، وہ کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو بلند کیا تاکہ عرش کو اٹھائیں لیکن اس کو نہ اٹھا سکے، بلکہ اسے حرکت بھی نہ دے سکے۔ خدا تعالیٰ نے اتنی تعداد میں اور فرشتے پیدا کئے تاکہ ان کی مدد کریں لیکن وہ بھی عرش کو نہ ہلا سکے۔ ان کی تعداد میں دس گنا اضافہ کیا لیکن پھر بھی عرش کو حرکت نہ دے سکے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے مقابلے میں اتنے اور پیدا کئے لیکن یہ سب مل کر بھی عرش کو حرکت نہ دے سکے، خدا نے فرشتوں کو حکم فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ میں خود اپنی بے پایاں قدرت کے ذریعے اسے اٹھا لوں گا تمام فرشتے ایک طرف ہو گئے اور خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے اسے اٹھالیا۔ پھر فرشتوں میں آٹھ کو حکم دیا کہ میرے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھا لو۔ انہوں نے عرض کیا: اے پروردگار! ہم سب نے مل کر کوشش کی لیکن نہ اٹھا سکے، اب ان کے بغیر کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ خدا عزوجل نے فرمایا: میں دور کو نزدیک، بھاری کو ہلکا اور مشکل کو آسان کر دینے پر قادر ہوں۔ اور جو ارادہ کرو اس کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں ایسے کلمات تعلیم دوں گا کہ تم ان کلمات کو پڑھو گے تو آسانی سے اسے اٹھا لو گے۔ فرشتوں نے عرض کیا: وہ کون سے



کلمات ہیں۔؟ خدا نے فرمایا: کہو!

بسم الله الرحمن الرحيم: ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین

”شروع کرتا ہوں رحمن و رحیم اللہ کے نام کے ساتھ کوئی قدرت و طاقت

نہیں ہے سوائے خدا بلند و بالا کے اور درود و سلام ہو محمدؐ اور ان کی پاک و

پاکیزہ آل پر“

فرشتوں نے یہ ذکر پڑھا اور عرش الہی کو کندھوں پر اٹھالیا۔ یہ عرش اتنا ہلکا ہو گیا تھا جیسے کسی طاقتور اور جسیم شخص کے کندھے پر کوئی بال اگا ہو۔ پھر خداوند عظیم الشان نے باقی فرشتوں سے فرمایا کہ یہ آٹھ نفر میرے عرش کو اٹھائیں گے اور تم اس کا طواف کرو، میری تسبیح اور حمد و ثناء کرو، اور یہ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے بے شک میں ہر چیز کی طاقت رکھتا ہوں۔

(تفسیر امام عسکریؑ: ۱۳۶: حدیث ۷۷، بحار الانوار: ۲۷/۹۷ حدیث ۶۰)

## ایک چرواہا

(۳۰) کتاب ”تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام“ میں حضرت سے نقل ہے کہ ایک دن

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک چرواہا اچانک وہاں وارد ہوا جس کا

وجود لرز رہا تھا اور اس کی حالت عجیب بنی ہوئی تھی۔ پیغمبر اکرمؐ نے جب دور سے

اسے دیکھا تو اپنے اصحاب سے فرمایا: اس شخص کو کوئی عجیب معاملہ پیش آیا ہے جس

کی خبر تمہارے پاس لایا ہے۔

جب چرواہا قریب ہوا تو رسول خداؐ نے اس سے فرمایا: جو حادثہ تجھے پیش آیا ہے

اسے ہمارے سامنے بیان کرو۔ اس نے عرض کیا: اے رسول خدا! بڑا عجیب اتفاق ہے کہ میں

اپنی بھیڑوں کے درمیان تھا، ایک بھیڑ آیا اور ایک بھیڑ اٹھالی میں نے اپنا گویا (جس میں

پتھر وغیرہ رکھ کر پھینکتے ہیں) اس کی طرف مارا اور بھیڑ کو چھڑوا لیا۔ اس نے دوبارہ بھیڑوں

کے دائیں طرف سے حملہ کیا اور ایک بھیڑ کو اٹھالیا۔ میں نے دوبارہ گویا کو اس کی طرف مارا اور بھیڑ کو آزاد کروالیا۔ پھر وہ بھیڑوں کے بائیں طرف سے حملہ آور ہوا اور ایک بھیڑ کو اٹھالیا۔ میں نے پھر وہی حربہ استعمال کیا اور بھیڑ کو آزاد کروالیا۔ اسی طرح چار مرتبہ ہوا۔ پانچویں دفعہ بھیڑ یا اپنی مادہ کے ساتھ آیا تاکہ بھیڑ کو اٹھا کر لے جائے۔ میں بھی دفاع کرنے کے لئے سامنے آ گیا۔ وہ اچانک ایک بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے میرے خدا کی طرف سے دی گئی میری روزی کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہو۔ کیا مجھے غذا کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی بھوک ختم کر سکوں؟ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کتنا عجیب ہے کہ یہ بھیڑ یا انسان کی طرح فصیح زبان میں میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا: کیا تمہیں اس سے عجیب تر مطلب بتلاؤں؟ محمدؐ پروردگار عالم کا رسول لوگوں کے درمیان ہے۔ انہیں ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں دے رہا ہے۔ گروہ یہود کو یقین ہے کہ پیغمبر خدا سچے ہیں کیونکہ انہوں نے آسمانی کتب میں اس بات کو پڑھا ہے کہ وہ سب سے سچا اور سب سے افضل ہے، پھر بھی اسے جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کو دردوں سے شفا اور جہالت اور گمراہی سے نجات دے گا۔

اے چرواہے! تجھ پر افسوس ہے تو ان پر ایمان لے آتا کہ عذاب الہی سے بچ سکے، میں نے کہا: تیری باتوں پر مجھے تعجب ہے، اور میں شرمندہ ہوں کہ تجھے تیری خوراک سے منع کیا ہے۔ اب تو ہے اور یہ میری بھیڑیں ہیں جس قدر چاہتے ہو ان سے کھالو، میں تجھے نہیں روکوں گا۔

بھیڑیئے نے کہا: اے بندہ خدا! خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ تو ان اشخاص میں سے ہے جو خدا کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس کے حکم کو ماننے والے ہیں لیکن بد بخت اور گمراہ وہ ہیں جو خدا کی قدرت کی نشانیوں کو محمدؐ اور ان کے بھائی علی علیہ السلام کے بارے میں مشاہدہ کرتے ہیں، جو عطا شدہ فضائل و کرامات میں یکتا، علم و دانش میں بے مثل، زہد و تقویٰ اور شجاعت میں یگانہ ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود پیغمبر اکرمؐ انہیں

حکم دیتے ہیں کہ ان کی اور ان کے اولیاء کی ولایت قبول کریں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ مزید فرماتا ہے کہ خدا ایسے شخص کا عمل چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، قبول نہیں کرے گا جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی اور دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مجھے تیرے منع کرنے سے عجیب تر اور حیران کن تر ہیں۔

اس کے بعد چرواہے نے کہا کہ میں نے بھیڑے سے کہا: کیا ایسا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں! اس سے بڑھ کر یہ کہ بہت جلد ان کو ناحق قتل کر دیں گے، ان کی اولاد کو قتل کریں گے اور ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ دین اسلام پر ہیں۔ جبکہ اپنے زمانے کے آقا کے ساتھ ایسا عمل کرتے ہیں کیا یہ عمل تیرے منع کرنے سے عجیب تر نہیں ہے؟ آخر کار ہمارا خدا ہمارے گروہ کو اس کام پر نامور فرمائے گا کہ ہم ان کو جہنم میں کھڑے کھڑے کریں اور ہم میں یہ خواہش پیدا کرے گا کہ ہم ان کو کھنچہ میں دیں، اور ان کو سخت ترین درد ورنج اور غم میں مبتلا کر کے لذت حاصل کریں۔

اس کے بعد چرواہے نے کہا: میں نے اس سے کہا: خدا کی قسم! اگر ان جانوروں کی حفاظت جو کچھ میرے ہیں اور کچھ امانت ہیں میرے ذمہ نہ ہوتی تو محمدؐ کی طرف جاتا اور زیارت کرتا۔ بھیڑیے نے کہا: اے خدا کے بندے! تو جا اور اپنی بھیڑوں کو میری حفاظت میں چھوڑ جا۔ میں نے اس سے کہا: میں تجھ پر کیسے اطمینان کر لوں؟ اس نے کہا: اے خدا کے بندے جس نے مجھے طاقت گویائی عطا کی ہے وہی حفاظت کی طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ کیا میں محمدؐ پر ایمان نہیں رکھتا، کیا جو کچھ انہوں نے اپنے بھائی علیؑ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے۔ اسے قبول نہیں کرتا؟ تم اپنے کام کی طرف جاؤ۔ میں ان کی حفاظت کروں گا: خدا اور اس کے مقرب فرشتے بھی میرے ساتھ محافظ ہوں گے، کیونکہ میں علیؑ علیہ السلام کے دوستوں کا خدمت گزار ہوں۔ اے رسول خدا! اس وقت میں اپنی بھیڑوں کو بھیڑیے اور اس کی مادہ



کے سپرد کر کے آیا ہوں، پیغمبر اکرمؐ نے اصحاب کے چہروں کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ کچھ چہرے مسرور تھے، جب کہ کچھ چہرے بوجہ شک و شکوک غمگین تھے اور منافقین ایک دوسرے سے سرگوشی میں مصروف تھے کہ پیغمبر اکرمؐ ایک منصوبے کے تحت ایسا ماحول بنا رہے ہیں تاکہ کمزور اور جاہل لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔

رسول خداؐ مسکرائے اور فرمایا: تمہیں اگرچہ شک ہے لیکن مجھے یقین ہے اور میرے اس ساتھی اور دوست کو بھی یقین ہے جو پروردگار عالم کے عرش کے عظیم ترین محل میں میرے قریب تھا اور چشمہ حیات میں میرے طواف کرتا تھا۔ وہ جس کے پاس میرے بعد نیک صفت لوگ کی راہنمائی کا عہدہ ہے وہ جو میرے ساتھ پاک ماؤں کے رحموں اور پاکیزہ صلبوں میں آتا جاتا رہا، وہ جو فضیلت اور برتری میں میرے ہم قدم رہا، وہ جو علم، حکمت اور عقل میں میرے جیسا ہے، وہ میرا ساتھی جو صلب اور صلب ابوطالب سے خارج ہوتے وقت مجھ سے جدا ہوا۔ اس کے جو فضائل اور کمالات ہیں وہ میرے مثل ہیں۔

أمنت به أنا والصديق الأكبر وساقى أوليائه من نهر الكوثر  
 ”میں اس واقعہ کو سچ جانتا ہوں، اور وہ بھی اس قصہ پر ایمان رکھتا ہے جو  
 سب سے بڑا سچا ہے اور اپنے دوستوں کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا“

أمنت به أنا والفاروق الأعظم وناصر أوليائه السيد الأكرم  
 ”میں اس کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں اور وہ بھی ایمان رکھتا ہے جو حق و باطل  
 کو جدا کرنے والوں میں سے سب سے بڑا ہے، میرے دوستوں کا مددگار  
 اور عظیم سردار ہے“

أمنت به أنا ومن جعله الله محنة لأولاد الفی والرشد وجعله  
 للموالین له الفضل العدة

”میں اس کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں اور وہ بھی ایمان رکھتا ہے جس کو  
 خدا نے گمراہوں اور ہدایت یافتگان کی اولاد کے لئے باعث امتحان اور ال

ولایت کے لئے بہترین سرمایہ قرار دیا ہے“

آمنت به انا ومن جعله لديني قواما ولعلمي علما وفي الحروب  
مقداما وعلى اعدائي ضرغاما اسدا لمقاما

”اس کے ساتھ میں ایمان رکھتا ہوں اور وہ بھی ایمان رکھتا ہے جو میرے  
دین کو قائم کرنے والا، اور میرے علوم کا وارث، جنگوں میں سب سے آگے  
ہوتا ہے اور میرے دشمنوں پر غضب ناک شیر کی مانند ہے“

آمنت به ومن سبق الناس الى الايمان فتقدمهم الى رضاء الرحمن  
تفرد دولهم بقمع اهل الطغيان وقطع بحججه وواضح بيانه معاذير  
اهل البهتان.

”اس کے ساتھ میں ایمان رکھتا ہوں اور وہ بھی ایمان رکھتا ہے جو ایمان  
لانے میں دوسروں سے سبقت لے گیا اور جو خالق کائنات کی رضا و خوشنودی  
کے حصول میں سبقت لے گیا۔ جس نے اکیلے سرکشوں کو سرگوں کر دیا، اور  
جس نے جھوٹ بولنے والوں اور تہمت لگانے والوں کے بہانوں کو دلیل  
کے ساتھ ختم کر دیا“

آمنت به انا وعلى بن ابي طالب الذي جعله الله لي سمعا وبصرا  
ويدا ومويدا وسندا وعظدا، لا ابالي من خالفني اذا وافقني ولا  
احفل بمن خذلني اذا نصرني ووازرني ولا اكثرث بمن ازور  
والحرف عني اذا ساعدني

”اس کے ساتھ میں ایمان رکھتا ہوں اور وہ بھی ایمان رکھتا ہے جس کو  
خدا نے میرے لئے کان، آنکھ اور ہاتھ قرار دیا ہے۔ جو میرا مددگار،  
میرا حمایتی اور میرا رکھوالا ہے۔ جب وہ میری حمایت کرتا ہے تو دوسروں کی  
مخالفت کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا اور جب وہ میرا مددگار ہوتا ہے تو جو مجھے رسوا

نے لوگوں کو محمدؐ کی پہچان کروائی ہے۔ اور اب علی علیہ السلام کہ جن کا تم نے نام لیا ان کی پہچان کرواؤ۔

دو بھیڑیے لوگوں کے درمیان آ کر سب کو غور سے دیکھنے لگے اور ہر ایک کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ علی علیہ السلام تک جا پہنچے۔ جب علی علیہ السلام کو دیکھا تو واضح اور اکساری کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر لیٹنے لگے اور آپ کے سامنے زمین پر پڑے پڑے کہنے لگے:

السلام عليك يا حليف الندى و معدن النهى، و محل الحجي،  
و العالم بمافى الصحف الاولى و وصى المصطفى السلام عليك  
يا من اسعد الله به محبيه و اشقى بعد اوته شانيه و جعله سيد آل  
محمد و زويه السلام عليك يا من لو احبه اهل الارض كما يحبه  
اهل السماء لصاروا لاصفياء و يا من لو احس باقل قليل من بفضه  
من انفق فى سبيل الله ما بين العرش الى الثرى لانقلب باعظم  
الغزى و المقت من العلى الاعلى.

”درود و سلام ہو اے صاحب بخشش اور جو انمردا اے سرچشمہ عقل اور اے وہ جو شائستگی اور لیاقت کا مقام ہے۔ وہ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے، وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے۔ درود ہو آپ پر اے وہ جس کے دوست اس کی محبت کے ساتھ سعادت مند ہوں گے، اور اس کے دشمن اس کی دشمنی کی وجہ سے بد بخت اور گمراہ ہیں۔ اور اے وہ جو اہل بیت پیغمبرؐ کے آقا اور سردار ہیں۔ درود ہو آپ پر اے وہ کہ اگر اہل زمین بھی اہل آسمان کی طرح آپ کو دوست رکھتے تو اصفیاء کے درجے تک پہنچ جاتے، اے وہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی دشمنی رکھتا ہو اگرچہ آسمان و زمین کے درمیان تمام چیزیں خدا کی راہ میں خرچ کر دے، پھر بھی خدا کی





جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اس حکم کی اطاعت کی اور آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

يَا ابْلَيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ. (سورۃ ص: آیت ۷۵)

”اے ابلیس کس چیز نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے جس کو میں نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا ہے کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ (یعنی ان پانچ مقدس نوروں میں سے ہے کہ جن کے نام پردہ عرش پر لکھے ہوئے ہیں“

فَنَحْنُ بَابُ اللَّهِ الَّذِي يُونِي مِنْهُ بَنُو الْيَهُودِ الْمُهْتَدُونَ فَمَنْ أَحْبَبَنَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَاسْكَنَهُ جَنَّتُهُ وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَاسْكَنَهُ نَارُهُ وَلَا يَحْبِنَا إِلَّا الْمَنْ طَابَ مَوْلَاهُ

”ہم رحمت خدا کا وہ دروازہ ہیں کہ جو بھی اسے حاصل کرنا چاہے اسے اس میں سے گزرنا ہوگا، ہدایت پانے والے ہم سے ہدایت پاتے ہیں، جو کوئی ہمارے ساتھ دوستی رکھے گا خدا اسے دوست رکھتا ہے اور اسے بہشت میں ٹھہرائے گا اور جو کوئی ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہوگا تو خدا بھی اسے دشمن رکھتا ہے اور اسے جہنم میں ڈالے گا، ہمیں صرف وہ دوست رکھتا ہے جس کی ولادت پاک ہو“

(فضائل الشیخ: ۳۹ حدیث ۷ بحار الانوار: ۱۱/۱۳۲ حدیث ۱۵۰۹/۲۱ حدیث ۳۳۲/۲۵ حدیث ۳۳۹/۳۹ حدیث ۳۰۶/۱۲۰)

## محبت اہل بیتؑ کی راہنمائی

(۳۲) تفسیر وکیع بن جراح میں آیہ شریفہ (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) کے ذیل میں

ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

قولوا معاشر العباد ارشدنا الى حب محمد واهل بيته  
 ”اے بندگانِ خدا: کہو! اے خدا ہمیں محمد اہل بیت محمد صلیہم السلام کی محبت  
 کی طرف راہنمائی فرما“

(الانساب: ۳/۷۲ بحار الانوار: ۲۳/۱۶ حدیث ۱۸، تفسیر برہان: ۵۲/۱: حدیث ۳۸، شواہد التنزیل: ۱/۵۸ حدیث ۸۷)

## نجات نوح

(۳۳) سید ہاشم بحرانی کتاب ”غلیۃ المرام“ میں ایک حدیث اہل سنت کی طرف سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو محمد مہملی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کی وجہ سے نجات ملی۔

سید بن طاووس کتاب ”امان الاخطار“ میں اس حدیث کو انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ جب خدا نے قوم نوحؑ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا: ایک ساج نامی درخت سے تختے کاٹ کر تیار کریں جب تختے بن گئے تو حضرت نوحؑ نہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور انہیں کشتی کی ایک شکل دیکھائی۔ اور ساتھ ایک صندوق لائے جس میں ایک لاکھ بیس تھیں۔ چنانچہ ایک کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ چمکی اور ایسے نور افشانی کرنے لگی۔ جیسے ایک روشن ستارہ آسمان میں چمکتا ہے۔ حضرت نوحؑ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، خدا نے اس میخ کو زبان دی۔ اس نے لب کشائی کی اور کہا: میں سردارِ انبیاء حضرت محمد بن عبد اللہ کے نام پر ہوں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے حضرت نوحؑ نے ان سے سوال یہ کوئی میخ ہے کہ اس کی مثل میں نے نہیں دیکھی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: یہ خدا کی تمام مخلوق میں سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ ہے، اس میخ کو کشتی کے دائیں طرف لگاؤ۔ نوح علیہ السلام نے دوسری میخ کو



اٹھایا وہ بھی چمکی اور اس سے نور نکلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے متعلق سوال کیا؟ جبرائیل نے کہا: یہ میخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی علیہ السلام کے نام پر ہے، اس میخ کو کشتی کی بائیں طرف لگاؤ۔ جب تیسری میخ کو ہاتھ میں لیا تو وہ بھی چمکی اور روشن ہوگئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میخ فاطمہ علیہا السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ اس میخ کو اس طرف لگاؤ جس طرف ان کے والد بزرگوار کی میخ لگائی ہے۔ حضرت نوح نے چوتھی میخ اٹھائی۔ وہ بھی چمکی اور نور افشانی کرنے لگی۔ جبرائیل نے فرمایا: یہ میخ حسن علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اس میخ کو ان کے والد بزرگوار کی میخ کی طرف لگاؤ، جب حضرت نوح نے پانچویں میخ کو پکڑا، تو وہ بھی چمکی اور روشن ہوئی اور اس کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت نوح نے عرض کیا: یہ گریہ کیسا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا: یہ میخ سید الشہداء حسین بن علی علیہما السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ اس میخ کو ان کے بھائی والی میخ کی ایک طرف لگاؤ، اور خدا تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے:

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِ وَذُشُرٍ. (سورہ قمر: آیت ۱۳)

”پیغمبر اکرمؐ نے اس کی تفسیر میں فرمایا:

الاولواح خشب السفينة ونحن الدسر لولانا ما سارت السفينة باهلها

”الاولواح کشتی کے تختے تھے اور دسر یعنی مینوں سے مراد ہم ہیں۔

(امان الاخطار: ۱۰۷، نوادر المحررات: ۶۴، حدیث ۲۸، بحار الانوار: ۲۶/۳۳۲، حدیث ۱۳)

مؤلف کہتا ہے: محمد بن نجار جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ مذاہب اربعہ کے نزدیک ایک مشہور و معروف اور سرشناس شخص ہے، پھر اس حدیث کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب اس کشتی کی نجات ان پانچ ہستیوں کی برکت سے ملی ہے تو یہ باعث تعجب نہیں ہے کہ جب انسان کسی سواری پر سوار ہو تو ان ہستیوں پر درود و سلام بھیجے اور ان کے مقامات عالی کی تعریف کرے تاکہ ہر قسم کی ہلاکت سے محفوظ رہے اور ان کی برکت سے اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ جو کوئی کشتی پر سوار ہونا چاہتا ہے۔ اور اسے کشتی کے غرق ہونے کا ڈر ہے تو اسے

چاہیے جس طرح حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ کشتی پر پانچ تن پاک کے نام مبارک لکھے یا کسی کاغذ پر لکھ کر چسپاں کر دے، بفضل کبریا ان پاک ہستیوں کے طفیل گوہر مقصود حاصل کرے گا۔

## ہادی کی ضرورت

(۳۳) ابن شاذان اہل سنت کی ایک روایت عبد اللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا: میرے واسطے سے تم پر حجت کامل ہوئی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں ہدایت دی گئی اور اس آیت کی تلاوت کی:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. (سورہ رعد: آیت ۷)

”تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لئے ہدایت کرنے والا ہے“

اس کے بعد فرمایا: حسن علیہ السلام کے توسط سے تمہیں احسان اور نیکی عطا کی گئی اور حسین علیہ السلام کے واسطے سے سعادت مند ہوگا وہ گروہ جو ان کی اطاعت کرے گا اور گمراہ ہوگا وہ گروہ جو ان سے جنگ کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا۔ پھر فرمایا:

الا وان الحسين باب من ابواب الجنة من عانده حرم الله عليه ربح الجنة

”جان لو! حسین علیہ السلام جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں جو

بھی ان کی مخالفت کرے گا خدا نے اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے“

(ماہیہ مفقودہ: ۲۲ منقبت ۲، بحار الانوار: ۳۵/۳۰۵ حدیث ۲۸، غایۃ المرام: ۲۳۵ حدیث ۶)

## وہ خدا کی عبادت کرتے تھے

(۳۵) ابن بابویہ، ابو حمزہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام سے سنا:

ان الله تبارك وتعالى خلق محمداً وعلياً عليهما السلام والآئمة

الاحد عشر عليهم السلام من نور عظمته ارواحاً في ضياء نوره

يعبدونه قبل خلق الخلق بسبعين الله عز وجل ويقدمونه وهم

الائمة الهادية من آل محمد عليهم السلام.

(کمال الدین: ۳۱۸ حدیث: ۱: بحار الانوار: ۲۳/۱۵: حدیث ۳۹ اور ۲۵/۱۵ حدیث ۲۸)

”خداوند تبارک و تعالیٰ نے محمدؐ علیہ السلام اور گیارہ اماموں کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا جب کہ وہ ارواح تھے اور نور کی روشنی میں مخلوق کی خلقت سے پہلے وہ خدا کی عبادت اور اس کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے اور وہ آل محمد علیہم السلام سے ہادی ہیں“

### متقی مومن

(۳۶) ابن بابویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :

لا یتیم الایمان الا بمحبتنا اهل البيت وان الله تبارک و تعالیٰ عهد الی انه لا یحبنا اهل البيت الا مومن تقی ولا یغضنا الا منافق شقی فطوبی لمن تمسک بی وبالأئمة الا طهار من ذریتی

”اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور یہ خدا تبارک و تعالیٰ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ متقی مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے شقی و منافق کے ہمارے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں رکھے گا۔ پس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے میرے اور میری اولاد میں سے آئمہ اطہار کے ساتھ تمسک کیا“

آنحضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد امام اور ہادی کتنے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: (عدد نقباء بنی اسرائیل) ”بنی اسرائیل کے راہنماؤں کی تعداد کے برابر“ (کافیۃ الاثر: ۱۱۰، بحار الانوار: ۳۶/۳۲: حدیث ۷۸، منتخب الاثر: ۲۸: حدیث ۸)

### اسلام ایک برہنہ بدن

(۳۷) ابن بابویہ کتاب ”امالی“ میں امام صادق علیہ السلام سے اور حضرت اپنے اباؤ و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:



الاسلام عریان فلباسه الحیاء وزینته الوفار ومروته العمل الصالح و

عماده الورع ولكل شی اساس واساس الاسلام حبنا اهل البيت

(امالی صدوق: ۱۶۱، المحاسن: ۲۸۶، الکافی: ۳۶/۲)

”اسلام ایک برہنے بدن کی مانند ہے، اس کا لباس حیاء ہے، اس کی زینت

وقار ہے، اور عمل صالح اس کی مروت ہے، اور ورع (یعنی واجبات کو انجام

دینا اور محرمات کو ترک کرنا اس کا ستون اور پایہ ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد

ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے“

### ذکر علی عبادت ہے

(۳۸) شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”اختصاص“ میں اصغ بن نباتہ سے نقل کرتے ہیں کہ

میں نے ابن عباس سے سنا اور انہوں نے رسول خداؐ سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

ذكر الله عزوجل عبادة و ذكرى عبادة و ذكر علي عبادة و ذكر

الاثمة من ولده عبادة

”خدا کا ذکر عبادت ہے، میرا ذکر عبادت ہے، علی علیہ السلام کا ذکر عبادت

ہے اور میری اولاد میں سے اماموں کا ذکر عبادت ہے“

اس ذات کے حق کی قسم جس نے مجھے رسالت پر مبعوث فرمایا اور اپنی مخلوق سے افضل

قرار دیا۔ میرا وحی اور جانشین تمام اوصیاء سے افضل ہے اور وہ خدا کی طرف سے اس کے بندوں

پر حجت اور مخلوق کے درمیان اس کا جانشین ہے، اس کی اولاد سے ہدایت کرنے والے ہیں، ان

کے واسطے سے خدا اہل زمین سے عذاب کو دور کرتا ہے اور ان کے سبب سے آسمان کو زمین پر

گرنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ مگر اس کی اجازت کے ساتھ انہی کے سبب سے پہاڑوں کو ریزہ

ریزہ ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ انہی کے سبب سے اپنے بندوں کو باران رحمت سے سیراب کرتا

ہے۔ ان کے سبب سے درخت، پھول اور دوسری بوٹیاں وغیرہ اگاتا ہے۔

اولئک اولیاء اللہ حقاً و خلفاؤه صدقاً عدتہم عدۃ الشہور وہی  
 الناعشر شہراً وعدتہم عدۃ نقباء موسیٰ بن عمران  
 ”وہ حقیقی خدا کے اولیاء اور اس کے سچے خلفاء ہیں، ان کی تعداد مہینوں کی  
 تعداد کے برابر ہے۔ جو کہ بارہ ہیں، ان کی تعداد موسیٰ بن عمران کے اوصیاء  
 کی تعداد کے برابر ہے“

پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:  
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. (سورہ بروج: آیت ۱)  
 ”اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے“

اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے ابن عباس! کیا تیرے خیال میں خدا نے جو  
 آسمان اور اس کے برجوں کی قسم کھائی ہے یہ آسمان اور اس کے برج ہیں؟ ابن عباس نے کہا  
 : اے رسول خدا! پھر اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا:

اما السماء فاننا واما البروج فالائمة بعدی اولہم علی علیہ السلام  
 و آخرہم المہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین

”آسمان سے مراد میں ہوں اور برجوں سے مراد میرے بعد آئمہ ہیں ان  
 میں سے پہلا علی علیہ السلام ہے، اور ان کا آخری مہدی علیہ السلام ہے“

(الاختصاص: ۲۱۸، بحار الانوار: ۳۶/۳۷۰ حدیث ۲۳۳، منتخب الاثر: ۶۰ حدیث ۶)

## ابلیس اور سات آسمان

(۳۹) شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے  
 فرمایا: ابلیس ”سات آسمانوں تک جا سکتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا  
 ہوئے تو تین آسمانوں پر جانے سے منع کر دیا گیا۔ صرف چار آسمانوں تک رسائی  
 تھی، اور جب حضرت محمدؐ پیدا ہوئے تو اسے تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا

گیا۔ اور شیاطین کو آسمانوں میں جانے سے ستاروں کے ذریعے سے روکا جاتا۔ قریش کہنے لگے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جو ہم اہل کتاب سے سنتے آئے ہیں۔ عمر بن امیہ جو زمانہ جاہلیت میں علم نجوم میں شہرت رکھتا تھا نے کہا: تم ستاروں کی طرف دیکھو، اگر وہ ستارے جن سے گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں راستوں کا پتہ معلوم کیا جاتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں تو سمجھ لو کہ مخلوق کی ہلاکت اور بربادی کا وقت آ گیا اور اگر ان ستاروں کے علاوہ دوسرے ستارے حرکت کرتے اور گرتے ہیں تو کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔

جس رات ولادت پیغمبر اکرمؐ ہوئی تو صبح کو دیکھا گیا کہ جہاں جہاں بت تھے سبھی زمین بوس پائے گئے۔ اس رات قیصر و کسریٰ کے محلات لرز اٹھے۔ اس محل کے چودہ کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ سادہ کی جمیل خشک ہو گئی۔ وادی سادہ میں پانی جاری ہو گیا۔ فارس کا آتش کدہ جو ایک ہزار سال سے مسلسل جل رہا تھا ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک مجوسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرکش اونٹ چند نسلی گھوڑوں کو کھینچ رہا ہے جو دجلہ سے عبور کر کے شہروں میں داخل ہو گئے ہیں۔ کسریٰ کا محراب ٹوٹ گیا اور دجلہ ٹوٹ کر پانی اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ حجاز کی طرف سے ایک ایسا نور اٹھا جس نے تمام مشرق کو روشن کر دیا، ہر بادشاہ کا تخت سرنگوں ہو گیا اور خود بادشاہ اس دن بات نہ کر سکتا تھا۔ نجومی کا علم اس دن بے کار ہو گیا جب کہ جادوگروں کا جادو باطل کر دیا گیا۔ عرب میں جتنے نجومی تھے سب کے مرید انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ عربوں میں قریش کو عظمت ملی اور آل اللہ کہلانے لگے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

انما سموا الہ اللہ لانہم فی بیت اللہ الحرام

”ان کو آل اللہ اس لئے کہتے تھے کیونکہ وہ حرم بیت اللہ میں تھے“

حضرت آمنہ علیہا السلام فرماتی ہیں: خدا کی قسم جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور دیکھا پھر ایک نور اس سے ظاہر ہوا، جس نے ہر طرف روشنی کر دی۔ اس روشنی کے درمیان ایک آواز میں نے سنی، کوئی کہہ رہا تھا:



انک قد ولدت سید الناس فسمیہ محمد

”تیرے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا جو تمام مخلوق کا سردار ہے اس کا نام محمد رکھو“

اور اسے عبدالمطلب کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اسے دیکھے۔ جب آنحضرت کو عبدالمطلب کے پاس لائے۔ آپ کی والدہ کی باتیں آپ کے متعلق حضرت عبدالمطلب تک پہنچ چکی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو پکڑا اور اپنی گود میں بٹھالیا اور کہا:

الحمد لله الذي اعطاني

هذا الغلام الطيب الاردان

قد ساد في المهد على الغلمان

”حمود ثناء ہے اس خدا کے لئے جس نے مجھے یہ نیک و پاک بچہ عطا فرمایا

ہے جو گوارہ میں کائنات کے تمام بچوں سے افضل ہے“

پھر آپ کو ارکان کعبہ کی پناہ میں دیا اور کچھ شعر پڑھے۔ اس وقت ابلیس نے جج ماری اور اپنی فوج کو بلایا۔ سب کے سب اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، ہمارے سردار کس چیز نے تجھے بے عقل کیا اور ڈرایا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس رات کے شروع سے ہی میں آسمان کی حالت عجیب و غریب قسم کی دیکھ رہا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ کیونکہ جب سے حضرت عیسیٰؑ کو آسمان پر پہنچایا گیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ جاؤ اور معلوم کرو کونسا واقعہ پیش آیا ہے؟

تمام کے تمام اس سے جدا ہوئے، پھر معلوم کرنے کے بعد آئے اور کہنے لگے جو کچھ تو کہہ رہا ہے ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔

ابلیس نے کہا: میں خود معلوم کرتا ہوں یہ میرا کام ہے۔ پھر وہ دنیا کی طرف گیا اور ہر جگہ پرواز کی، یہاں تک کہ حرم تک جا پہنچا۔ وہاں فرشتوں کو دیکھا کہ حرم کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، جب اس نے حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی تو تمام فرشتوں نے آواز بلند کی اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ ایک چڑیا کی شکل میں آیا اور ایک طرف سے حرم میں داخل

ہو گیا۔ جبرائیل نے اس سے فرمایا: اے ملعون! واپس لوٹ جا۔ ابلیس نے کہا: میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ زمین پر آج کونسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سردار انبیاء اور خاتم المرسلین ہیں اس زمین پر اپنا قدم مبارک رکھا ہے اس نے کہا: کیا ان کے متعلق میرا بھی کوئی حصہ ہے۔؟ جبرائیل نے فرمایا: نہیں اس نے سوال کیا کیا ان کی امت میں میرا کوئی حصہ ہے۔؟ جبرائیل نے فرمایا: ہاں، ابلیس نے کہا میں اس بات پر راضی اور شاداں ہوں۔

(امالی صدوق ۳۶۰: حدیث مجلس ۴۸، بحار الانوار: ۱۵/۲۵۷ حدیث ۹ تفسیر برہان: ۲/۳۲۶ حدیث ۳)

اشعار کا ترجمہ

”میں اس کی ولادت پر خوش ہوں جس کا ظہور میں آنا نیک ہے۔ ایسے چکا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے اور تمام اندھیرے اس میں چھٹ گئے ہیں“  
 ”ابراہن کا بادشاہ کسریٰ کے سر سے تاج گر پڑا جب ایمان کا تاج مرغ سے بلند تر ہوا خاتم الانبیاء کے آنے کی وجہ سے اس کے تاج کا زیور گر گیا اور سلطنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلطنت کے تخت پر آنے کے بعد اس کا تخت ٹوٹ پھوٹ گیا“

”پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرانے کے ساتھ ان کا رتبہ اپنے قریب اور نزدیک ہونے کے ساتھ خاص کیا، حالانکہ وہ ذات کیفیت اور تشبیہ سے پاک ہے“

”ان کو آپ کے مبارک جسم کے ساتھ سیر کروائی گئی اور جبرائیل ان کی خدمت میں تھا اور خدا تعالیٰ نے ان کو اس کام کے ساتھ تعظیم و تکریم عنایت کی“

”اس سفر میں ان کی سواری ایک آسمانی براق تھی اور راستہ آسمان تھا اور سفر میں ان کی راہنمائی جبرائیل کر رہا تھا“

”وہ دین حق رکھتا ہے جس کی تبلیغ و ہدایت مخلوق کی خاطر ہے۔ تمام پانی ان

کی بخشش اور عطا ہے اور دریائے نیل ایک ادنیٰ سی چیز ہے“  
 روح الامین جو قرآن ان پر لے کر آیا ہے اس نے روح اللہ کے دین اور  
 ان کی انجیل میں جو کچھ ہے اسے نسخ اور ختم کر دیا ہے“  
 حضرت موسیٰؑ کی تورات کی تمام تفصیلات قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کے  
 آنے کے بعد دم توڑ گئی ہیں۔

اگر وہ نہ ہوتے تو نہ علم ہوتا اور نہ عمل، نہ کتاب ہوتی نہ نص (ظاہر کتاب) اور نہ  
 تاویل باطن کتاب، نہ کوئی وجود ہوتا نہ کوئی انسان، نہ فرشتہ نہ کوئی وحی ہوتی اور نہ کوئی قرآن۔  
 وہ صاحب معجزات ہے اور حیرت انگیز کارناموں کا مالک اور کھجور کی ایک شاخ خدا  
 کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئی۔

وہ جنگیں جن میں وہ شریک ہوئے یا وہ جنگیں جن میں خود شریک نہ تھے ایک ایسی  
 سیرت اور نمونہ ہیں کہ لوگ نسل در نسل ان کو یاد کرتے رہیں گے۔  
 شیخ ازری نے کیا خوب اشعار کہے ہیں۔

### اشعار کا ترجمہ

”اس ہستی کے متعلق میں کیا کہوں جن کا مقام بلند اور مرتبہ عظیم ہے۔ ان کے  
 بلند مراتب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس کائنات کی خلقت کا سبب ہیں“  
 ”تمام انبیاء نے ان کی بشارت دی ہے اور ان کا مبارک نام سن کر خوشحال  
 ہوئے ہیں اور ان کے قصیدے پڑھے ہیں۔ آسمان اور زمین نے ان کے  
 نام کو بلند کیا ہے اور ان کو اوپر لے گئے ہیں۔ اس طرح جیسے صبح کی روشنی صبح  
 کے آنے کے خبر دیتی ہے“

”زمین نے ان کے نام پر خوشی منائی اور ان کی ولادت کے باعث کمترین مرتبہ  
 والی زمین نے بلند ترین مرتبہ والے آسمان کے مقابلہ میں فخر کیا“



”اپنی فکر کو اوصاف احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنانے کی کوشش پر مجبور نہ کر، کیونکہ وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی“

”وہ ایسی شخصیت ہے جس کی قدر و قیمت خدا کے نزدیک عزیز اور عظیم ہے ان کو اس نے اپنے لئے خاص کیا ہے اور چنا ہے“

”علم و حکمت ایک موجیں مارتا ہوا سمندر ہے جو ختم نہیں ہوتا اگر وہ ختم ہوتا ہے تو وجود احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدغم ہوتا ہے“

”مقدس علوم اور علم اعلیٰ ان کے پاس ہے، اگر ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ کون تھا جو اس قابل ہوتا؟“

”تمام بلند صفات اور اخلاقی بلندیاں قسم کھاتی ہیں کہ ان سب کی پرورش کرنے والا وہ ہے“

”اسی کی طرف سے علم اور مردوباری مخلوق کی طرف آئی ہے۔ تمام عقول نے اس کی عقل سے فکر و تدبیر حاصل کیا ہے“

”جب ان کا نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لکھا گیا تو غرق ہونے سے بچ گئی۔ اور اپنے چلنے والے مقام پر آرام پکڑ گئی“

”ابراہیمؑ انہیں کے ذریعے مقام خلیل پر پہنچے اور آتش نمرود انہیں کے اسم مبارک کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی“

”جو راز انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا اسی کے سبب موسیٰؑ کے عصا نے ان کے ہاتھ پر اطاعت کی“

”اسی کے سبب عیسیٰ علیہ السلام قبروں کو تسخیر کرتے تھے اور قبروں میں جو مردے ہوتے وہ ان سے ہم کلام ہوتے تھے“

”وہ ملاء اعلیٰ میں جو فرشتوں کا مقام ہے اس کائنات کا راز اور رمز ہیں، وہ نہ ہوتے تو فرشتے مٹی پر پیشانی نہ رکھتے اور عبادت نہ کرتے“

”یہ تمام عناصر صرف اپنے اصلی مادہ سے ہیں اور وہ اس کائنات کا اصلی مادہ اور خلقت کا باپ ہے“

## خلقت عقل

(۴۰) علامہ مجلسی ”بحار الانوار“ میں کتاب ”محاسن برقی“ سے اور وہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اسے فرمایا: اپنا منہ پھیر لے، اس نے منہ پھیر لیا پھر اس کو فرمایا: سامنے آ، وہ سامنے آئی۔ اس کے بعد فرمایا:

ما خلقت خلقاً احب الی منک

”میں نے تجھ سے زیادہ محبوب اپنے نزدیک کسی کو پیدا نہیں کیا“

پس اس عقل کے موصوں میں ننانوے حصے وجود مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کئے۔ ایک جز باقی رہ گیا جسے تمام لوگوں میں تقسیم کیا:

(الحاسن: ۱۳۷ حدیث ۸، بحار الانوار: ۱/۹۷ حدیث ۱۶ اور ۲۳۳/۱۶ حدیث ۲۶)

## تربیت علی

(۴۱) اسی کتاب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بخیر اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

انا ادیب اللہ وعلی علیہ السلام ادیبی

”میں نے خدا سے تربیت لی ہے اور علی علیہ السلام میرا تربیت یافتہ ہے“

(بحار الانوار: ۱۶/۲۳۱ سطر ۴)

## سریانی زبان

(۴۲) سعد ارملی اپنی کتاب ”البعین“ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری کے نوشتہ جات میں سے ایک ورق ملا جس پر سریانی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ جو کتاب تورات سے نقل ہوا ہے کہ اس گفتگو

کے بعد جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضر علیہما السلام کے درمیان کشتی، دیوار اور غلام کے قصہ کے متعلق واقع ہوئی، اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کے بھائی حضرت ہارون نے ان سے سوال کیا کہ حضرت خضرؑ سے کیا سیکھ کر آئے ہو؟ اور دریا کے عجائب میں سے کس چیز کا مشاہدہ کر کے آئے ہو؟

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے فرمایا: میں اور خضر دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اچانک ایک پرندہ نیچے آیا، جس نے اپنی چونچ کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ اٹھایا اور مشرق کی طرف پھینک دیا، پھر ایک دوسرا قطرہ اٹھایا اور مغرب کی طرف گرا دیا: پھر تیسرا قطرہ اٹھایا، اسے آسمان کی طرف، پھر چوتھا قطرہ اٹھایا، اسے زمین کی طرف اور پھر پانچواں قطرہ اٹھایا اسے دریا میں پھینک دیا۔ ہم اس صورت حال کو دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہوئے۔ میں نے حضرت علیہ السلام سے دریافت کیا، وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ اسی وقت ایک شکاری جو اس علاقے میں شکار کیا کرتا تھا نے ہماری طرف دیکھا اور کہا: تمہیں کیا ہوا ہے؟ گویا اس صورت حال کی وجہ سے حیران و پریشان ہو؟ ہم نے کہا: ہاں ایسا ہی ہے۔ اس شکاری نے کہا: میں ایک شکاری ہوں اور اس پرندے کا اشارہ سمجھ گیا ہوں اور آپ دونوں بزرگ اور پیغمبر ہیں لیکن نہیں سمجھ سکے؟ ہم نے کہا: ہم صرف وہ جانتے ہیں جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس شکاری نے کہا یہ دریا میں جو پرندہ ہے اس کا نام مسلم ہے کیونکہ جب یہ پرندہ بولتا ہے تو اس کی آواز جو نکلتی ہے مسلم کا لفظ ہوتا ہے۔ اس پرندے نے یہ کام جو کیا ہے کہ پانچ قطرے دریا سے اٹھائے ہیں، ایک قطرہ مشرق، دوسرا مغرب، ایک آسمان، ایک زمین اور پانچواں قطرہ دریا میں پھینکا ہے اپنے اس عمل سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے:

يَا نَبِيَّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يَكُونُ عِلْمُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَأَهْلِ  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عِنْدَ عِلْمِهِ مِثْلُ هَذِهِ الْقَطْرَةِ الْمُلَقَاةِ فِي الْبَحْرِ  
وَيُورِثُ عِلْمَهُ ابْنُ عَمِّهِ وَوَصِيِّهِ.

”آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا اہل مشرق و مغرب اور اہل آسمان و



زمین کا علم اس کے علم کے برابر اس قطرہ کی مانند ہے جو دریا میں پھینکا گیا ہے اور اس کے تمام علم کا وارث اس کا چچا زاد بھائی اور اس کا وصی ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مطلب سننے کے بعد ہم دونوں نے اپنی بحث کو ختم کیا اور اپنے اپنے علم پر ہمیں جو ناز تھا وہ ہماری نظروں میں حقیر سا ہوگا۔ اس کے بعد وہ شکاری ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، ہم سمجھ گئے کہ وہ ایک فرشتہ تھا۔ جو خدا نے ہماری طرف بھیجا تھا، تاکہ ہمیں اپنے علم کی کمی سے آگاہ کرے جب کہ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بڑے کمال کے مالک ہیں“

(المختصر: ۱۰۰ بحار الانوار: ۲۶/۱۹۹ حدیث ۱۲، تاویل لآیات: ۱۰۳/۱ حدیث ۹)

## چہرے کی رنگت

(۳۳) - امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ جب رسول خداؐ کہتے یا یہ کہتے کہ رسول خداؐ نے فرمایا تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اس قدر سبز اور زرد ہو جاتا تھا کہ پہچاننے والے لوگ بھی اس تبدیلی کے بعد پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔

(الخصال: ۱۶۷ حدیث ۲۹، امالی صدوق: ۲۲۳)

ایک دوسری روایت میں نقل ہوا ہے کہ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے تھے تو تعظیم کی خاطر اپنی صورت زمین کی طرف کر لیتے اور فرماتے ”محمد، محمد، محمد اس قدر زیادہ کہ آپ کا رخ مبارک زمین کے ساتھ لگنے کے قریب ہو جاتا۔“

(الکافی: ۹۲/۸، بحار الانوار: ۱۷/۳۰ حدیث ۹)

کیا خوب شعر کہا گیا ہے۔

ہزار مرتبہ شستن دھان بمشک و گلاب

ہنوز نام تو بدون کمال بی ادبی

”ہزار مرتبہ بھی منہ کو مشک و گلاب کے ساتھ دھویا جائے تب بھی تیرا نام لینا

کمال بے ادبی ہے“

## نور آل محمدؐ

(۳۲) شیخ طوسی علیہ الرحمہ کتاب ”امالی“ میں امام صادق سے اور حضرت اپنے آباؤ و اجداد سے اور وہ امام حسن علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد بزرگوار رسول خداؐ سے سنا:

خلقت من نور اللہ عزوجل وخلق اہل بیٹی من نوری وخلق  
محبیہم من نور ہم وسائر الخلق من النار

”مجھے خدا کے نور اور میرے اہل بیت کو میرے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کے دوستوں کو ان کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور باقی تمام مخلوق آگ سے ہے۔“ (امالی طوسی: ۶۵۵ حدیث ۵ مجلس ۳۳)

## عالم ارواح

(۳۵) کلینی علیہ الرحمہ کتاب ”کافی“ میں مفصل سے نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا: جب آپ عالم اظلمہ (عالم ارواح) میں تھے تو کیسے تھے اور کیا کرتے تھے؟  
آپ نے فرمایا:

یا مفضل کنا عند ربنا لیس عندہ احد غیرنا فی ظلمۃ خضراء نسبہ  
و تقدسہ نہللہ نمجدہ وما من ملک مقرب ولا ذی روح غیرنا  
حتی بدالہ فی خلق الدنیاء الاشیاء فخلق ماشاء کیف شاء من  
الملائکۃ وغیرہم ثم انہی علم ذلک الینا۔

”اے مفضل! ہم پیشگاہ پروردگار میں ایک سبز رنگ کے سایہ میں تھے، ہمارے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا، ہم خدا کی تسبیح، تقدیس، تحلیل اور تجید میں مشغول تھے۔ کوئی فرشتہ مقرب اور ذی روح نہ تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے باقی

مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے جو چاہا اور جس شکل میں چاہا فرشتوں اور غیر فرشتوں سے پیدا فرمایا اور ہمیں اس سے آگاہ کیا۔“

## بت گرے

(۳۶) ابن شہر آشوب علیہ الرحمہ کتاب ”مناقب“ میں حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں:

لما ولد رسول الله القيت الاصنام في الكعبة على وجوهها فلما امسى سمع صيحة من السماء (جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً). (سورہ اسراء: آیت ۸۱)

”جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے وہ زمین پر گر گئے، اور جب رات ہوئی تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی جو فرما رہی تھی ”حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے“

نقل ہوا ہے کہ اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی۔ پتھر، سنگریزے اور درخت مسکرانے لگے۔ آسمان و زمین کی مخلوق نے خدا کی تسبیح کی، شیطان ملعون ٹوٹ پھوٹ گیا، اور کہنے لگا، امتوں میں سے بہترین شخص، افضل مخلوقات عالم، عزیز ترین بندہ اور کائنات کی بزرگ ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ (المناقب: ۱/۳۱، بحار الانوار: ۱۵/۲۷۴ حدیث ۲۰)

## کھجور بطور صدقہ

(۳۷) کتاب ”کنز الفوائد“ میں حلیمہ سعدیہ سے روایت ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اکرمؐ ایک سال کے ہوئے اور لب کشائی فرمائی تو ایسی کلام ارشاد فرمائی کہ میں نے اس سے بہتر کوئی کلام نہ سنی تھی۔ آپؐ نے فرمایا:

قدوس قدوس نامت العیون والرحمان لا تاخذہ سنة ولا نوم  
”خدا تعالیٰ ہر نقص سے پاک و منزہ ہے آنکھیں سو گئیں اور رحمان کو نہ اونگھ



آتی ہے اور نہ ہی نیند“

ایک عورت نے مجھے اک مٹھی کھجور بطور صدقہ دیں، میں نے لے لیں، حضرت اُس وقت تین سال کے تھے آپ نے رو کر دیں اور فرمایا:

یا ام لا تا کلی الصدقہ فقد عظمت نعمتک و کثر خیرک فانی لا آکل الصدقہ

”اے ماں! صدقہ نہ کھاؤ کیونکہ نعمت کے دروازے تجھ پر کھلے ہیں اور بہت

سی خیر تجھ تک پہنچی ہے اور میں ہرگز صدقہ نہیں کھاتا“

علیمہ سعدیہ کہتی ہیں خدا کی قسم کلام حضرت کو سننے کے بعد میں نے کبھی صدقہ

قبول نہیں کیا: (کنز الفوائد: ۱/۱۶۸، بحار الانوار: ۱۵/۳۰۰ حدیث ۲۸)

## سب سے افضل

(۲۸) کتاب ”قرب الاسناد“ میں فضیل سے روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے امام

صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

اتقوا اللہ وعظموا اللہ وعظموا رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ولا تفضلوا علی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا فان اللہ

تبارک و تعالیٰ قد فضله.

”تقویٰ اختیار کرو، خدا اور اس کے رسول کو عظمت دو اور کسی ایک کو بھی

رسول خدا پر فضیلت نہ دو، کیونکہ خدا نے انہیں سب پر فضیلت دی ہے“

(قرب الاسناد: ۶۱/۶۱، بحار الانوار: ۲۵/۳۶۹ حدیث ۱۲)

## مصطفیٰؐ سب سے افضل

(۲۹) کتاب کافی میں نقل ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا کا ذکر کرتے

ہوئے فرمایا: حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

ما بر اللہ نسمة خیرا من محمدؐ

”خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پیدا نہیں فرمایا“

(الکافی: ۱/۲۴۰ حدیث ۲)

## اسم اعظم

(۵۰) اسی کتاب میں امام صادق علیہ السلام کے اصحاب سے نقل ہوا ہے کہ میں نے حضرت سے سنا کہ آپ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ بن مریم کو اسماء اعظم میں سے دو حرف دیئے گئے تھے، وہ ان دو حرفوں کی وجہ سے خارق العادہ کام انجام دیتے تھے حضرت موسیٰ کو چار حروف۔ حضرت ابراہیمؑ کو آٹھ حروف، حضرت نوحؑ کو پندرہ حروف، اور حضرت آدمؑ کو پچیس حروف عطا کئے گئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام حروف جو تمام انبیاء کو عطا کئے تھے وہ سب حضرت محمدؐ کے لئے جمع کر دیئے بے شک خدا کے اسمائے اعظم بہتر حروف ہیں ان میں سے بہتر انہیں عطا کئے گئے اور ایک پوشیدہ رکھا گیا۔

(الکافی: ۱/۲۴۰ حدیث ۲، بحار الانوار: ۱۷/۱۳۳ حدیث ۱۱، الوافی: ۳/۵۶۳ حدیث ۳)

## تمام انبیاء کا علم

(۵۱) صفار کتاب بصائر الدرجات میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: امیر المومنین علیہ السلام سے پیغمبر اکرمؐ کے علم کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: پیغمبر اکرمؐ کا علم تمام انبیاء کے علم کے برابر ہے۔ آپ گذشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات سے آگاہ ہیں۔ (بصائر الدرجات: ۱۷/۱۳۳ حدیث ۱۱، بحار الانوار: ۱۷/۱۳۳ حدیث ۳۱)

(۵۲) ابن شہر آشوب کتاب ”مناقب“ میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ کی ولادت سے پہلے، بعثت اور وفات کے بعد چار ہزار چار سو چالیس معجزے رکھتے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین اور قوی ترین قرآن ہے۔ (بحار الانوار: ۱۷/۳۰۱ حدیث ۱۳)

انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے پہاڑ کے اوپر کسی کو آواز دیتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا: خدایا! مجھے اس امت سے قرار دے جو امت مرحومہ و مغفورہ ہے۔ جب

وہ رسول خداؐ کے قریب ہوا، تو دیکھا وہ ایک بوڑھا مرد ہے جس کا قد تین سو ذراع ہے۔ (کہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ایک ذراع ہے) آنحضرتؐ نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کیا: میں سال میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور اب وہ وقت آ گیا ہے، اسی وقت ایک کھانے کا برتن آسمان سے نازل ہوا۔ دونوں نے اس سے کھایا۔

(المناقب: ۱/۱۷۷، بحار الانوار: ۱۷۷/۱۷۸، حدیث ۳۰۱)

## امتحان

(۵۳) قطب راوندی کتاب ”خرائج“ میں لکھتے ہیں کہ روایت ہوئی ہے کہ ایک عربی پیغمبر اکرمؐ کے پاس آیا اور عرض کی: آپ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے صحیح ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں! اس درخت کے پاس جاؤ اور کہو۔ کہ رسول خداؐ نے تجھے بلایا ہے، جب اس شخص نے حضرت کا پیغام درخت تک پہنچایا تو اس درخت نے اپنے آپ کو دائیں بائیں ٹیڑھا کیا یہاں تک کہ اس کی جڑیں جدا ہو گئیں پھر زمین پر گھستا ہوا آیا اور پیغمبر اکرمؐ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عربی شخص نے کہا: اسے حکم دیں واپس اپنی جگہ پر چلا جائے، حضرت نے اسے حکم دیا اور وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی وقت اس شخص نے کہا: کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں آپ کو سجدہ کروں؟ آپؐ نے فرمایا: اگر کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔

اس کے بعد اس نے اجازت مانگی کہ ہاتھ چوموں، آپؐ نے اجازت دے دی۔

(الخرائج: ۱/۲۴۴، حدیث ۵۳، بحار الانوار: ۱۷۷/۱۷۸، حدیث ۳۰۱)

(۵۴) اسی کتاب میں یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اپنے اصحاب کے درمیان تھے اتنے میں ایک عربی شخص آیا، جو شکار شدہ گویا لیے ہوئے تھا۔ اس نے وہ اپنی آستین میں چھپائی ہوئی تھی۔ عربی شخص پیغمبر اکرمؐ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ اصحاب نے کہا: رسول خداؐ ہیں۔ اس شخص نے کہا: لات وعزی کی قسم تجھ سے



زیادہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا ہوں۔ تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین شخص ہے اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ قوم مجھے جلد باز کہے گی تو میں تجھے کب کا قتل کر چکا ہوتا۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: کس چیز نے تجھے بھڑکایا ہے؟ ایمان لے لے! اس نے کہا: میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گویہ ایمان نہ لائے اور اس گویہ کو آستین سے چھوڑ دیا۔ رسول خداؐ نے گویہ کو آواز دی، اس نے عربی زبان میں اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ سب لوگوں نے سنا۔ اس نے کہا: جی جناب آپ پر قربان جاؤں، کیا حکم ہے، اے وہ جو میدان قیامت کی زینت ہو۔ آپ نے فرمایا گویہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں، سلطنت زمین پر، عجائبات سمندر میں رحمت جنت میں اور جس کا عذاب آگ میں ہے۔ آپ نے فرمایا: اے گویہ بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا

رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وخاب من کذبک

”آپ رب العالمین کے رسول ہیں،“ خاتم الانبیاء ہیں جس نے آپ کی

تصدیق کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ راندہ درگاہ ہوا۔“

عربی شخص نے کہا: کوئی دلیل اور برہان دیکھنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں اس حال میں آیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ دشمن رکھتا تھا لیکن اس وقت آپ کو اپنی اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے مزید کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور بے شک آپ خدا کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ وہ قبیلہ بنی سلیم سے تھا۔ جب اس نے اپنی داستان سنائی تو ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔

(الخرائج: ۱/۳۸ حدیث ۴۳، بحار الانوار: ۱۷/۴۰۶ حدیث ۳۶)

## تمام لوگوں کے لیے

(۵۵) علی بن ابراہیم قمی علیہ الرحمہ کتاب ”تفسیر“ میں حفص سے نقل کرتے ہیں:

عبداللہ بن بکر سے سنا، اس نے کہا: امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: کہا  
ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کی رسالت عام تھی اور سب کو شامل تھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب  
محکم میں فرمایا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ. (سورہ سباء: آیت ۲۸)

”تجھے میں نے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لئے“

یعنی اہل مشرق و مغرب کے لئے اور اہل آسمان و زمین کے لئے تمام انسانوں اور  
جنوں کے لئے۔ حضرت نے فرمایا: سوال یہ ہے کہ کیا حضرت نے اپنی رسالت تمام تک پہنچائی  
اور کس طرح یہ کام کیا؟ میں نے عرض کیا: مجھے معلوم نہیں۔

آپ نے فرمایا: اے بکر کے بیٹے اگر پیغمبر اکرمؐ مدینہ سے باہر نہیں گئے تو انہوں  
نے کس طرح اپنا پیغام اہل مشرق و مغرب تک پہنچایا؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ آپ  
نے فرمایا: خداوند تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اس نے زمین کو اپنے پر کے ذریعے  
اکھیرا اور رسول خداؐ کے سامنے نصب کر دیا۔ اس طرح زمین رسول خداؐ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی  
کی مانند تھی۔ اس کے ذریعے سے آپ نے اہل مشرق و مغرب کی طرف نگاہ کی اور ہر گروہ  
سے اس کی زبان میں مخاطب ہوئے اور انہیں خدا اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دی۔ لہذا کوئی  
ایسا شہر اور دیہات باقی نہ رہا مگر یہ کہ خود پیغمبر اکرمؐ نے ان کو دعوت دی۔

(تفسیر فی: ۲/۲۰۲، بحار الانوار: ۱۸/۱۸۸ حدیث ۲۰)

## ابوطالبؑ اور پیغمبرؐ

(۵۶) کتاب الدر العظیم میں امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خداؐ  
کی ولادت کو بائیس مہینے گزر گئے، تو آپ کو آنکھ میں درد ہوئی، عبدالمطلب نے ابو  
طالب علیہ السلام سے فرمایا: اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ جحفہ لے جاؤ۔ وہاں ایک  
راہب عبادت گاہ میں بیٹھا مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ آنحضرتؐ کو ہندی زنبیل

میں ڈال کر راہب کے پاس لے آئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے راہب کو آواز دی۔ اس نے اپنی عبادت گاہ سے اپنا سر باہر نکالا، نیچے دیکھا تو عبادت گاہ کے اطراف میں ایک روشن نور کو دیکھا، اور فرشتوں کے پردوں کی آواز سنی۔

اس نے کہا: آپ کون ہیں؟ حضرت ابو طالبؑ نے کہا: میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اور اپنے بھتیجے کو تیرے پاس لایا ہوں تاکہ تو علاج کرے۔ اس نے کہا: وہ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ٹوکری میں ہے جس کو سورج کی دھوپ سے بچنے کے لئے چھپایا ہوا ہے۔ اس نے کہا: اس کے اوپر سے پردہ اٹھاؤ۔ جیسے ہی اوپر سے پردہ اٹھا تو راہب نے نور کی ایک روشنی دیکھی جو حضور کے چہرے سے عیاں تھی۔ راہب اس صورت حال کو دیکھنے سے خوفزدہ ہو گیا، اور فوراً کہا: اسے چھپا دو۔ اس کے بعد کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور بے شک تو خدا کا برحق رسولؐ ہے۔ اور یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔

راہب نے اپنی شہادت کو دو مرتبہ اپنی زبان پر جاری کرنے کے بعد کہا: میرے بیٹے اس کو لے جاؤ۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا: اے راہب میں تجھ سے بڑی اہم بات سن رہا ہوں۔ راہب نے کہا: میرے بیٹے تیرے بھتیجے کی شان و عظمت جو تو نے مجھ سے سنی ہے اس سے کہیں زیادہ بلند ہے اور تو اس کی رسالت میں اس کا مددگار رہے گا اور جو اسے قتل کرنا چاہیں گے تو منع کرے گا۔ ابو طالب علیہ السلام عبدالمطلب کے پاس واپس آیا اور تمام ماجرا بتایا۔

عبدالمطلب نے کہا: اے میرے بیٹے! اس قصہ کو پوشیدہ رکھنا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس دنیا سے نہ جائے گا جب تک عرب و عجم پر سرداری حاصل نہ کر لے۔



## حضورؐ کے اسماء مبارکہ

(۵۷) ابن شہر آشوب کتاب ”مناقب“ میں روایات میں بیان کردہ حضورؐ کے ناموں کا یوں ذکر کرتے ہیں:

العاقب: جو انبیاء کے بعد آیا ہے۔

الماحی: جس کے سبب سے کفر ختم ہوا یا جس کے سبب سے اس کے ماننے والوں کے گناہ معاف ہوں گے۔

الماشر: وہ جس کے بعد لوگ محشر میں وارد ہوں گے۔

المعق: یعنی جو تمام انبیاء کے بعد آیا ہے اور ان کی متابقت کی ہے۔

الموقف: جو لوگوں کو بارگاہ الہی میں ٹھہرنے کا حکم دے گا اور ان کو روکے رکھے گا۔

القسم: یعنی نثر کرنے والا

الناسخ: خیر خواہ۔

الوفی: جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔

المطام: جس کی اطاعت دوسرے پر واجب ہے اور انہیں چاہیے اس کی پیروی کریں۔

المنجی: نجات دینے والا۔

المأمون: مورد اعتماد۔

الحسین: وہ جو برائی سے اچھائی کی طرف مائل ہو۔ وہ جو بتوں کی عبادت سے روگردان ہو۔

المغیث: فریاد سننے والا:

الحبيب: دوست

الطيب: وہ جس نے پلیدی اور آلودگی سے اجتناب کیا اور اپنے آپ کو فضائل کے ساتھ

آراستہ کیا۔

السید: سردار، آقا۔

المقرب: نزدیک کرنے والا:

الدافع: دفاع کرنے والا۔

الشافع: شفاعت کرنے والا۔

المشفع: وہ جس کی شفاعت قبول ہوئی۔

الحامد: حمد کرنے والا

المحمود: تعریف کیا ہوا۔

الموجب: آبرو مند:

التوکل: وہ جو خدا پر اعتماد رکھتا ہو۔ اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد کئے ہوئے ہو۔

الغیث: ایسی بارش جو خیر اور نفع سے پر ہو۔

اس کے بعد ان ناموں اور القاب کو ذکر کیا ہے جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ جن

کی تعداد چار سو تک ہے۔ (المنائب: ۱/۱۵، بحار الانوار: ۱۶/۱۰۳ احادیث ۴۰)

طریحی علیہ الرحمہ کتاب ”مجمع المحرین“ میں ابن اعرابی سے نقل کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ایک ہزار ایک نام ہیں اور پیغمبر اکرمؐ کے ایک ہزار نام ہیں۔ ان میں سے بہترین محمدؐ، محمود، اور احمد ہیں۔ محمدؐ یعنی جس کی اچھی خصلتیں زیادہ ہوں، کہا گیا ہے کہ حضورؐ سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا۔ اور خداوند تعالیٰ نے حضورؐ کے گھر والوں کو الہام فرمایا تھا کہ یہ نام رکھیں۔ اس لیے کہ خدا، فرشتے تمام پیغمبر اور رسول اور تمام امتیں ان پر درود بھیجتی ہیں اور ان کی تعریف کرتی ہیں۔ (مجمع المحرین: ۳/۴۰)

مؤلف کہتا ہے: محدث نوری علیہ الرحمہ کتاب مستدرک میں نقل کرتے ہیں کہ ایک خبر میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے شرم نہیں کی اور گناہ کرتے رہے اور اپنا نام میرے حبیب کے نام پر رکھا، لیکن میں حیا کروں گا اور تجھے عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ تو نے میرے حبیب کے نام پر اپنا نام رکھا ہے۔ (المستدرک: ۱۵/۱۳۰ احادیث ۴)

مجموعہ شہید علیہ الرحمہ میں کتاب انوار سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اپنی محافل میں اس کے لئے جگہ بناؤ، اس کے لئے ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔

جو گروہ بھی مشورہ کرنے کے وقت اپنے درمیان ایسا شخص رکھتا ہوگا جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اور اسے اپنے مشورے میں شریک کرے گا تو خیر اور بھلائی ان کے نصیب ہوگی۔

کوئی بھی دسترخوان بچھایا گیا ہو، اگر اس پر ایسا شخص موجود ہو، جس کا نام محمد یا احمد ہو تو وہ گھر دن میں دو مرتبہ باعث تقدیس قرار پائے گا۔

(عیون اخبار الرضا: ۲/۲۸ حدیث ۳۰، ۲۹ اور بحار الانوار: ۱۰۴/۱۲۸ حدیث ۱۲۱۰، ۸)

## نام محمد رکھا ہے

(۵۸) کلینی کتاب 'کافی' میں ابو ہارون سے نقل کرتے ہیں کہ میں مدینے میں امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن چند دن میں نہ جاسکا۔ پھر جب شرف یاب ہوا تو آپ نے فرمایا: اے ابو ہارون! چند دنوں سے میں نے تجھے نہیں دیکھا؟ اس نے عرض کیا خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: خدا اسے مبارک کرے۔ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کا نام محمد رکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت نے نام محمد سنا تو اپنا چہرہ زمین کی طرف جھکا دیا اور اتنی بار فرمایا "محمد، محمد، محمد" قریب تھا کہ حضرت کا چہرہ مبارک زمین کو لگ جائے۔ پھر فرمایا: میں، میری اولاد اور میرے ماں باپ رسول خدا پر قربان ہوں۔ یہ تیرا بیٹا جس کا نام تو نے محمد رکھا ہے۔ اس کو گالی نہ دینا اسے مارنا نہیں، اس کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا: زمین پر ایسا کوئی گھر نہیں ہے کہ جس میں نام محمد ہو مگر یہ کہ ہر روز پاک اور مبارک ہو۔

(الکافی: ۶/۳۹ حدیث ۲، بحار الانوار: ۱۷/۳۰ حدیث ۹، وسائل الشیخ: ۱۵/۱۲۶ حدیث ۴)



## ایک نیکی ہے

(۵۹) سبزواری اپنی کتاب ”شرح الاسماء“ میں پروردگار عالم کے نام ”یا ولی الحسنات“ کی شرح میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں:  
 بے شک علی علیہ السلام رسولوں کے سردار کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔  
 (شرح الاسماء: ص ۲۳)

## یوسفؑ اور زلیخا

(۶۰) ابن فہد کتاب ”عدة الداعی“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: زلیخا نے اجازت مانگی کہ یوسفؑ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اس سے کہنے لگے جو کچھ تو نے یوسفؑ کے ساتھ کیا ہے کیا اس کے پاس جانے سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا: جو خدا سے ڈرتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ جب زلیخا حاضر ہوئی تو یوسفؑ نے فرمایا: کیا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے: اس نے کہا: حمد و ثناء خاص ہے اس خدا کے لئے جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کے سبب غلام بنادیا اور غلاموں کو فرمانبرداری کے سبب بادشاہ بنادیا۔ یوسفؑ نے اس سے فرمایا: کس چیز نے تجھے میرے ساتھ ایسا کرنے پر مجبور کیا تھے؟ اس نے کہا: تیرے حسن اور خوبصورتی نے۔ یوسفؑ نے فرمایا: اگر اس پیغمبر کو دیکھ لو جس کا اسم مبارک محمدؐ ہے اور آخری زمانے میں رسالت پر مبعوث ہوں گے تو کیا کروگی؟ ان کا حسن و جمال، اخلاق عالیہ اور جو دو سخاوت مجھ سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ زلیخا نے کہا: آپ نے سچ کہا ہے۔ یوسفؑ نے کہا: تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں سچا ہوں۔ اس نے عرض کیا: جیسے ہی آپ نے ان کا نام لیا اور اوصاف بیان کئے تو ان کی محبت میرے دل میں اتر گئی۔

خداوند تبارک و تعالیٰ نے یوسفؑ سے خطاب فرمایا: زلیخا نے جو کہا ہے وہ درست

ہے میں اسے اپنے حبیب کی محبت کی خاطر جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے پسند کرتا ہوں اور اس وقت حضرت یوسفؑ کو حکم دیا کہ وہ زلیخا سے شادی کر لیں۔

(عدة الدراعی: ۱۵۲، علل الشرائع: ۵۵: حدیث ۱)

## نور کا ایک ٹکڑا

(۶۱) کلینی علیہ الرحمہ کتاب ”کافی“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خداؐ کورات کے وقت دیکھا جاتا تو آپ کے چہرہ کے اطراف میں نور کا ایک ایسا دائرہ دیکھائی دیتا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو۔

(الکافی: ۱/۳۶۶: حدیث ۲۰، بحار الانوار: ۱۶/۱۸۹: حدیث ۲۷)

## اولاد آدم کا سردار

(۶۲) کلینی علیہ الرحمہ کتاب ”کافی“ میں حسین بن عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کیا رسول خداؐ اولاد آدم کے سردار ہیں؟ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم وہ تمام مخلوق کے سردار ہیں، اور خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔

(الکافی: ۱/۳۴۰: حدیث ۱، بحار الانوار: ۱۶/۳۶۸: حدیث ۷۶)

## درہ اور درخت

(۶۳) کلینی علیہ الرحمہ کتاب ”کافی“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں: رسول خداؐ ایک جنگ بنام ذات الرقاع میں ایک درخت کے نیچے ایک ایسے درہ کے پاس اترے جہاں سے سیلاب جاری ہوتا تھا۔ اچانک سیلاب کا پانی آیا اور اس نے رسول خداؐ اور اصحاب کے درمیان فاصلہ ڈال دیا۔ اسی دوران مشرکین میں سے ایک شخص نے دیکھ لیا کہ مسلمان درے کے ایک کنارے کھڑے منتظر تھے کہ سیلاب رک جائے۔ اس مشرک مرد نے اپنے ساتھیوں سے کہا: میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اپنی تلوار پکڑی اور رسول خداؐ

کی طرف آیا اور سختی سے کہا: اے محمد! اب کون تجھے میرے ہاتھ سے چھڑا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اور تیرا خدا۔ اتنے میں جبرائیل آیا اور اس مشرک کو گھوڑے سے گرا دیا۔ اور وہ مشرک اوندھا زمین پر گر پڑا۔ رسول خدا اٹھے اور اس کی تلوار پکڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور فرمایا: اب تجھے کون میرے ہاتھ سے نجات دے گا؟ اس نے کہا:

جو دُک و کرمک یا محمدؐ

”آپ کی بخشش اور کرم نوازی اے محمدؐ“

یہ سن کر رسول خداؐ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ شخص اٹھا اور کہنے لگا خدا کی قسم آپ مجھ سے بہتر اور افضل ہیں۔ (الکافی: ۸/۱۲۷، حدیث ۹۷، بحار الانوار: ۲۰/۱۷۹، حدیث ۶)

## بستر بیماری

(۶۳) شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”امالی“ میں ابن عباس سے ایک طولانی حدیث نقل کرتے ہیں جو وفات رسولؐ کے موضوع اور جو آپؐ نے بستر بیماری پر اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کے متعلق ہے۔ حضرت جب اس جگہ پہنچے اور فرمایا: بے شک میرے عظیم الشان پروردگار نے قسم کھائی ہے کہ وہ کسی ظالم کے ظلم کو معاف نہیں فرمائے گا، اور میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس کسی کو بھی مجھ سے کوئی شکایت ہو، یا کوئی زیادتی تمہارے متعلق مجھ سے واقع ہوئی ہو، ابھی اٹھے اور مجھ سے قصاص طلب کرے، کیونکہ اگر میں اس دنیا میں اپنے عمل کی سزا پا لوں تو میرے نزدیک یہ بہتر ہے چر جائیکہ مجھے قیامت کے دن فرشتوں اور انبیاء کے سامنے سزا دی جائے۔

اس وقت ایک شخص بنام سوادۃ بن قیس مجلس کے آخر سے بلند ہوا اور کہنے لگا۔ اے رسول خداؐ میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں، جب آپؐ طائف سے تشریف لائے تھے تو میں آپؐ کے استقبال کے لئے آیا تھا۔ آپؐ اس وقت اپنے اونٹ پر سوار تھے اور آپؐ کے ہاتھ میں ایک باریک سی چھڑی تھی۔ آپؐ نے اس شاخ کو اوپر اٹھایا تاکہ اسے اپنے اونٹ کو ماریں تو وہ



میرے پیٹ پر جاگلی تھی، اب مجھے معلوم نہیں کہ غلطی سے یہ کام واقع ہوا ہے یا عدا؟ رسول خداؐ نے فرمایا: میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کام اپنی مرضی سے کیا ہو۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: اے بلال! فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر جاؤ اور وہاں سے وہی باریک شاخ اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ بلال مسجد سے باہر گئے اور مدینے کے کوچہ و بازار میں بلند آواز میں صدا دینے لگے، اے لوگو! تم میں سے کون ہے جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو قصاص کے لئے پیش کرے؟ اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے اپنے آپ کو قصاص کے لئے حاضر کیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول خداؐ نے فرمایا: وہ بوڑھا شخص کہاں ہے؟ بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اس جگہ ہوں۔ اے رسول خداؐ! میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں۔ حضرت نے فرمایا: اس جگہ آؤ اور مجھ سے قصاص لو، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس نے کہا: اپنے کرتے کو اوپر اٹھائیں۔ حضرت نے اوپر اٹھایا، اس بوڑھے شخص نے عرض کیا میرے ماں باپ آپؐ پر قربان جائیں۔ کیا آپؐ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں سے آپؐ کے شکم مبارک کا بوسہ لوں؟ حضرت نے اجازت دی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: میں رسول خداؐ کے شکم مبارک کا قصاص کرنے کے ساتھ آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں رسول خداؐ نے فرمایا: اے سوادہ! کیا قصاص لو گے یا معاف کرو گے؟ اس نے کہا: معاف کروں گا یا رسول اللہؐ، پیغمبر اکرمؐ نے اس کو دعا دی اور فرمایا: اے پروردگار سوادہ بن قیس کو معاف فرما دے جس طرح اس نے مجھے معاف کیا ہے۔

(امالی صدوق: ۳۲۰ حدیث ۶ مجلس ۹۲، بحار الانوار: ۲۲/۵۰۷ حدیث ۹)

مؤلف اس واقعہ کے بعد اس اشکال کا جواب ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں امکان ہے کہ کوئی کرے۔

وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپؐ نے آئمہ طاہرین علیہم السلام کے فضائل و مناقب، رسول خداؐ کے فضائل و مناقب سے زیادہ کیوں بیان کئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد جتنے بھی اولیاء حق ہیں ان کی عظمت نبیؐ ہی کی عظمت ہے۔ ہم جس قدر بھی چاند کے اوصاف بیان کر لیں اور اس کی مدح سرائی کر لیں، درحقیقت وہ

سورج کی مدح سرائی ہوگی، کیونکہ چاند کا نور، سورج کے نور کے تابع ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حقیقت میں پیغمبر اکرمؐ اور آئمہ معصومین علیہم السلام ایک ہی ہیں اس لئے ان کی توصیف در حقیقت پیغمبر اکرمؐ کی توصیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پیغمبر اکرمؐ کی شخصیت مسلمانوں کے درمیان اختلافی نہیں ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی اولاد طاہرین کے اہم ترین فضائل کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرمؐ کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیگر یہ کہ رسول اکرمؐ کی تمام ترکوشش یہ تھی کہ امیر المومنین اور ان کے جانشینوں کی معرفی کریں، اسی لئے ان کے کمالات اور فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اور خود اپنی تعریف اپنی ہی زبان سے کرنے سے اجتناب کیا ہے لیکن چونکہ آ یہ مبالغہ کے مطابق علی علیہ السلام نفس پیغمبرؐ ہیں اس لئے علی علیہ السلام کی مدح اور تعریف خود پیغمبر اکرمؐ ہی کی مدح اور تعریف ہے۔

اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں کہ ہم نے رسولؐ خدا کے فضائل کے باب کے بعد آنحضرتؐ پر درود بھیجنے کے باب کو تشکیل دیا ہے اور اس باب میں ہم نے بہترین روایات اور خوبصورت حکایات کو ذکر کیا ہے جن کے پڑھنے سے آپ کا دل خوش ہوگا۔



## محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجنے کی فضیلت

(۱/۶۵) محقق اردبیلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”زبدۃ البیان“ میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ سے آیہ شریفہ:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. (سورہ احزاب: آیت ۵۶)

کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ آپؐ نے جواب دیا یہ پوشیدہ علوم میں سے ہے۔ اگر مجھ سے سوال نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی میں اس کے متعلق خبر نہ دیتا۔

خدا تعالیٰ نے دو فرشتے مجھ پر موکل بنائے ہیں، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں ”غفر اللہ لک“ خدا تجھے معاف کرے، خدا اور دوسرے فرشتے ان دو فرشتوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اگر کسی مسلمان کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں۔ (لا غفر اللہ لک) ”خدا تجھے نہ بخشنے“ خدا اور دو فرشتے کہتے ہیں، آمین۔

(زبدۃ البیان: ۸۵، بحار الانوار: ۸۵/۲۷۹ اور ۶۸/۹۴ حدیث ۵۷)

اسی طرح اردبیلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

رسول خداؐ نے فرمایا: اگر کسی کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو خدا اسے جہنم میں داخل کرے گا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔



(امالی صدوق: ۶۷۶ حدیث ۲۰، مجلس ۸۵، بحار الانوار: ۳۹/۹۳ حدیث ۷)

مؤلف کہتا ہے حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جس کسی کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام واجب ہے کیونکہ اس کے ترک کرنے پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جو عمل ایسا ہو، وہ واجب ہوتا ہے۔

علماء کا ایک گروہ مثلاً ابن بابویہ، فاضل مقداد، کرخی، سید علی خان علیہم الرحمہ صحیفہ سجادیه کے شارح و جوب کے قائل ہیں۔ اہل سنت کے علماء میں سے طحاوی اور زحتری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

## آدم کی توبہ

(۲/۶۶) شیخ ابو الفتوح رازی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں ایک حدیث جو حضرت آدم کی خلقت کے متعلق ہے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو حوا کو اپنے پاس دیکھا، اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا۔ تو فرشتوں نے ان کو منع کیا۔ حضرت آدم نے فرمایا کیا خدا نے حوا کو میرے لئے پیدا نہیں کیا؟ فرشتوں نے کہا پہلے تین مرتبہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجو۔

(تفسیر ابو الفتوح رازی: ۶۶/۹، بحار الانوار: ۳۳/۱۵، سطر ۱۲)

## کثرت سے درود

(۳/۶۷) کلینی علیہ الرحمہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں:

جب بھی پیغمبر اکرم کو یاد کریں تو آپ پر بہت زیادہ درود بھیجیں، بے شک جو کوئی بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو خدا اس پر ہزار فرشتوں کی صف میں ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے اور خدا کی تمام مخلوق اس پر درود بھیجتی ہے، کیونکہ خدا اور اس کے فرشتوں نے ان پر درود بھیجا ہے۔

جو کوئی اس کام کی طرف رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو وہ نادان اور مغرور ہے۔ خدا، رسول خداؐ اور آنحضرتؐ کی اہل بیتؑ اس شخص سے بیزار ہیں۔

(الکافی: ۳۹۲/۲، حدیث ۶، الوافی: ۹/۱۵۱، حدیث ۱۰، وسائل الشیخ: ۳/۱۲۱۱ ح ۴)

## درود کی عظمت

(۳/۶۸) کتاب حدائق میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔

ایک دن رسول خداؐ نے امیر المومنین سے فرمایا: کیا آپ کو ایک خوش خبری دوں؟ حضرت نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ تو ہمیشہ ہمیں خیر و خوبی کی بشارت دیتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے لئے ایک شگفتہ انگیز خبر لایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا: جبرائیل نے کونسی خبر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: اس نے کہا ہے: اگر میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے اور میری اولاد کو بھی اس میں شامل کرے تو آسمان کے دروازے اس پر کھول دیئے جاتے ہیں اور فرشتے اس پر ستر مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ خطا کار اور گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے سبب اس کے تمام گناہ گر جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے اور اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے۔ اے فرشتو تم نے اس شخص پر ستر مرتبہ درود بھیجا ہے میں اس پر سات سو مرتبہ درود بھیجوں گا۔

اور اگر مجھ پر درود بھیجنے والا اپنے درود میں میرے اہل بیت کو شامل نہ کرے تو اس کے اور آسمان کے درمیان ستر پردے حائل ہو جاتے ہیں، خدا اس کا درود قبول نہیں کرتا۔ اسے جواب نہیں دیتا اور اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کی دعا کو اس وقت تک اوپر مت لے جانا جب تک اہل بیت پیغمبر کو درود بھیجنے میں شامل نہ کرے۔ پس فرشتے ہمیشہ اس کے اور اس کی دعا کے قبول ہونے کے درمیان مانع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ میری اہل بیت کو میرے ساتھ ملائے۔

(المیمدوق: ۶۷۵ حدیث ۱۸، مجلس ۸۵، بحار الانوار: ۵۶/۹۳، حدیث ۳۰، جامع الاخبار: ۷۳، وسائل الشیخ: ۳/۱۲۲۰ حدیث ۱۰)

## فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں

(۵/۶۹) امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

جو کوئی محمد و آل محمد علیہم السلام پر دس بار درود بھیجے تو خدا اور اس کے فرشتے سو مرتبہ اس شخص درود بھیجتے ہیں، اور جو کوئی محمد و آل محمد علیہم السلام پر سو مرتبہ درود بھیجے تو خدا اور اس کے فرشتے ہزار بار اس پر درود بھیجتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. (سورہ احزاب: آیہ ۴۳)

”وہ ایسی ذات ہے جو خود اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے باہر نکالے، اور نور کی طرف لے جائے اور وہ اہل ایمان پر بڑا مہربان ہے۔“ (الکافی ۳/۴۹۳ حدیث ۱۳، الوافی ۹/۱۵۱۸ حدیث ۱۳)

## درود ایک وزنی عبادت ہے

(۶/۷۰) امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اعمال کے ترازو میں محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا:

کل قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کو ترازو میں رکھیں گے اگر اس کے (نیک) اعمال کم ہوں گے تو اس وقت رسول خداؐ اپنے اوپر پڑھے گئے درود کو حاضر کریں گے اور اس شخص کے ترازو میں رکھ دیں گے۔ جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔  
(الکافی ۳/۴۹۳ حدیث ۱۵، تہذیب الاسناد: ۱۳، بحار الانوار: ۳۹/۹۴ حدیث ۹)

## بآواز بلند درود پڑھنا

(۷/۷۱) امام صادق علیہ السلام اپنے اباؤ اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

ارفعوا اصواتکم بالصلوة علی فانہا تذهب بالنفاق



(ثواب الاعمال: ۱۵۹، بحار الانوار: ۹۳/۵۹ حدیث ۳۱)

”مجھ پر درود بھیجتے وقت اپنی آواز کو بلند کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے“

## درود کفارہ گناہ ہے

(۸/۷۲) شیخ صدوق علیہ الرحمہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں:

اگر کوئی شخص اپنے کئے ہوئے گناہ کا کفارہ دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ محمد و آل محمدؑ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، کیونکہ صلوات گناہ کی بنیاد کو ویران کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ (امالی صدوق: ۱۳۱ حدیث ۸، مجلس ۱۷، بحار الانوار: ۹۳/۴۷ حدیث ۲)

## حاجتیں اور درود

(۹/۷۳) قطب راوندی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں:

آپؑ نے فرمایا: جو کوئی خلوص نیت کے ساتھ پیغمبر اکرمؐ پر ایک بار درود بھیجے تو خدا اس کی سو حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، جن میں سے تیس حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

جو کوئی بھی مجھ پر شوق اور محبت سے تین بار درود بھیجے تو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔

(دعوات راوندی: ۸۹/۲۲۵، بحار الانوار: ۹۳/۷۰ حدیث ۶۳)

## شیطان کی اقسام

(۱۰/۷۴) شہید اول اپنے مجموعہ میں رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

الشَّيْطَانُ شَيْطَانَانِ، شَيْطَانُ الْجَنِّ وَيَبْعُدُ بِلَا حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ إِلَّا بِاللَّهِ

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَشَيْطَانُ الْإِنْسِ وَيَبْعُدُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ

(المستدرک: ۳۳۲/۵: حدیث ۴۱)

”شیطان دو طرح کے ہیں۔ ایک شیطان جن سے ہے وہ تو ”لاحول ولا قوة الا بالله العلیٰ العظیم“ کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا شیطان انسان سے ہے اور وہ نبیؐ اور ان کی آلؑ پر درود بھیجنے سے بھاگتا ہے“

## باب عافیت

(۱۱/۷۵) کتاب جامع الاخبار میں پیغمبر اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے خدا اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

(جامع الاخبار: ۶۹: حدیث ۵، بحار الانوار: ۶۳/۹۳: حدیث ۵۲)

مؤلف کہتا ہے: رسول خداؐ کے اس فرمان کی تائید وہ مطلب کرتا ہے جو میرے ایک شاگرد نے اہل علم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آنکھ کے شدید درد میں مبتلا ہو گیا تھا درود اتنا شدید تھا کہ مجھے بینائی کے جانے کا خوف ہونے لگا۔ خواب میں ایک شخص نے مجھے زیادہ درود بھیجنے کا حکم دیا۔ اور میں نے اس کام کو جاری رکھا۔ تھوڑی سی مدت میں خدا نے صلوات کی برکت سے مجھے شفا عنایت فرمادی، اور جس درود کے پڑھنے کا مجھے حکم دیا وہ اس طرح تھا:

اللهم صل علی محمد و آل محمد بعدد کل داء و دواء

## درود اور گناہ

(۱۲/۷۶) پیغمبر اکرمؐ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

من صلی علی مرة لم یبق من ذنوبه ذرة

”جو کوئی مجھ پر ایک بار صلوٰۃ پڑھے گا تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ

گناہ باقی نہیں رہے گا“

## درود بھیجنا

(۱۳/۷۷) ابن مسعودؓ آنحضرت سے نقل کرتے ہیں کہ

اولی الناس ہی یوم القيامة اکثرهم علی صلوة فی دار الدنيا  
”قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ

درود بھیجتا ہوگا۔“ (المستدرک: ۵/۳۳۳ اور ۳۳۴ حدیث ۱۱۳ اور ۱۱۴)

## طشت عتاب

(۱۴/۷۸) ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

میں نے عالم رویا میں اپنے چچا حمزہ اور بھائی جعفر بن ابی طالب کو دیکھا، ان کے سامنے عتاب کا ایک طشت تھا کافی دیر تک اس سے انہوں نے کھایا، اس کے بعد وہ انگور میں تبدیل ہو گیا۔ ایک مدت اسے کھاتے رہے پھر وہ کھجوروں میں تبدیل ہو گیا، اسے بھی ایک مدت تک کھاتے رہے اس وقت میں ان کے پاس گیا اور کہا: میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے آپ نے اعمال میں سے کس عمل کو افضل ترین عمل پایا ہے؟

ان دو بزرگوں نے فرمایا: ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ! ہم نے افضل ترین عمل آپ پر درود بھیجنا، پیاسوں کو پانی پلانا اور علی ابن ابی طالب کی دوستی کو پایا ہے:

(دعوات راوندی: ۹۰/حدیث ۲۲۷، بحار الانوار: ۷۰/۹۳ حدیث ۶۳)

## سومرتبہ درود

(۱۵/۷۹) راوندی کتاب نوادر میں رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

من صلی علی محمد مائة مرة قضی الله له مائة حاجة

(نوادر راوندی: حدیث ۱۸۵، المستدرک: ۵/۳۳۲ حدیث ۱۰)

”جو کوئی مجھ پر سومرتبہ درود بھیجے خدا اس کی سو حاجتوں کو پورا کرے گا“



## ایک انوکھا فرشتہ

(۱۶/۸۰) شیخ ابو الفتوح رازیؒ اپنی تفسیر میں رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: میں نے معراج کی رات آسمان کی سیر کرتے ہوئے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ایک ہزار ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں ہزار انگلیاں تھیں وہ فرشتہ حساب کر رہا تھا اور اپنی انگلیوں سے گن رہا تھا۔

میں نے جبرائیل سے کہا: یہ فرشتہ کون ہے اور کس چیز کا حساب کر رہا ہے۔  
جبرائیل نے کہا: یہ فرشتہ بارش پر موکل ہے، اور حساب کر رہا ہے کہ کتنے قطرے آسمان سے زمین پر گرے ہیں۔

آپؐ نے اس فرشتے سے فرمایا: کیا تجھے ابتداء سے لے کر آج تک معلوم ہے کہ کتنے قطرے زمین پر پڑے ہیں؟ اس نے عرض کیا: مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ آسمان سے زمین پر کتنے قطرے پڑے ہیں بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے قطرے سمندر میں، کتنے قطرے خشکی میں، کتنے قطرے آبادی میں، کتنے قطرے باغ میں، کتنے قطرے شور زمین میں اور کتنے قطرے قبرستان میں پڑے ہیں رسول خداؐ نے فرمایا: میں نے اس کے حافظہ سے تعجب کیا اس نے جب مجھے تعجب سے دیکھا اور عرض کیا: یا رسول اللہؐ باوجود اس کے کہ ہاتھوں اور انگلیوں کے لحاظ سے میرے پاس اتنی طاقت ہے، اور اتنا میرا حافظہ قوی ہے لیکن ایک چیز کا حساب کرنے سے قاصر ہوں۔ آپؐ فرماتے ہیں: میں نے اس سے سوال کیا وہ کس چیز کا حساب ہے؟ اس نے عرض کیا: جب آپؐ کی امت میں سے ایک گروہ جمع ہوتا ہے اور آپؐ کا نام آنے پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتا۔

(تفسیر ابو الفتوح: ۲/۲۲۸ المسد رک: ۵/۳۵۵ حدیث ۸)

(۱۷/۸۱) شیخ عبدالحق دہلوی کتاب تاریخ مدینہ میں نقل کرتے ہیں:

حج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا گیا جو حج کے تمام اعمال اور مناسک میں سوائے صلوٰۃ محمدؐ و آل محمدؐ کے اور کوئی دعا نہیں کرتا۔ اس سے پوچھا گیا وہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے جو ان مقامات کے لئے واجب ہیں، اس نے کہا: میں نے اپنے طور پر عہد کیا ہے، کہ فقط صلوٰۃ بھیجوں، کوئی اور دعا اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا باپ اس دنیا سے گیا تو میں نے اسے گدھے کی شکل میں دیکھا، جو دکھ کا باعث ہوا۔ اس کے بعد میں نے رسول خداؐ کو خواب میں دیکھا، میں نے آپ کے دامن احسان کو پکڑ لیا، آپ سے باپ کی شفاعت طلب کی اور آپ سے اس واقعہ کا سبب پوچھا: آپؐ نے فرمایا: تیرا باپ سود خور تھا اور جو کوئی بھی سود خور ہو اس کی یہی سزا ہے۔ لیکن تیرے باپ میں ایک خصوصیت موجود تھی وہ یہ کہ جب رات کو سوتا تھا تو ہر رات سوتے وقت مجھ پر سومرتہ درود بھیجا کرتا تھا، اس عمل کی وجہ سے ہم نے اس کے بارے میں تیری شفاعت کو قبول کر لیا اور اسے بخش دیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح نورانی دیکھا اور اسے دُفن کرتے وقت ایک ہاتھ غیبی کی آواز سنی، جو کہہ رہا تھا کہ تیرے باپ پر خدا کی عنایت اور بخشش کا سبب وہ صلوٰۃ ہے جو رسول خداؐ پر بھیجا کرتا تھا۔ (دار السلام: ۹۳/۲)

### آل محمدؐ پر درود

(۱۸/۸۲) محدث نوری شیخ احمد بن زین الدین (جو اپنے زمانے میں اپنا بدل نہ رکھتے تھے) سے نقل کرتے ہیں:

میں نے عالم خواب میں امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کے پاس شکوہ اور نالہ کیا کہ آخرت کے لئے کچھ جمع نہیں کیا، توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو سکی اور میں اعمال صالح بجالانہ سکا۔

حضرت نے فرمایا: تیرے لئے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کر اور ہم اس بھیجے ہوئے درود کے عوض تمہاری طرف سے وہ

اعمال قیامت تک بجالائیں گے جن کی توفیق تجھے حاصل نہیں ہوئی۔ (دارالسلام: ۱۱۲/۲)

(۱۹/۸۳) کلینی علیہ الرحمۃ کتاب کافی میں امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں:

آپ نے ایک شخص سے فرمایا: (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) کا معنی کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جب بھی اس کے پروردگار کا نام آئے تو وہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا: اگر خدا نے ایسی تکلیف دی ہوتی تو بڑا مشکل تھا۔ اس شخص نے عرض کیا پس اس کا معنی کیا ہے آپ نے فرمایا:

کَلِمَاذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 ”جب بھی اپنے رب کا نام یاد کرو تو محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجو“

### درود اور مشکلات کا حل

(۲۰/۸۴) تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں آیہ شریفہ  
 وَادْعُنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

(سورۃ بقرہ: آیت ۴۹)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کا عذاب سخت یہ تھا کہ ان سے عمارتیں بنانے کے لئے مٹی کھینچنے کا کام لیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں انہیں باندھ کر رکھتے تھے۔ بمشکل یہ لوگ مٹی کو سیڑھیوں کے اوپر لے کر جاتے تھے۔ بسا اوقات اوپر سے نیچے گر کر مر جاتے تھے یا ہاتھ پاؤں تڑوا بیٹھتے تھے، کوئی ان کی طرف توجہ نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہو کہ کوئی کام بھی شروع نہ کرو مگر یہ کہ اس کی ابتداء محمدؐ اور ان کی آل طہیین علیہم السلام پر درود بھیجنے کے ساتھ کرو۔ انہوں نے اس حکم پر عمل کیا اور مشکل آسان ہو گئی۔ یہ بھی فرمایا: کہ جو کوئی بھی درود بھول جانے کی وجہ سے زمین پر گر پڑے یا لنگڑا لولہ ہو جائے اگر وہ خود پڑھ سکتا ہو تو صلوات پڑھے اور اگر وہ خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کوئی دوسرا اس کی طرف سے پڑھے تاکہ یہ مصیبت اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔



اس تفسیر میں آیت کے اس حصے (يَذَّبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ) (سورۃ بقرہ: آیت ۴۹) ”ہمارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے“ کے ذیل میں فرماتے ہیں ان کی عورتوں میں سے جو کوئی بھی حاملہ ہوتی تو دائی کو رشوت دیتے تھے تاکہ کسی کو نہ بتلائے، یوں مدت حمل مکمل ہو جاتی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے صحرا میں، یا کسی پہاڑ کے سوراخ میں، یا کسی دور مقام پر چھوڑ آیا کرتے تھے اور دس مرتبہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجتے تھے جس کے سبب خدا تعالیٰ ایک فرشتے کو اس بچے پر مامور کرتا تھا تاکہ اس کی تربیت کرے۔ وہ بچہ ایک انگلی سے دودھ پیتا تھا اور دوسری انگلی سے نرم غذا کھاتا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی قوم بڑھتی رہی۔ جتنی تعداد ان کی بچی وہ اس تعداد سے کہیں زیادہ تھی جو قتل ہوئی۔

تفسیر میں اس آیت ”وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ“ (سورۃ بقرہ: آیت ۴۹) ”تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے“ کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ عورتوں کو باقی رکھتے تھے اور اپنی کنیزیں بنا لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گریہ و نالہ کرنے لگے، اور کہا کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کام پر لگائے رکھتے ہیں اور ان سے خدمت کرواتے ہیں لہذا مدد فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجا کرو تاکہ اس مصیبت سے نجات حاصل کرو۔ آیہ شریفہ:

وَإِذْ قُلْنَا بِكُمْ الْبَاحِرَ فَلَنُجِّنَاكُمْ. (سورۃ بقرہ: آیت ۵۰)

”جب ہم نے دریا کو چیرا اور تمہیں نجات دی“ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰؑ دریا کے کنارے پہنچے تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہو میری توحید کی تجدید کریں، اپنے دلوں کے ساتھ مخلوق کے سردار محمدؐ کی نبوت کا اقرار کریں، ان کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ تجدید عہد کریں اور ان سے کہو یہ کہیں کہ خدایا ہمیں یہ دریا غبور کرنے کی ہمت فرما: اگر ایسا کرو گے تو دریا کا پانی زمین کی طرح ہو جائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ دستور دیا تو انہوں نے جواب میں کہا،

ہمیں جو اچھا نہیں لگتا اسے بجا لانے کا حکم دیتے ہو۔ آیا موت کے علاوہ اور کوئی ڈر تھا کہ ہمیں فرعون سے بھگا کر لائے ہو۔؟ اب آپ ہمیں موجیں مارتے ہوئے دریا کے سامنے یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیتے ہو۔ معلوم نہیں ہمارے سر پر اب کون سی مصیبت آئے گی۔

کالب بن یوحنا جو گھوڑے پر سوار تھا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ دریائی خلیج چار فرخ لمبی ہو۔ کیا خدا نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کلمات کو پڑھ کر اس میں داخل ہو جائیں؟

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں! اس نے عرض کیا: آپ بھی ہمیں یہی حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا: ہاں! اس وقت وہ کھڑا ہوا۔ اور اس نے خدا کی توحید، محمدؐ کی نبوت اور امیر المومنینؑ اور ان کی آل اطہار علیہم السلام کی ولایت کا اقرار کیا اور ان کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کی پھر یہ عرض کیا:

اللهم بجاہم جوزنی علیٰ هذا الماء  
 ”اے خدا تجھے ان عظیم ہستیوں کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس پانی کے اوپر سے  
 گزار دے“

اس کے بعد اپنے گھوڑے کو پانی کے اندر لے گیا اور پانی کے اوپر چلنے لگا، پانی ایسے ہو گیا جیسے نرم اور ہموار مٹی ہو، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے تک چلا گیا۔ پھر جلدی سے واپس آیا اور بنی اسرائیل سے کہنے لگا۔

اے گروہ بنی اسرائیل! پیغمبر موسیٰؑ کی اطاعت کرو۔

فما هذا الدعا الا مفتاح ابواب الجنان مغالیق ابواب النيران  
 ومستنزل الارزاق والجالب علیٰ عباد الله وامائه رضاء الرحمان  
 المهيمن الخلاق.

”یہ دعا جس کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے یہ جنت کے دروازوں کی چابی، جہنم کے دروازوں کا تالا رزق کو نازل کرنے والی اور خدائے مہربان کی خوشنودی

کو جلب کرنے والی ہے“

بنی اسرائیل نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ ہم سوائے زمین پر چلنے کے کسی طرح بھی نہ جائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ سے فرمایا: **إِنْ أَصْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ** ”اپنے عصا کو دریا پر مارو اور کہو“ **اللهم صل علی محمد وآلہ لما فلقته** ”اے خدا محمد و آل محمد پر درود بھیج اور اس دریا کو ہمارے لئے چیر دے۔ پس یہ پڑھنا تھا کہ دریا اور دریا کی تہہ تک زمین نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا: اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے: ابھی اس کی زمین تر اور پھسلا دینے والی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس میں دھنس نہ جائیں، خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ سے فرمایا: اے موسیٰؑ! کہو:

**”اللهم بحق محمد وآلہ الطیبین جففها“**

اے معبود محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقے میں اس زمین کو خشک کر دے۔

جب موسیٰؑ نے یہ کہا تو خدا نے باد صبا کو اس کی طرف بھیجا اور وہ زمین خشک ہو گئی۔ پھر موسیٰؑ نے فرمایا: اب داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا: اے پیغمبر خدا! ہم بارہ قبیلے ہیں۔ جب ہم دریا میں داخل ہوں گے تو ہر قبیلہ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم دوسرے سے آگے جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ اگر ہر قبیلے کے لئے علیحدہ راستہ بن جائے تو اس چیز کا خطرہ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے فرمایا کہ اپنے عصا کو ان کی تعداد کے مطابق بارہ مرتبہ زمین پر مارو اور یہ کہو:

**اللهم بجہاد محمد وآلہ الطیبین بین لنا الارض وامط الماء عنا**

”اے خدا! محمد اور ان کی پاک آل کی آبرو کی قسم زمین کو ہمارے لئے ظاہر

فرما اور پانی کو دور کر دے پس ایسا کرنا تھا کہ بارہ راستے بن گئے“

اور اوپر سے زمین باد صبا کے چلنے کی وجہ سے خشک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم سے فرمایا اب داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جب ہم میں سے ہر گروہ اپنے اپنے راستے پر چل نکلے گا تو دوسرے گروہ کو معلوم نہ ہوگا کہ ان پر کیا گذری۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا:



ان راستوں کے درمیان اپنے عصا سے مارتے جاؤ اور یہ کہتے جاؤ:

اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت في هذا الماء طيقانا  
واسعة يري بعضهم بعضاً“

اے خدا! تجھے محمد اور ان کی پاک آل کا واسطہ، اس پانی کے درمیان بڑے بڑے  
روشن دان بنادے تاکہ یہ گروہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، اس کے بعد بنی اسرائیل داخل  
ہو گئے۔

### نماز سے مراد آل محمدؐ پر درود

(۲۱/۸۵) امام حسن عسکری علیہ السلام آیت شریفہ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَيُذِي الْقُرْبَىٰ وَيَتِمَّى الْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

(سورۃ بقرہ: آیت ۸۳)

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ سوائے خدا کے کسی کی  
عبادت نہ کرو۔ والدین، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو،  
لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو اور نماز قائم کرو“

کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز سے مراد نماز پنجگانہ اور محمد و آل محمد  
علیہم السلام پر صلوات بھیجنا ہے۔ نیز امام فرماتے ہیں کہ مختلف حالات میں محمد و آل محمد پر درود  
بھیجتے رہا کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے یا خوشحال ہو، جب تم مشکلات میں دوچار ہو یا تم نعت  
سے سرشار ہو، اور جب تمہارے دلوں کو دکھ و تکلیف پہنچے۔ (تفسیر امام عسکری: ۳۲۷)

(۲۲/۸۶) امام حسن عسکری علیہ السلام آیت شریفہ:

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْهِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. (سورۃ بقرہ: آیت ۸۹)

”بعثت سے قبل آنحضرتؐ کے نام کے ذریعے کافروں پر فتح و نصرت طلب کرتے تھے اور جب وہ آیا اور اسے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا پس کافروں پر خدا کی لعنت ہے“ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو بعثت سے پہلے یہودیوں کے ایمان کے بارے مطلع کیا ہے کہ یہودی پیغمبر کا نام لے کر اور ان اور ان کی اہل بیت پر صلوات بھیجنے کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح و نصرت طلب کرتے تھے۔  
(تفسیر امام عسکریؑ: ۳۹۳)

### یہودی اور درود

(۸۷-۲۳) امام فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ اور ان کے بعد والے زمانے کے یہودیوں کو حکم فرمایا تھا کہ وہ جب بھی کسی مشکل میں پڑیں اور یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو خدا کو محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ دے کر پکاریں اور ان کے وسیلے سے مدد طلب کریں۔

یہودی اس حکم پر عمل کرتے تھے یہاں تک کہ مدینہ کے یہودی بعثت پیغمبر سے قبل سالہا سال تک ایسا کرتے اور بلاؤں، مصیبتوں اور مشکلات پر غلبہ حاصل کرتے تھے۔ رسول اکرمؐ کی بعثت سے دس سال قبل دو قبیلے اسد اور غطفان اور کچھ مشرکین یہودیوں کے ساتھ دشمنی کرنے اور ان کو اذیت و تکلیف دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہودیوں نے خداوند تعالیٰ کو محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ دے کر درخواست کی تو اس تقرب کے واسطے سے انہوں نے مشکلات پر قابو پا لیا۔

ایک دفعہ ان دو قبیلوں نے تین ہزار گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے کچھ محلوں پر حملہ کر دیا، یہودی جو تین سو سے زیادہ نفر نہ تھے انہوں نے مقابلہ کرنے کے لیے خدا کو محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ دے کر پکارا تو خدا کے فضل و کرم سے

ان کو شکست دے دی۔

شکست کے بعد ان دو قبیلوں نے مشورہ کر کے یہ پروگرام بنایا کہ باقی قبیلوں سے مدد لی جائے، اس طرح انہوں نے اپنی تعداد تیس ہزار تک کر لی اور دوبارہ ان تیس ہزار نفر کے ساتھ تین سو یہودیوں پر حملہ کر دیا، ان کو اپنے محاصرہ میں لے لیا، ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ یہودیوں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو ان سے امان طلب کی لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، اور کہنے لگے کہ تمہارے لئے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا تمہارے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنالیا جائے گا اور تمہارے اموال لوٹ لئے جائیں گے۔

جب یہودیوں نے امید کے تمام راستے بند دیکھے تو چارہ جوئی کی فکر کرنے لگے، یہودیوں کے بزرگوں نے کہا: اپنے گزرے وقت کو کیوں بھول گئے ہو؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں کو یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ جب کبھی مشکلات میں پھنس جاؤ تو محمد وآل محمد علیہم السلام کا واسطہ دے کر خدا سے مدد طلب کرو۔ اور اس کے دربار میں آ کر آہ و بکا کرو اور اپنی مشکلات کو محمد وآل محمد علیہم السلام کے واسطہ سے برطرف کرو۔ سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا: تم بھی ایسا ہی کرو تا کہ نجات پاسکو۔

یہودی دست بہ دعا ہوئے:

اے خدا محمد وآل محمد علیہم السلام کی عزت و عظمت کے واسطے ہم تک پانی پہنچا دے، ان ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے جوان کمزور ہو چکے ہیں اور ہلاکت کا سخت خطرہ ہے۔

ان کی دعا اللہ نے مستجاب فرمائی اور ایسی موسلا دھار بارش نازل فرمائی کہ ان کے حوض، نہریں اور تمام برتن بھر گئے۔ یہودیوں نے کہا کہ دو احسانوں میں سے ایک احسان تو ہم تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ جس لشکر نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کیا گزری، انہوں نے دیکھا کہ پورا لشکر مصیبت میں گرفتار ہے۔ ان کا اسلحہ بیکار ہو چکا ہے، ان کے تمام وسائل اور کھانے کی چیزیں خراب ہو چکی ہیں۔ اس لشکر کے کچھ



لوگ اس غیر متوقع بارش کو اپنے لئے فال بد سمجھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ وہ لشکریوں کی تعداد جو باقی بچ گئی تھی نے یہودیوں سے کہا کہ فرض کر لیا پانی تو آپ کو مل گیا لیکن کھانا کہاں سے حاصل کرو گے؟ اگر ہمارے کچھ لوگ واپس چلے گئے ہیں ہم تو واپس نہیں گئے، یہاں تک کہ تم، تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اموال پر غلبہ حاصل کر لیں۔ اپنی تکلیف کو دور اور دل کو تسلی دیں لیں، یہودیوں نے کہا: جس ذات نے ہمیں محمد وآل محمد علیہم السلام کے صدقے پیاس سے نجات دی ہے وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں کھانا کھلائے، اور جس ذات نے تمہارے ایک گروہ سے نجات دی ہے وہ دوسروں کے شر کو بھی دور فرما دے گا۔ اس کے بعد یہودیوں نے خداوند تعالیٰ کو محمد وآل محمد علیہم السلام کا واسطہ دے کر پکارا اور کھانے کا سوال کیا تو خداوند تعالیٰ نے ان کی طرف ایک ایسا بڑا قافلہ بھیج دیا جن کے ساتھ دو ہزار اونٹ، خیر اور گدھے تھے اور اپنے ہمراہ آٹا، گندم اور کھانے کی دوسری چیزیں رکھتے تھے۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو دشمن کا تمام لشکر نیند میں تھا، خدا نے ان پر نیند کو اس قدر غالب کر دیا کہ انہیں اس قافلے کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی، اور وہ قافلہ بڑے آرام سے بستی میں داخل ہو گیا، اپنا سارا مال و متاع زمین پر رکھ دیا اور یہودیوں کو بیچ دیا، اس کے بعد اس مقام سے دور چلے گئے لیکن لشکر ابھی تک سویا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد جب لشکر والے نیند سے بیدار ہوئے اور یہودیوں سے لڑائی کا ارادہ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، بہت جلد ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے، یہودیوں نے ان کے جواب میں کہا کہ جو تم نے خیال کیا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہمیں کھانا پہنچا دیا ہے، جب تم سوئے ہوئے تھے اور اس وقت اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ختم کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا کرنا پسند نہ کیا اب تم واپس چلے جاؤ۔ اور ہمیں ہمارے حال پر باقی چھوڑ دو مگر نہ خدا سے محمد وآل محمد علیہم السلام کی مدد طلب کریں گے تاکہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے لیکن انہوں نے جواب نہ دیا۔ یہودیوں نے اپنے ہاتھ بلند کئے اور خدا سے محمد وآل محمد علیہم السلام کے واسطہ سے مدد طلب کی اور اپنی کم تعداد کے ساتھ اس بڑے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے بعض کو قتل کر دیا

اور کچھ کو قیدی بنالیا اور باقیوں کو ادھر ادھر بھگا دیا۔ ان یہودیوں نے بعثت پیغمبرؐ اور ظہور اسلام کے بعد رسول اکرمؐ سے حسد کیا اور ان کو جھٹلایا۔ اور یہ کہتے تھے کہ وہ عرب کے قبیلے سے کیوں ہیں۔ پھر رسول خداؐ نے فرمایا: یہ فتح اور نصرت صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ دیتے تھے۔

پس تم اے امت محمدؐ مصائب اور پریشانی کے وقت محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ دو تاکہ خدا ان کی برکت سے تمہارے موکل فرشتوں کے ذریعے تمہارے دشمن شیطان کے خلاف تمہاری مدد کرے۔ تم میں سے ہر ایک کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہے جو نیکیوں کو لکھتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے جو گناہ لکھتا ہے اس فرشتے کے ساتھ ابلیس کی طرف سے دو شیطان ہیں جو اسے گمراہ کرتے ہیں۔ جب وہ دو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اگر وہ ذکر خدا کرے اور یہ ذکر شریف کرے ”لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین“ تو وہ دو شیطان بے بس ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔

(تفسیر امام عسکریؑ: ۳۹۳-۳۹۶)

## شدید عذاب

(۲۳/۸۸) محدث نوری اپنی کتاب ”دارالسلام“ میں کتاب ”ریاض الذوہان“ سے نقل کرتے ہیں:

ایک عورت نے خواب میں اپنی مرحوم بیٹی کو شدید عذاب میں گرفتار دیکھا، جب خواب سے بیدار ہوئی تو اس مشاہدے نے اسے غمناک کر دیا، اور رونے لگی۔ دو دن بعد پھر اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑی خوش و خرم جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہی ہے۔ جب اس نے اپنی بیٹی سے سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی، لیکن آج ایک شخص اس قبرستان سے گذرا اور اس نے چند بار محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود پڑھا، اس درود کے ثواب کو اہل قبور کے درمیان تقسیم کر دیا، اس طرح سبھی

کا عذاب رحمت خداوندی میں تبدیل ہو گیا۔ (دارالسلام: ۱۸۸/۲)

## درود رات کے وقت

(۲۵/۸۹) محدث نوری کتاب شفاء الاسقام سے محمد بن سعید کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہر روز سونے سے پہلے معین مقدار محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجا کروں گا۔ ایک رات میں نے عالم رویا میں رسول خداؐ کو دیکھا کہ ہمارے کمرے میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت کے نور اقدس سے تمام گھر منور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا:

وہ منہ کہاں ہے جس کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتے ہو، تاکہ اس کا بوسہ لوں، میں نے اپنا منہ آگے کرنے سے شرم محسوس کی اور اپنا چہرہ آگے کر دیا، آنحضرتؐ نے میرے چہرے کو بوسہ دیا۔ میں خوشی کے عالم میں بیدار ہوا اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا۔ گھر کے تمام کمرے اس طرح خوشبودار ہو چکے تھے گویا وہاں پر مشک و عنبر کی خوشبو چھڑکی گئی ہو۔ اور یہ خوشبو آٹھ دنوں تک میرے چہرے سے آتی رہی، اور ہر کوئی اس سے بہرہ مند ہوتا تھا۔ (دارالسلام: ۱۸۸/۲)

## ابراہیمؑ اور درود

(۲۶/۹۰) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ ”علل الشرائع“ میں امام ہادی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو اپنا خلیل بنایا کیونکہ ابراہیمؑ محمد و آل محمد علیہم السلام پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔ (علل الشرائع: ۱/۳۳)

(۲۷/۹۱) کتاب بشارۃ المصطفیٰ للشیخ المرتضیٰ میں حضرت باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کوئی اپنی نماز کے رکوع سجدہ اور قیام میں درود بھیجے یعنی کہے ”اللھم صل علی محمد و آل محمد علیہم السلام“ تو خدا تعالیٰ اسے رکوع سجود اور قیام کا ثواب عطا کرے گا۔ (بشارۃ المصطفیٰ: ۱۹۳، الکافی: ۳/۳۲۲ حدیث ۱۳)



## درود سب سے بہتر ہے

(۲۸/۹۲) شیخ حرعالمی کتاب وسائل الشیعہ میں اصول کافی سے نقل کرتے ہیں۔

ایک شخص جس کا نام عبدالسلام تھا نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا: جب میں طواف کر رہا تھا تو محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجنے کے علاوہ مجھے کوئی دعا یاد نہ آئی، یہی عمل جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا تو دھرایا۔

حضرت نے فرمایا: جس کسی نے بھی دعا کی ہے جو تجھے عطا کیا گیا ہے، اس سے بہتر ان کو عطا نہیں کیا گیا: (الکافی: ۴/۳۹۳ حدیث ۱۷: وسائل الشیعہ: ۳/۱۲۱۱ حدیث ۵، ثواب الاعمال: ۱۵۵) مؤلف فرماتے ہیں کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ درود افضل ترین عمل ہے۔

## درود اور تحریر

(۲۹/۹۳) شہید قدس اللہ مرقدہ اپنی کتاب ”منیۃ المرید“ میں رسول خداؐ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی تحریر میں مجھ پر درود پڑھنے کا تذکرہ کرے گا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں باقی رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔ (منیۃ المرید: ۲۱۶)

مؤلف فرماتے ہیں کہ اس باب کو دو مطالب کے ذکر مکمل کرتے ہیں:

اول: وہ فضائل جو آنحضرتؐ کے ساتھ بہت زیادہ اختصاص رکھتے ہیں اگرچہ وہ بہت زیادہ ہیں لیکن ہم صرف اس روایت پر اکتفاء کرتے ہیں جو ”کافی“ میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبر اکرمؐ کے وجود اقدس کے ساتھ خاص ہیں، اور آپؐ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتیں۔ پیغمبر اکرمؐ کا سایہ نہ تھا۔ جس مقام سے آپؐ کا گذر ہوتا تو دو یا تین دن تک گزرنے والے کو ایسی خوشبو آتی جس سے وہ سمجھ جاتا کہ یہاں سے حضورؐ کا گذر ہوا ہے۔ اور جس درخت یا پتھر کے پاس سے گذرتے وہ آپؐ کو سجدہ کرتا۔ (الکافی: ۱/۴۳۲، بحار الانوار: ۱۶/۳۶۸ حدیث ۷۹)

مؤلف کہتے ہیں کہ ایک فارسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے۔

سایہ پیغمبر ندارد پیچ می دانی چرا؟

آفتابی چون علی در سایہ پیغمبر است

”آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کا سایہ کیوں نہیں ہے۔ اس لئے کہ علیؑ

جیسا سورج ان کے سایہ میں ہے۔“

دوسرا مطلب: یہ ہے کہ آیا محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود پڑھنا ان کے

مقام و مرتبہ کی بلندی کا سبب بنتا ہے یا نہیں؟

ایک گروہ نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ ان کے گمان میں خداوند تعالیٰ نے

ان کو انسانیت کے کامل ترین مرتبہ پر فائز کیا ہے، اس مرتبہ سے بڑھ کر کسی اور مرتبہ کا تصور نہیں

کیا جاسکتا۔ اس نظریہ کے مطابق درود پڑھنے کا فائدہ صرف درود پڑھنے والے کو پہنچتا ہے۔ جیسے

کہ زیارت جامعہ میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کا فرمان اس مطلب پر دلالت کرتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

ہمارے درود اور اس ولایت کا فائدہ جو آپ اہل بیت کے ساتھ رکھتے ہیں ہماری

اخلاق اور نفوس کی پاکیزگی قرار دیا ہے۔ (عیون الاخبار: ۲/۲۷۲-۲۷۷، بحار الانوار: ۱۰۲/۱۲۷ حدیث ۴)

لیکن مؤلف نے پہلے نظریے کو اختیار کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہمارا درود بھیجتا محمد و

آل محمد علیہم السلام کے مرتبہ اور درجہ کی بلندی اور زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے کہ

روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، اور اس لئے کہ قابل اور کامل دونوں موجود ہیں۔ یعنی

چہارہ معصومین علیہم السلام کی ذات مقدسہ ایسے موجود ہیں جو فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت

رکھتے ہیں اور پروردگار عالم کی ذات ایسی ذات ہے جو سب کے لئے فیاض (یعنی فیض کثیرا)

ہے کیونکہ مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود۔ یعنی تقاضا کرنے والی چیز موجود ہے اور کوئی مانع

بھی نہیں ہے۔ لہذا اس قول کو قبول کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور خود آنحضرتؐ بھی اس

طرح تھے کہ امت کے نیک و صالح افراد سے دعا کا تقاضا کیا کرتے تھے کہ:

ان ربی وعدنی مرتبة الشفاعة والوسيلة ولا تنال الا بالدعاء

”میرے پروردگار نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ مجھے شفاعت اور وسیلہ کے مرتبہ و درجہ تک پہنچا دے، لیکن دعا کے بغیر اس مرتبہ تک نہیں پہنچا جاسکتا، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، اہل فکر کے لئے کافی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں محمد و آل محمد علیہم السلام کی ولایت پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور وہ جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے“





## امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب

(۱/۹۳) امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک مشہور روایت ہے کہ

تمام وہ جو قرآن میں ہے سورہ حمد میں ہے اور تمام جو سورہ حمد میں ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں جمع ہے اور وہ تمام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اس کی ”باء“ میں ہے اور ”باء“ کے تمام اسرار اس کے نقطہ میں ہے، اور میں باء کے نیچے والا نقطہ ہوں۔

مؤلف اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ ”بسم اللہ“ کی باء میں مندرج ہے۔ یہ اس قول کی بنا پر ہے جس میں باء کو روشنی، رونق یا قدرت کے معنی میں لیا گیا ہو، اور یہ بعد میں ذکر ہونے والے تمام اسماء کو شامل ہے۔ یا اس ربط کی وجہ سے جو اسم حق اور مخلوق کے درمیان باء کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔

کیونکہ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ تمام مخلوقات ہستی کی بنیاد وہ تعلق اور رابطہ ہے جو مخلوقات اور اسم حق کے درمیان موجود ہے۔ اگر یہ تعلق نہ ہوتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ نہ کوئی ذات ہوتی نہ کوئی صفت اور نہ کوئی موصوف۔ پس یہی ربط اور تعلق ہی ایک ایسی اصل اور بنیاد ہے جو چیزوں کی حفاظت اور احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اس عبارت کا معنی جو کمیل بن زیاد

سے ہم تک پہنچی ہے کہ ”باء ہی کے سبب وجود ظاہر ہوا ہے اور نقطہ کے سبب عابد معبود میں تیز پیدا ہوتی ہے“ کا معنی بھی یہی ہے۔ (مشارق الانوار: ۳۸)

اور اس روایت کی توجیہ بھی یہی ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ:

”موجودات کو باء بسم اللہ کے ساتھ ظاہر کیا ہے“

اور رہا یہ مطلب کہ نقطہ تمام اسرار کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جو باء میں ہیں، تو ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ نقطہ باء کے ظاہر ہونے کا مقام ہے اور یہ نقطہ ہی ہے جس نے باء کو معین اور ظاہر کیا ہے۔ جیسے کہ لکھا ہوا نقطہ باء کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو اس کے مشترکات سے جدا اور معین کرتا ہے۔

پس امام علیہ السلام کا مقصود حقیقت ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اسم الہی کا اٹھانے والا ہوں۔ اور میں نے اسے عالم میں ظاہر اور معین کیا ہے، یا نقطہ سے مراد وہ چیز ہو جو الف یا دوسرے حروف کی اصل ہے اور یہ اس نام کا تذکرہ ہے جو الف اور بطریق اولی باء اور اپنی عین بساطت کے ساتھ تمام حروف کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ پس اسی وجہ سے صحیح ہے کہ اس نقطہ کو تحت الباء کا نام دیا جائے۔ جیسے ہم کہیں کہ معنی تحت لفظ ہے۔ یعنی لفظ اپنے اندر یہ معنی لئے ہوئے ہے، کیونکہ نقطہ باطن ہے اور باء اس کی حکایت کرتا ہے اور بذات خود باء کے نیچے چھپا ہوا ہے اگرچہ باء کے جسم میں ظاہر ہے۔ پس نقطہ ایک اعتبار سے خدا کے نزدیک مقام و مرتبہ رکھتا ہے، بالفاظ دیگر اس کے ساتھ متحد ہے اور مقام پروردگار کا مظہر ہے، اور صحیح ہے کہ تحت الباء عبارت صفت میں خبر کے لئے مبتداء ہو۔ مقصود یہ ہے کہ میں خود نقطہ ہوں اس کے ساتھ کہ تحت الباء واقع ہوں اور یہ اپنے نزول کے لحاظ سے اس عالم سفلی میں حقیقت محمدیہ ہے۔

علی کے چہرے کا بوسہ

(۲/۹۵) بحرانی تفسیر ”برہان“ میں آیہ شریفہ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَلَأْنَا. (سورہ ھم: آیت ۳۵)

”خیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے سے ہم طاقت ور کریں گے اور ہم تم دونوں کے لئے حجت، برہان، قدرت اور توانائی قرار دیں گے“

کے ذیل میں انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے اپنا ایک قاصد ایک گروہ کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، یہ خبر آنحضرتؐ تک پہنچی، آپؐ نے حضرت علیؑ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور باقی افراد کو قیدی بنالیا جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول خداؐ سے ملاقات کی، آپؐ نے حضرت علیؑ کو گلے لگایا اور چہرے کا بوسہ دیا اور فرمایا: میرے ماں باپ قربان اس پر جس کے ذریعے سے خدا نے میرے بازو کو قوی کیا جیسے کہ موسیٰؑ کے بازو کو ہارونؑ کے ذریعے سے طاقت ور کیا۔

(تفسیر برہان: ۳/۲۲۶ حدیث ۱، تاویل فلاہیات: ۱/۲۱۵ حدیث ۶، بحار الانوار: ۳۸/۳۰۵-۳۰۶)

## وجود مثالی

(۳/۹۶) بحرانی تفسیر برہان میں برسی علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں کہ

جب ہارونؑ اپنے بھائی موسیٰؑ کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور ایک دن فرعون کے پاس گئے اور ان کے دل میں فرعون کا خوف پیدا ہو گیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے جس نے سونے کا لباس پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں سونے کی تلوار لیے ہوئے ہے ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ فرعون کو سونا بہت پسند تھا۔ اس گھوڑے پر سوار شخص نے فرعون کی طرف منہ کیا اور فرمایا: ان دو آدمیوں کا جواب دو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا فرعون نے جب اس صورت حال کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اور کہا اس کام کو کل انجام دوں گا۔ جب موسیٰؑ اور ہارونؑ باہر چلے گئے تو اپنے دربار کے محافظوں کو بلایا اور ان سے پوچھ چگچ شروع کر دی اور انہیں سزا کی دھمکی دیتے ہوئے کہا: یہ گھوڑے پر سوار شخص میری اجازت کے بغیر کس طرح داخل ہوا ہے؟ سب نے فرعون کی قسم کھا کر کہا کہ ان دو آدمیوں کے سوا اور کوئی شخص اندر نہیں آیا۔



گھوڑے پر سوار شخص علی علیہ السلام کا مثالی وجود مبارک تھا۔ جس کے ذریعے سے خدا نے پردے میں اپنے انبیاء کی مدد کی اور خاتم الانبیاء کی ان کے ذریعے سے ظاہر بظاہر مدد کی۔ علی علیہ السلام خدا کا وہ عظیم کلمہ ہیں کہ خدا نے جس صورت میں چاہا اپنے اولیاء کے لئے ظاہر کیا اور ان کی مدد فرمائی، انہوں نے اس کلمہ خدا کو پکارا۔ اس نے جواب دیا اور ان کو نجات دی۔ یہ آیت اس قصہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے:

وَنَجْعَلُ لَّكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا. (سورہ قصص: آیت ۳۵)

”آیات اور معجزات کے ذریعے سے ہم نے تم دونوں کو وہ قدرت عطا کی ہے کہ دشمن ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے“

ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑی الہی نشانی اور معجزہ جو خدا نے ان دو بزرگواروں کو عطا کیا وہ وہی گھوڑے پر سوار ہستی تھی۔ (مشارق انوار البقین: ۸۱، تفسیر برہان: ۳/۲۲۶ حدیث ۲)

## جن مکھی بن گیا

(۳/۹۷) برسی علیہ الرحمۃ کتاب مشارق میں نقل کرتے ہیں کہ تاریخ دانوں نے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خداؐ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے نزدیک ایک جن آپؐ سے مشکل احکام پوچھ رہا تھا۔ اتنے میں امیر المومنینؑ علیہ السلام وارد ہوئے تو وہ اس قدر چھوٹا ہوا کہ مکھی بن گیا۔ پھر وہ بولا اے رسول خداؐ مجھے اپنی پناہ میں لے لیتے۔ آپؐ نے فرمایا: کس سے ڈر رہا ہے؟ اس نے کہا اس جوان سے جو ہماری طرف آرہا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جب طوفان نوح آیا تو میں نے کشتی نوح کو غرق کرنا چاہا، لیکن اسی نوجوان نے مجھے غرق لگاؤی اور میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ دیکھایا۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا ہاں یہ وہی جوان ہے۔ (مشارق انوار البقین: ۸۵)

## جوان سے پناہ

(۵/۹۸) ایک اور روایت کرتے ہیں کہ ایک جن رسول خداؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اس جن نے آپؐ کو دیکھ کر آواز بلند کی اور مدد طلب کی اور عرض کرنے لگا، اے رسول خداؐ! مجھے اس جوان سے پناہ دیجئے۔ حضرت نے فرمایا: اس جوان نے آپؐ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا: میں نے سلمانؓ کی نافرمانی کی تو حضرت سلیمان نے میری طرف کچھ جنوں کو بھیجا۔ میں ان پر غالب آ گیا۔ لیکن یہ جوان گھوڑے پر سوار میرے پاس آیا اور مجھے مجروح کر کے قیدی بنالیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا وہ زخم بھلی دکھلایا جو ابھی تک ٹھیک نہ ہوا تھا۔

(مشارق انوار الحقین: ۸۵، تفسیر برہان ۳/۲۲۶ حدیث ۴، مدینۃ العاجز: ۱۳۲/۱ حدیث ۸۲)

مؤلف کہتے ہیں اگرچہ امیر المومنینؓ علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا پر بعد میں آئے ہیں لیکن آپؐ کے لئے زمان و مکان اس طرح سمٹے ہوئے ہیں کہ ان کے لئے ماضی، حال اور مستقبل کوئی اہمیت نہ رکھتا ہے، کیونکہ ان کا زمانہ اور زمانیات پر کنٹرول ہے۔ یہ سب کچھ آپؐ کی ولایت اور تصرف کے مرحون منت ہے۔ آپؐ کا وجود مقدس زمانے کا مقید نہیں۔ آپ تمام مخلوقات پر شاہد ہیں۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام کا فرمان زیارت جامعہ میں جو موجود ہے اس کی تفسیر اسی معنی میں کی گئی ہے۔ جس میں حضرت فرماتے ہیں۔

واجساد کم فی الاجساد وارواحکم فی الارواح وانفسکم فی النفوس وقبورکم فی القبور.

”یعنی آپؐ کا وجود مبارک تمام اجساد، ارواح، نفوس اور قبور کا احاطہ رکھتا ہے۔“ اور یہ جو خدا قرآن میں اپنے کچھ خطابات میں گزرے ہوئے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا: ”الم تر“ کیا تو نے نہیں دیکھا“ اس میں بھی یہی راز ہے“

اور کبھی کبھی بغیر وقت اور تحقیق کے ان جملات کی تفسیر کسی اور طرح کر دی جاتی ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ”ذکر کم فی الذاکونین“ یعنی تمہاری یاد، ذکر کرنے والوں کے درمیان ہے۔ یعنی آپ کے وجودی آثار کے احادیث و علوم ہیں ان کے درمیان ہے۔ اور اس جملہ کے متعلق کہا جاتا ہے ”اجساد کم فی الاجساد“ اس طرح ”ارواحکم فی الارواح و نفوسکم فی النفوس“ کے متعلق کہتے ہیں تمہارے اجساد تمہارے ارواح اور نفوس ہمارے، اجساد، ارواح اور نفوس کی طرح حکم رکھتے ہیں، لیکن عظمت اور برتری کے لحاظ سے سب کے لئے باعث تعجب ہیں اور پھر اس کی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ بعد والی عبارت اس پر شاہد ہے۔ فلما احلی اسماء کم“ یعنی مقام تعجب ہے کہ کس قدر آپ کے نام شیریں اور میٹھے ہیں۔

### علیؑ کا پانی پینا

(۶/۹۹) شیخ حر عاملی علیہ الرحمۃ ”جواهر الحمد“ میں ابن عباس سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں:

انہوں نے کہا امیر المومنین علیہ السلام نے پانی پیا تو متغیر اکرمؑ نے سجدہ کیا۔ اصحاب نے عرض کیا: اے رسول خدا آپ نے اس موقع پر سجدہ کیوں کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: جب علیؑ علیہ السلام نے پانی پیا تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ندا دی۔

هنيأ مرنياً ولياً وحبتي على خلقي وامني على عبادي  
”تیرے لئے مبارک ہو اے میرے ولی! اے میری مخلوق پر میری حجت اور

اے میرے بندوں پر میرے امین“ (جواهر السنۃ: ۲۱۰)

### علیؑ کی دوستی

(۷/۱۰۰) کراچکی قدس سرہ کتاب کنز الفوائد میں لکھتے ہیں کہ

فقیہ بزرگوار محمد بن احمد بن حسن بن شاذان قمی اپنی کتاب ”ایضاح دقائن النواصب“ سے اہل سنت کی طرف سے ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ



ایک شخص رسول خداؐ کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کیا: کیا علی ابن ابی طالب کی دوستی مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت نے فرمایا: میں جبرائیل سے سوال کروں گا اور پھر بتاؤں گا جب آپ نے جبرائیل سے فرمایا تو اس نے عرض کیا: میں اسرائیل سے پوچھ کر بتاؤں گا اسرائیل نے جبرائیل سے کہا میں اپنے پروردگار سے مناجات کروں گا۔

دربار خداوندی سے اسرائیل کو خطاب ہوا کہ جبرائیل سے کہو کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو۔

تم میری نسبت ایسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں، اور علیؑ تیری نسبت ایسے ہے جیسے تو میری نسبت ہے اور علیؑ کے دوست اس کی نسبت ایسے ہیں جیسے علیؑ تیری نسبت ہے۔

(مشارق الانوار: ۶۷، مائتہ معقہ: ۳۳، مطہر: ۲۰)

### وہ انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا

(۸/۱۰۱) صدوق علیہ الرحمۃ ”عیون اخبار الرضا“ میں حضرت رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے رسول خداؐ نے فرمایا:

جو آپ کو دوست رکھے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا، اور ان کے درجات میں قرار پائے گا۔ اور جو تیرے ساتھ دشمنی رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔

(عیون الاخبار الرضا: ۲/۵۸ حدیث ۲۱۶، بحار الانوار: ۷۹/۲۷ حدیث ۱۶)

### علیؑ امین رسول

(۹/۱۰۲) ابن شاذان کتاب مناقب میں اباحت ہروی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداؐ سے سنا، جب کہ آپؐ نے خدا تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ علیؑ مخلوقات پر میری حجت، زمینوں کے درمیان میرا نور اور علم و حکمت پر میرا امین ہے، جس نے علیؑ کی معرفت کی اگرچہ وہ میری نافرمانی کرے، میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا اور جس نے علیؑ

علیہ السلام کا انکار کیا اگرچہ میری اطاعت کرے، میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا۔

(ماہِ مہربان: ۸۰ منقبت: ۴۶، بحار الانوار: ۲۷/۱۶۶ حدیث: ۹۱)

مؤلف کہتے ہیں کہ دشمنی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین رمز اور علامت ہے۔ کیونکہ علی علیہ السلام کی دوستی ایمان کامل ہے اور جب ایمان کامل ہو تو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور یہ جو فرمایا ہے۔ ”وان عصائی“ (اگرچہ میری نافرمانی کرے) یعنی اس شخص کو بوجہ احترام و عزت علی علیہ السلام بخش دوں گا اور اسی ایمان کی وجہ سے اسے بہشت میں داخل کروں گا۔ پس وہ شخص ایمان کی وجہ سے بہشت کے لائق ہے۔ چنانچہ بخشش اور مغفرت مشروط ہے علی کی محبت و معرفت رکھنے سے۔

اور یہ جو فرمایا ہے۔ ”لا داخل الجنة“ اسے بہشت میں داخل نہیں کروں گا کیونکہ علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، علی کی محبت کے بغیر اطاعت خداوندی ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم، چنانچہ وہ حقیقی اطاعت نہ تھی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی حقیقی اطاعت وہ اعمال ہیں جو حسب علی علیہ السلام کے ساتھ انجام پائیں، جو کوئی حضرت کی محبت رکھتا ہو درحقیقت اس نے خدا کی اطاعت کی ہے۔ اور جو خدا کی اطاعت کرے وہ نجات پائے گا۔ نتیجہ جو علی علیہ السلام کی محبت رکھتا ہے وہ نجات پائے گا۔

پس ثابت ہوا کہ علی علیہ السلام سے دوستی ایمان اور دشمنی کفر ہے۔ قیامت کے دن ان دو گروہوں یعنی محب علی علیہ السلام اور دشمن علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہ ہوگا۔ ان کے دوست کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کے لئے کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، اس لئے جنت میں داخل ہوگا علی علیہ السلام کا دشمن ایمان نہیں رکھتا، اور جو ایمان نہ رکھتا ہو اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اور اس کی اطاعت درحقیقت معصیت ہے چنانچہ اس کا انجام دوزخ ہے۔

پس دشمنان علی کے لیے ہلاکت کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اگرچہ ان کی نیکیاں اور ان کے اچھے کام تمام بندگان خدا کے اندازہ کے مطابق ہوں۔ دوست علی علیہ السلام اہل نجات میں سے ہوگا، اگرچہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہو۔ گناہ ایمان کی موجودگی

میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان ایک ایسا کسیر اور کیمیا ہے جو گناہ کے تانبے کو نیکی کے سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پس خوش بخت ہیں محبان علی علیہ السلام اور دوستان علی علیہ السلام جو رحمت خدا میں محیط ہیں۔ اور بد بخت ہیں دشمنان علی علیہ السلام جو رحمت خدا سے باہر ہیں۔ (مشارق الانوار: ۶۶)

## محبت علیؑ اور ملائکہ

(۱۰/۱۰۳) ابن شاذان کتاب ”مناقب“ میں ابن عمر سے نقل کرتے ہیں:

ہم نے رسول خداؐ سے علیؑ ابی طالبؑ کے متعلق سوال کیا تو آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا: کچھ لوگ ایسے فحش کے بارے میں شک کرتے ہیں جس کا مقام اور مرتبہ خدا کے نزدیک میرے مقام اور مرتبہ کی طرح ہے اور سوائے نبوت کے میرے تمام مقامات اور مراتب پر فائز ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھا، اس نے مجھے دوست رکھا، اور جو مجھے دوست رکھتا ہے خدا اس کے ساتھ راضی و خوشنود ہے۔ اور جس سے خدا راضی و خوشنود ہو وہ اسے بہشت میں مقام عطا کرتا ہے۔

آگاہ ہو جاؤ! جو علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں تاکہ جس دروازے سے چاہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔

خبردار! جو کوئی علیؑ علیہ السلام سے دوستی رکھتا ہو، خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور پیغمبروں کی طرح اس سے حساب و کتاب لے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو کوئی بھی علیؑ سے دوستی رکھتا ہوگا۔ اس دنیا سے نہ جائے گا مگر یہ کہ جانے سے پہلے آب کوثر سے سراب ہوگا، درخت طوبیٰ کا پھل کھائے گا اور جنت میں اپنا مقام اور ٹھکانا دیکھے گا۔

آگاہ رہو! جو علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو، تو موت کے وقت خدا اس کی جان کا ٹکٹا آسان کر دے گا۔ اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔



آگاہ ہو جاؤ! جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو تو خدا اس کے بدن میں رگوں کے برابر حوریں عطا کرے گا، اس کے خاندان کے ستر افراد کے متعلق اس کی شفاعت قبول کرے گا اور اس کے بدن کے بالوں کی تعداد کے مطابق جنت میں اسے مقامات عطا فرمائے گا۔

خبردار! جو کوئی معرفت علی علیہ السلام رکھتے ہوئے انہیں دوست رکھتا ہو، تو خدا ملک الموت کو اس کی طرف ایسے بھیجتا ہے جیسے اپنے پیغمبروں کی طرف بھیجتا ہے۔ منکر و کبیر کے دیکھنے کے خوف کو دور فرما دیتا ہے، اس کی قبر کو منور کر دیتا ہے، اس کی قبر کو ستر سالوں کی مسافت کے برابر کشادہ کر دیتا ہے اور قیامت کے دن وہ سفید چہرے سے ہوگا۔

آگاہ رہو! جو کوئی علی علیہ السلام سے دوستی رکھتا ہو، تو خدا اسے اپنے عرش کے سایہ میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ٹھہرائے گا۔ نیز قیامت کے دن اسے محفوظ رکھے گا۔ جان لو! جو علی کی حب رکھتا ہوگا خدا اس کی خوبیوں کو شرف قبولیت فرمائے گا، برائیوں سے سرف نظر کرے گا اور اسے بہشت میں حضرت حمزہ سید الشہداء کا دست راست بنائے گا۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو علی کو دوست رکھے گا تو خدا اس کے دل میں حکمت، زبان پر سچائی اور راستی عطا کرے گا۔ اور اپنی رحمت کے دروازے اس کے لئے کھول دے گا۔ خبردار: جو کوئی علی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا تو زمین میں اسے عبد خدا کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اور خدا اس کے وجود سے اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے سامنے فخر و مباہت کرے گا۔

آگاہ ہو جاؤ! جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوگا تو ایک فرشتہ خدا کے عرش خدا کے نیچے ندا کرے گا، اے خدا کے بندے! اپنے عمل کو دوبارہ شروع کر کیونکہ خدا نے تیرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیئے ہیں۔

آگاہ رہو! جو کوئی علی علیہ السلام سے دوستی کا حامل ہوگا۔ قیامت کے دن بدر کامل کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔

جان لو! جو کوئی علی علیہ السلام کا محبت ہوگا تو روز قیامت اس کے سر پر کرامت کا تاج اور اس کا بدن عزت کے لباس سے ملبوس ہوگا۔

خبردار! جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا تو وہ پل صراط سے بجلی کی رفتار سے عبور کر جائے گا۔ گذرتے وقت کسی قسم کی سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو علی علیہ السلام کو محبوب رکھے گا تو خدا اس کے لئے آگ سے دوری، منافقت سے رہائی، پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ اور عذاب سے نجات لکھ دے گا۔

آگاہ ہو جاؤ! جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا تو خدا اس کا نامہ اعمال نہیں کھولے گا۔ اس کے لئے میزان نصب نہیں کرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہر طرح کے حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ۔

خبردار! جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوگا۔ وہ حساب، میزان اور صراط کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔

آگاہ رہو! جو کوئی آل محمد علیہم السلام کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ سبھی ارواح اس کی زیارت کے لیے آتی ہیں، اور خدا تعالیٰ اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔

خبردار! جو کوئی آل محمد علیہم السلام کے ساتھ دشمنی رکھے اور مر جائے تو وہ اس دنیا سے کفر کی موت مرا۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو کوئی آل محمد علیہم السلام کی دوستی کے ساتھ مرے تو وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا اور میں خدا تعالیٰ اسے بہشت کی ضمانت دیتا ہوں۔

(ملئہ صفحہ: ۶۳۰ منقبت: ۳۷، بحار الانوار: ۱۱۴/۲۷ حدیث: ۸۹)

## شیعیان علیؑ کی دس خوبیاں

(۱۱/۱۰۴) کتاب اعلام الدین میں آنحضرتؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے امیر المومنین

علیہ السلام سے فرمایا:

اپنے شیعوں اور دوستوں کو دس اچھی خصلتوں کی بشارت دو۔

پہلی: ان کی ولادت کی پاکیزگی۔

دوسری: حسن ایمان کی۔

تیسری: خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

چوتھی: ان کی قبریں وسیع ہیں۔

پانچویں: نور ان کے آگے آگے ہو گا۔

چھٹی: فقر کو ان کی آنکھوں سے باہر نکال دے گا اور ان کے دلوں کو بے نیاز کر دے گا۔

ساتویں: خدا ان کے دشمنوں کے ساتھ کینہ اور نفرت رکھتا ہے۔

آٹھویں: وہ کوڑھ اور برص و جذام کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔

نویں: ان کے گناہ اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔

دسویں: وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔

(اعلام الدین، ۳۵۰، بحار الانوار، ۱۶۲/۲، حدیث ۱۱، الزحد، ۸۶، الخصال، ۳۳۰/۲، حدیث ۱۰)

## دشمن علیؑ اور سانپ

(۱۲/۱۰۵) کتاب فضائل میں عمر بن خطاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں:

ہم مسجد نبوی میں رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر تھے، آپؐ نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر محراب کے ساتھ ٹکیہ لے لیا، آپؐ اس وقت مثل مہتاب چمک رہے تھے اور آپؐ کے اصحاب ارد گرد جمع تھے۔ اچانک آپؐ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد زمین کی طرف دیکھا پھر پہاڑوں اور صحرا کی طرف نظر کی اور فرمایا:

اے گروہ مسلمین! خاموش ہو جاؤ۔ خدا تم پر رحمت فرمائے، جان لو کہ دوزخ میں

ایک درہ ہے جس کا نام ”ضیاع“ ہے اس درہ میں ایک کنواں ہے اور کنویں میں سانپ



جہنم درے کی، درہ کنویں کی اور کنواں اس سانپ کی ہر روز خدا کے دربار میں ستر مرتبہ نکالت کرتا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیسا عذاب ہے، جو ایک دوسرے کی نکالت کرتے ہیں اور کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا:

یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو قیامت کے دن ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر آئیں گے۔ (الروضة: ۹، بحار الانوار: ۳۹/۲۵۰ حدیث ۱۳)

## علی درخشاں امام ہے

(۱۳/۱۰۶) کراچکی علیہ الرحمۃ کتاب "کنز الفوائد" میں ابوذر سے نقل کرتے ہیں:

میں ایک دن ام سلمہؓ کے گھر پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور آپ کی مشکو کو سن رہا تھا کہ اتنے میں علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے، ان کو دیکھ کر پیغمبر اکرمؐ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لگا کر پیشانی کا بوسہ دیا۔ پھر میری طرف منہ کر کے فرمایا: اے ابوذر! جو شخص ہمارے پاس آیا ہے ان کی اچھی طرح معرفت حاصل کرو۔ ابوذر نے عرض کیا: اے رسول خدا! وہ آپ کے بھائی اور چچا زاد ہیں، فاطمہؓ کے شوہر جو انان جنت کے سردار اور حسن و حسینؑ کے باپ ہیں۔ رسول خداؐ نے فرمایا: اے ابوذر! علی علیہ السلام ایک روشن و تابان اور درخشاں امام ہیں۔ پروردگار عالم کا بلند نیزہ ہیں اور خدا کی رحمت کا بڑا دروازہ ہیں جو کوئی بھی خدا تک جانا چاہتا ہے وہ اس دروازے سے داخل ہو۔

اے ابوذر! یہ عدالت قائم کرنے والے، حریم الہی کا دفاع کرنے والے، دین خدا کی مدد کرنے والے اور مخلوق خدا پر خدا کی حجت ہیں۔ خدا ہمیشہ امتوں کے درمیان ان کی وجہ سے الٹا مخلوق پر حجت قائم کرے گا کہ میں نے ہر امت کے درمیان ایک پیغمبر بھیجا ہے۔

اے ابوذر! خدا تعالیٰ نے اپنے عرش کے ہر ستون کے ساتھ ستر ہزار فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ ان کی تسبیح اور حمد یہ ہے کہ وہ علی اور ہشیمان علیؑ کے لئے دعا کرتے ہیں اور علی علیہ السلام کے دشمنوں کے لئے نفرین کرتے ہیں۔

اے ابو ذر! اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو حق باطل سے اور مؤمن کا فر سے جدا نہ ہوتے، خدا کی عبادت نہ کی جاتی کیونکہ علی علیہ السلام نے مشرکوں کی سرکوبی کی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے اور خدا کی عبادت کرنے لگے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو جزا اور سزا کا تصور نہ تھا۔ خدا اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ وہ خود حجاب اور پردہ ہے۔ پھر رسول خداؐ نے اس آیت کی تلاوت کی:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا.....مَنْ يُنِيبْ

(سورہ شوریٰ: آیت ۱۳)

خدا نے جو شریعت اور احکام تم مسلمانوں کے لئے قرار دیئے ہیں یہ وہی ہیں جن کی نوع کو وصیت کی گئی۔ پس جو بھی بارگاہ خداوندی میں دعا اور تضرع کے ساتھ رخ کرے گا وہ ہدایت حاصل کر لے گا۔

اے ابو ذر! خدا اپنی سلطنت اور بے مثلی میں اکیلا تھا۔ اس نے اپنے با اخلاص بندوں کو اپنی معرفت عطا کی اور ان کے لیے بہشت کو مباح کیا۔

جو کوئی بھی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ولایت علی علیہ السلام سے آشنائی ضروری ہے، جس کے دل پر پردہ ڈالنا مقصود ہو، اس کو علیؑ کی معرفت سے دور رکھتا ہے۔ اے ابو ذر! وہ ہدایت کا پرچم، تقویٰ کی دلیل، خدا کی مضبوط رسی، میرے اولیاء کا راہنما اور ان لوگوں کے لئے روشنی کا مینار ہے جو میری اطاعت کرتے ہیں، اور وہ ایسا کلمہ ہیں کہ جس کے ساتھ متقی لوگوں کے ہونے کو خدا نے لازم قرار دیا ہے۔

اس کے دوست مؤمن اور اس کے دشمن کافر ہیں۔ جس کسی نے بھی اس کے ساتھ تعلق قطع کر لیا وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ جس نے بھی اس کی ولایت کا انکار کیا وہ مشرک ہے۔

اے ابو ذر! ولایت علیؑ کے منکر کو قیامت کے دن اس حال میں لائیں گے کہ وہ گونگا اور بہرہ ہوگا، اور قیامت کی تاریکی میں الٹا فریاد بلند کر رہا ہوگا۔

يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ . (سورہ زمر: آیت ۵۶)

”ہائے افسوس مجھ پر کہ میں نے جب پروردگار (یعنی امیر المومنین) کے بارے میں کوتاہی کی“

اس شخص کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر ہوگی جس کے تین سو شعلے ہوں گے اور ایک شعلے پر شیطان اپنا تھوک پھینک رہا ہوگا، اور قبر میں اسے سختی اور شدت کے ساتھ آگ کی طرف لے جائیں گے۔

ابوذر نے کہا: میں نے رسول خداؐ سے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے میرے دل کو خوشی سے سرشار فرمادیا ہے کچھ اور فرمائیے۔

آپ نے فرمایا: جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو ایک فرشتے نے اذان کہی اور نماز قائم ہوئی۔ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا اور عرض کرنے لگا: فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھو، یہ بڑی طویل مدت سے آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ پھر فرشتوں کی ستر صفوں کے ساتھ جس میں ہر صف کا طول مشرق و مغرب کے فاصلہ کے برابر تھا نماز پڑھی۔ ان صفوں میں فرشتوں کی تعداد سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔

جب نماز ختم ہوئی تو کچھ فرشتے میری طرف آئے، مجھ پر سلام کیا اور کہنے لگے۔ ہاری آپ سے ایک حاجت اور التماس ہے۔ میں نے گمان کیا کہ یہ شفاعت کی درخواست لیں گے، کیونکہ خدا نے حوض کوثر اور شفاعت کا اختیار مجھے دیا ہے، لہذا دوسرے پیغمبروں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔

میں نے فرشتوں سے کہا: اے میرے پروردگار کے فرشتو! تمہاری کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا: ہماری حاجت یہ ہے کہ جب آپ زمین پر جائیں تو ہمارا سلام علیٰ تک پہنچا دینا، اور ان سے کہنا کہ ہم آپ کی زیارت کے بڑی دیر سے مشتاق ہیں۔ میں نے ان سے کہا: کیا تم ہماری حقیقی معرفت رکھتے ہو؟

انہوں نے عرض کیا: اے رسول خداؐ! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو نہ پہچانیں۔



حالانکہ آپ خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ اس نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور آپ کے لئے ملکوت میں ایک خاص مقام قرار دیا ہے تاکہ آپ اس کی تسبیح و تقدیس اور تکبیر بیان کریں۔ اس کے بعد فرشتوں کو مختلف انوار سے جیسے چاہا پیدا کیا۔ ہم ابھی شعور نہ رکھتے تھے کہ آپ خدا کی تسبیح، تقدیس، تکبیر، تمجید اور تحلیل کرتے تھے۔ ہم نے ان سب چیزوں کو آپ سے سیکھا، اور اس کے بعد ہم خدا کی تسبیح، تقدیس، تکبیر، تمجید اور تحلیل کرنے لگے۔

جو کچھ بھی خیر و خوبی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ پہلے آپ کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح بندوں کے اعمال میں سے جو کچھ بھی اوپر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ آپ ہی کی طرف سے ہو کر جاتا ہے۔ پس کس طرح آپ کو ہم نہ پہچانتے ہوں؟

اس کے بعد مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے، اس جگہ کے فرشتوں نے بھی مجھ سے وہی درخواست کی۔ میں نے ان سے کہا: کیا آپ ہماری حقیقی معرفت رکھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: ہم کس طرح آپ کو نہ پہچانتے ہوں حالانکہ آپ خدا کی مخلوقات میں سے افضل ترین ہیں۔ اس کے علم کے فزانہ دار اس کی مضبوط رسی اور اس کی عظیم حجت ہیں۔ آپ علم و حکمت کی اساس اور بنیاد ہیں پس علی علیہ السلام تک ہمارا سلام پہنچانا۔

پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں کے فرشتوں نے بھی مجھ سے وہی درخواست کی۔ میں نے ان سے کہا: کیا تم ہمیں حقیقی طور پر پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: کیسے آپ کو نہ پہچانیں۔ حالانکہ آپ تمام مراتب اور درجات تک پہنچنے کے لئے دروازہ ہیں۔ آپ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لئے دلیل اور برہان ہیں۔ اور علیٰ دلالت الارض ہے جو مقام قضاوت میں حتمی فیصلہ دیتا ہے اور حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ وہ صاحب عصا اور دشمنوں کے درمیان دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، وہ ایسی نجات کی کشتی ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا اور جس نے تحلف کیا وہ قیامت کے دن آتش جہنم میں گرے گا۔ آپ قوم کے ارکان اور زمین کے ستارے ہیں۔ پس کس طرح آپ کو نہ پہچانتے ہوں۔

پھر انہوں نے عرض کیا: علی علیہ السلام کو ہمارا سلام پہنچانا۔

پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے۔ اس جگہ کے فرشتوں نے بھی وہی درخواست کی میں نے ان سے بھی کہا: اے میرے پروردگار کے فرشتو! کیا تم ہمارے متعلق حقیقی معرفت رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: کیسے آپ کو نہ پہچانتے ہوں، حالانکہ آپ نبوت کے درخت، مقام رحمت، رسالت کا ٹھکانہ اور فرشتوں کی رفت و آمد کی جگہ ہیں۔ جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام کو ہماری طرف سے سلام کہتا۔

اس کے بعد مجھے پانچویں آسمان پر لے گئے۔ اس جگہ کے فرشتوں نے بھی وہی درخواست کی۔ میں نے ان سے کہا: اے فرشتو! کیا تم ہمیں حقیقی معرفت کے ساتھ پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا: کس طرح آپ کو نہ جانتے ہوں، حالانکہ صبح و شام ہم عرش کے اوپر سے گذرتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے:

لا اله الا الله محمد رسول الله وايدته بعلي ابن ابی طالب

”خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں نے اس کی

مدد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے کی ہے“

فرشتوں نے کہا: پس ثابت ہوا کہ علی علیہ السلام خدا کے ان اولیاء میں سے ہیں جن کو خدا نے ولایت عطا کی ہے۔ پس انہیں ہماری طرف سے سلام عرض کرنا۔

پھر مجھے چھٹے آسمان پر لے گئے۔ اس جگہ کے فرشتوں نے بھی پہلے والے فرشتوں کی طرح درخواست کی۔ میں نے اس سے کہا کیا تم ہمارے متعلق حقیقی معرفت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کس طرح آپ کو نہ جانتے ہوں۔ حالانکہ جب خدا نے جنت الفردوس کو پیدا کیا تو اس میں ایک درخت اگایا جس کے ہر پتے پر نور کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔

لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ابن ابی طالب عروة الله

الوئقی وحبل الله المتین وعینہ علی الخلاق اجمعین

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی ابن ابی طالب

علیہ السلام خدا کی قابل اطمینان سند، اس کی مضبوط رسی ہے اور تمام مخلوقات کو

خدا کی دیکھنے والی آنکھ ہے۔ پس علی علیہ السلام کو ہماری طرف سے سلام عرض کرنا۔“

پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ میں نے اس آسمان کے فرشتوں کو سنا کہ کہہ رہے تھے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَّقَنَا وَعْدَهُ. (سورۃ زمر: آیت ۷۷)

”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو پورا کیا۔“

میں نے ان سے عرض کیا: خدا نے تمہارے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: اے رسول خدا! جب خدا نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا تو اس نے آپ کی ولایت کو ہمارے سامنے پیش کیا، ہم نے قبول کر لیا۔ ہم نے خدا سے عرض کیا کہ ہم ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ زیارت کے مشتاق ہیں آپ کے وجود مقدس کے بارے میں خدائے ذوالجلال نے وعدہ فرمایا کہ اسے آسمانوں پر لا کر زیارت کرواؤں گا۔ چنانچہ خدا نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ لیکن جب علی علیہ السلام کے متعلق بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ ان کی زیارت کے مشتاق ہیں، تو خدا نے ان کی صورت و شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور اسے عرش کی دائیں طرف ایک ایسے تخت پر بٹھا دیا جو سونے کا بنا ہوا اور مختلف قسم کے ہیرے و جواہرات سے مزین تھا۔ اور اس تخت کے اوپر ایک ایسا نورانی چہرہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ وہ نورانی چہرہ بغیر کسی سہارے کے معلق ہے، بلکہ خدا نے اسے حکم دیا کہ کھڑا ہو جا، بس وہ وہاں کھڑا ہے، اور ہم جب بھی علی علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اس فرشتے کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ پس علی علیہ السلام کو ہماری طرف سے سلام عرض کرنا۔

(تاویل لآیات ۲۰/۸۷۱، بحار الانوار: ۳۰/۵۵ حدیث ۹۰)



## وہ امیر المؤمنین ہیں

(۱۴/۱۰۷) علی بن ابراہیم قمی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ هُوَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

”وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ امیر المؤمنین ہیں“

پھر آپ سے دریافت کیا گیا: آیا وہ ہستی جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے وہ صاحب علم ہے یا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے؟ آپ نے فرمایا: ثانی الذکر ایسے ہے جیسے مکھی نے اپنا پردہ سے ترک کیا ہو۔ (تفسیر قمی: ۱/۳۶۷، بحار الانوار: ۲۶/۱۴۰ حدیث ۶)

مؤلف کہتے ہیں: جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اس سے مراد حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے وصی آصف بن برخیا ہیں اور بعض روایات میں اس کے متعلق تصریح اور وضاحت ہوئی ہے۔

## علیؑ کا خشوع و خضوع

(۱۵/۱۰۸) ابن شہر آشوب کتاب ”مناقب“ میں فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

میں نے علی علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ لیا۔ علیؑ نے اسے پھاڑ دیا۔ میں نے ان پر دو کپڑے لپیٹے آپ نے وہ بھی پھاڑ دیئے، یہاں تک کہ میں نے چھ مختلف کپڑوں میں جن میں سے کچھ چمڑے اور کچھ ابریشم کے تھے لپیٹ دیا آپ نے ان سب کو پھاڑ دیا۔ اور فرمایا:

اے اماں میرے ہاتھوں کو نہ باندھو کیونکہ میں انگلیوں کے ساتھ اپنے پروردگار کے لئے خضوع و خشوع کرنا چاہتا ہوں۔

(مناقب ابن شہر آشوب: ۲۸۷/۲، بحار الانوار: ۴۱/۲۷۷، حدیث ۱، مصنف المعاجز: ۲/۳۵ حدیث ۳۷۵)

## علیٰ اور سانپ

(۱۶/۱۰۹) اسی کتاب میں عمر بن خطاب سے نقل ہے کہتے ہیں کہ

علیؑ جھولے میں کپڑے میں بندھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک سانپ کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو ہلایا اور اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکال لیا اور اپنے دائیں ہاتھ سے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ اور اس طرح دبایا کہ آپ کی انگلیاں اس میں داخل ہو گئیں اور اتنی دیر تک پکڑے رکھا جب تک مر نہیں گیا۔ جب آپ کی ماں نے اس صورت حال کو دیکھا تو بلند آواز اور مدد کے لئے پکارا۔ اطراف سے لوگ جمع ہو گئے اور آپ کی والدہ نے علیؑ سے کہا (کایک حیدرۃ) یعنی تو شجاعت اور بہادری میں شیر کی طرح ہے۔

(مناقب ابن شہر آشوب: ۲/۲۸۷)

## سیاہ چہرہ والی کنیز

(۱۷/۱۱۰) کتاب صفوة الاخبار میں اعمش سے نقل کرتے ہیں کہ:

ایک کنیز جس کا چہرہ سیاہ اور آنکھوں سے ناپینا تھی جو لوگوں کو پانی پلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی علی ابن ابی طالب علیہا السلام کی دوستی اور محبت میں پیو۔

پھر اس کو مکہ میں دیکھا کہ اب اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اور لوگوں کو پانی دے رہی ہے اور اس دفعہ کہہ رہی ہے کہ اس کی محبت میں پیو جس کی خاطر خدا نے مجھے بینائی عطا کی ہے۔ اعمش کہتا ہے میں نے اس کنیز سے پوچھا: تجھے میں نے مدینہ میں دیکھا کہ تو لوگوں کو پانی دے رہی تھی اور ناپینا تھی اور کہہ رہی تھی علی ابن ابی طالب علیہا السلام کی محبت میں پیو، اور اب میں نے تجھے بینائی کے ساتھ دیکھا ہے مجھے اس معاملہ سے باخبر کر۔

کنیز نے کہا: میں نے ایک مرد کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا اے کنیز کیا تو علی ابن ابیطالب علیہا السلام کی ولایت اور محبت کا اقرار کرتی ہے۔ میں نے کہا ہاں! اس نے دعا کی اور کہا خدایا اگر یہ کنیز سچ کہتی ہے تو اس کی بینائی کو اسے واپس لٹا دے۔ خدا کی قسم اس کی دعا

کے صدقے میں میری آنکھیں روشن ہو گئیں اور ان میں بینائی آ گئی۔ کنیز کہتی ہیں۔  
میں نے اس مرد سے کہا: آپ کون ہیں؟ اس نے کہا: میں خضر اور علی ابن ابی  
طالب کے شیعوں میں سے ہوں۔ (منقولہ الاخبار: بحوالہ انوار: ۹/۲۲۲ حدیث ۱۱)

## علیؑ کو گالیاں دینے والے

(۱۸/۱۱۱) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب امالی میں سلیمان فارسی سے نقل کرتے ہیں  
ابلیس چند ان لوگوں کے پاس سے گذرا جو امیر المومنین علیہ السلام کو گالیاں دے  
رہے تھے، وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے جو ہمارے  
سامنے بیٹھ گیا ہے؟

اس نے کہا: میں ابو مرہ ہوں۔ انہوں نے کہا: ہماری باتوں کو سنا ہے۔ اس نے کہا  
تمہارا برا ہو، اپنے مولا علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا: تجھے کیسے معلوم کہ  
وہ ہمارا ولی امر ہے؟ اس نے کہا تمہارے پیغمبر کی کلام ہے کہ اس نے فرمایا:

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه  
وانصر من نصره واخذل من خذله

”جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ اے خدا جو علیؑ کو دوست  
رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو علیؑ کی مدد کرے تو اس کی مدد کر اور جو علیؑ  
سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ“

پھر انہوں نے اس سے کہا: کیا تو حضرت علیؑ کے شیعوں اور موالیوں میں سے ہے؟  
اس نے کہا کہ میرے پاس ان کی ولایت نہیں ہے، میں ان کے شیعوں میں سے نہیں ہوں  
لیکن انہیں دوست رکھتا ہوں۔ اور جو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے مال اور  
اولاد میں شریک ہوں۔

انہوں نے کہا! علی علیہ السلام کے متعلق کوئی حدیث نہیں کہو گے؟



اس نے کہا: اے وہ گروہ! جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور ظلم کیا اور دین سے خارج ہو گئے، غور سے سنو تا کہ تمہارے لئے کچھ کہوں۔

میں نے جنوں کے درمیان بارہ ہزار سال خدا کی عبادت کی، جب وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تو میں نے اپنی تنہائی کی خدا کے سامنے شکایت کی۔ مجھے دنیا کے آسمان پر لے گئے۔ وہاں بھی میں نے فرشتوں کے ساتھ بارہ ہزار سال خدا کی عبادت کی۔ جب میں خدا کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول تھا، اچانک ایک نور جس کی چمک اور روشنی بہت زیادہ تھی ہمارے سامنے سے گذرا۔ تمام فرشتوں نے اس نور کے لئے سجدہ کیا، اور انہوں نے کہا: ”سبح قدوس“ پاک اور منزہ ہے خدا۔ یہ نور کسی فرشتہ مقرب یا پیغمبر مرسل کا ہے۔ تو اس وقت ندا آئی۔ یہ نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طینت کا نور ہے۔

(امالی صدوق: ۳۲۷ حدیث ۶، مجلس ۵۵، بحار الانوار: ۶۲/۳۹، حدیث ۱، مدینۃ المعاجز: ۱/۱۲۳ حدیث ۷۰)

مؤلف کہتا ہے کہ ابلیس والی حدیث شیعہ اور سنیوں کے درمیان مشہور ہے۔ ہم نے اپنی کتاب دلائل الحق میں اس روایت کی سند، متن اور خلافت پر دلالت کے بارے میں تحقیق ذکر کی ہے اور وہاں تیرہ ایسی علامات اور قرینے ذکر کئے ہیں کہ لفظ ولایت سے خلافت کے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے اور کوئی دوسرا معنی مقصود نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کتاب کے چاپ کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ کتنا حیرت انگیز مقام ہے کہ ابلیس جو فتنہ و فساد کی جڑ ہے اس نے بھی انصاف کیا ہے اور حدیث اور اس کی دلالت کا انکار نہیں کیا۔ لیکن کچھ مخالفوں نے یا تو حدیث ہی کا انکار کر دیا ہے یا پھر معنی کو قبول نہیں کرتے، اور یہ جو ابلیس نے ان کے لئے حضرت کے فضائل و مناقب بیان کئے باوجود اس کے وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنے غلط عقیدہ سے باز نہیں آئیں گے۔ صرف اس لئے کہ ان پر حجت مکمل ہو جائے اور عذاب شدید کے مستحق ہو جائیں۔

## معرفت علیٰ اور نورانیت

(۱۹/۱۱۲) یحییٰ شیعہ کتابوں میں محمد بن صدقہ سے نقل ہے کہ ابوذر غفاری نے سلیمان

فارسی سے سوال کیا۔ امیر المومنین کی معرفت نورانیت کے ساتھ کیسی ہے؟ سلیمان

نے کہا: اے جناب (ابوذر کا لقب ہے) آؤ حضرت کے پاس جاتے ہیں اور ان

سے دریافت کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم حضرت کے پاس آئے لیکن آپ کو نہ

پایا۔ وہیں انتظار میں رہے یہاں تک کہ حضرت تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا:

تم کس لئے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے مقصد بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:

خوش آمدید دوستو! آپ دین میں پابندی اور عہد کو پورا کرنے والے ہو، اور کسی

کو تاہی کے مرتکب نہ ہو۔ اگرچہ اس مطلب کا جاننا ہر مردوزن پر واجب ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: اے سلمان! اے جناب! کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں

ہو سکتا جب تک میرے بارے میں حقیقت نورانیت اور معرفت حاصل نہ کر لے، جب یہ صفات

اپنالے گا تو وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے دلوں کا خدا نے امتحان لیا ہوگا۔ اور

سینوں کو اسلام کے لئے کھول دیا گیا ہوگا۔ یا عارف کامل ہو گیا ہوگا اور جس نے ایسی معرفت

حاصل کرنے کے بارے میں کو تاہی کی ہوگی وہ شک اور تردید میں باقی رہے گا۔

اے سلیمان! اے جناب! نورانیت کے ساتھ میری معرفت، اللہ عزوجل کی معرفت

ہے اور اللہ عزوجل کی معرفت میری معرفت ہے نورانیت کے ساتھ، اور یہ دین خالص ہے جس

کے متعلق خدا فرماتا ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ۔ (سورہ بقرہ: آیت ۵)

”اور بندوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ خدا کی مخلص ہو کر عبادت کریں۔

نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور دین میں افراط و تفریط سے کام نہ لیں

بلکہ حد اعتدال سے کام لیں۔“

آپ نے فرمایا: ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ کیونکہ دین محمدی سہل ترین اور آسان ترین دین ہے۔

اس کے بعد (وَيَقِيُمُوا الصَّلَاةَ) کی تفسیر میں فرمایا جو کوئی بھی ہماری ولایت کا حامل ہوگا وہ نماز قائم رکھ سکے گا جب کہ ولایت کو قائم رکھنا دشوار کام ہے۔ کیونکہ اس کو قائم رکھنا اور دل سے قبول کرنا مقرب فرشتوں، پیغمبر مرسل یا ایسا مومن بندہ کا کام ہے جو امتحان خداوندی میں پورا اتر چکا ہو۔

پس جب فرشتہ مقرب اور پیغمبر مرسل نہ ہو اور مومن کا امتحان نہ لیا گیا ہو وہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔ سلیمان نے عرض کیا: یا امیر المومنین! مومن کون ہے؟ اور ایمان کی کیا حدود ہیں؟ اسے بیان فرما دیجئے تاکہ اسے کامل طور پر پہچان سکیں۔

آپ نے فرمایا:

المومن الممتحن هو الذي لا يرد من امرنا اليه شئ الا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يردد.

”جس مومن کا امتحان لیا گیا ہو وہ ایسا ہے کہ جب بھی ہماری ولایت میں سے کوئی چیز اس تک پہنچے تو اسے فوراً قبول کر لیتا ہے اور وہ کسی قسم کے شک و تردید میں گرفتار نہیں ہوتا۔“

اے ابو ذر! یقین کرو میں خدائے ذوالجلال کا بندہ ہوں اور خلق خدا پر اس کی طرف سے خلیفہ ہوں۔ مجھے خدا نہ بناؤ اس کے علاوہ جو چاہتے ہو ہمارے فضائل بیان کرو۔ جان لو کہ ہمارے مقامات کے باطن اور ان کی اہتمام تک تم نہیں پہنچ سکتے، خدا نے جو کمالات ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ اس سے بلند تر ہیں، جو تم میں سے کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے جب تم نے ہماری ایسی معرفت حاصل کر لی تو تم مومن ہو۔

سلیمان فارسی نے عرض کیا: اے رسول خدا! کے بھائی! کیا جس نے تمہاری ولایت



کو قائم کیا، کیا اس نے نماز قائم کی؟ آپ نے فرمایا:

ہاں اے سلمان: اس بات پر شاہد اور اس کی تصدیق خدا کا یہ فرمان ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

”صبر اور صلوٰۃ سے مدد طلب کرو اور صلوٰۃ بڑی سنگین چیز ہے مگر ان لوگوں پر

جو خشوع کرتے ہیں“ (سورہ بقرہ: ۴۵)

آپ نے فرمایا: اس آیت شریفہ میں صبر سے مراد رسول خدا ہیں اور نماز سے مراد ولایت کو قائم کرنا ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا ہے کہ (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ) یعنی مفرد کی ضمیر لایا ہے اور حثنیہ کی ضمیر نہیں لایا، یعنی یہ نہیں کہا (وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرَةٌ) اور یہ مفرد کی ضمیر صلوٰۃ یعنی ولایت کی طرف لوٹتی ہے؟ کیونکہ ولایت کا تحمل سخت ہے فقط خاشعین ہی اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور خاشعین با معرفت شیعہ ہیں۔

ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب مثلاً مرجہ، قدریہ، خوارج اور نواصب وغیرہ کے پیروکار حضرت محمد ﷺ کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فقط میری ولایت ہے کہ جس کا اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، بہت کم افراد نے اسے قبول کیا ہے۔ آیت کریمہ:

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

”میں ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔“

قرآن میں ایک اور مقام پر نبوت حضرت محمدؐ اور ولایت امیر المومنین علیؑ علیہ السلام کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

وَبَشِّرِ قُطَيْبَةَ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. (سورہ حج: آیت ۴۵)

”ان کے کنوئیں معطل پڑے ہیں اور ان کے مضبوط محل مسمار ہو چکے ہیں“

قصر سے مراد حضرت محمدؐ ہیں، وَبَشِّرِ قُطَيْبَةَ وہ کنواں جو معطل پڑا ہے، وہ میری ولایت ہے۔ جس کا انکار کرتے ہیں اور جس سے کوئی استفادہ نہیں کیا گیا۔

جو کوئی میری ولایت کا منکر ہے اسے حضرت محمدؐ کی نبوت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں مقرون ہیں۔

نبی اکرمؐ پیغمبر ہیں جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کے امام و پیشوا ہیں۔ ان کے بعد حضرت علیؑ علیہ السلام لوگوں کے رہبر و رہنما ہیں اور پیغمبر اکرمؐ کے جانشین ہیں۔ جیسا کہ رسولؐ خدا کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا:

اَلتَّ مَنی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبیَّ بَعْدِی.

اے علی! آپ کی میرے نزدیک وہی منزلت ہے جو ہارونؑ کی موسیٰؑ سے ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

ہمارے پہلے بھی محمدؐ ہیں، درمیانے بھی محمدؐ اور آخری بھی محمدؐ، پس ہر وہ شخص جس کی معرفت میرے بارے کامل ہوگی وہ دین مستحکم الہی پر ہے کہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیْمَةِ (سورہ بینہ: آیہ ۵)

”یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس بارے میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے سلمان و جناب! وہ عرض کرتے ہیں: جی! یا امیر المومنین آپ پر درود و سلام اور رحمت خدا ہو۔

آپ نے فرمایا!

میں اور محمدؐ اللہ کے نور سے ایک نور تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم ہونے کا حکم دیا۔ ایک حصے کو حکم دیا کہ تو محمدؐ اور دوسرے کو امر کیا کہ تو علی بن ابی طالبؑ سے رسولؐ خدا نے فرمایا ہے:

علی منی وانا من علی ولا یودی عنی الا علی

”علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میری طرف سے کوئی ادا نہیں کرے

گا مگر علی“

جب حضرت ابوبکر کو مشرکین سے برائت کے لیے مکہ بھیجا گیا تو حضرت جبریل ہازل ہوئے، آکر آپ کی خدمت میں عرص کرتے ہیں اے رسول خدا! آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ یہ کام خود کرو، یا ایسے شخص کو بھیجو جو تم میں سے ہو، رسول خدا نے مجھے حضرت ابوبکر کے پیچھے بھیجا تا کہ اسے واپس بھیج دوں۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، کیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟  
آپ نے فرمایا: نہیں۔ البتہ اس کام کو میرے یا علیؑ کے علاوہ کوئی بھی انجام نہیں دے گا۔

اے سلمان و جندب!

من لا يصلح لحمل صحيفة يوديهها عن رسول الله كيف يصلح  
للامامة؟

”وہ شخص جس میں اتنی لیاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، وہ لوگوں کا امام اور پیشوا کیسے بن سکتا ہے؟

اے سلمان و جندب! میں اور رسول خدا ایک نور تھے پھر اس نور کا ایک حصہ محمد بن گیا اور دوسرا حصہ میں ان کا وصی علی مرتضیٰ بن گیا۔

محمد گفتگو فرمایا کرتے تھے اور میں خاموش تھا ہر زمانے میں ایک بولنے والا ہونا چاہیے اور دوسرا خاموش۔

اے سلمان! محمدؐ ڈرانے والے تھے اور میں ہدایت کرنے والا، اسی کے متعلق خدا فرماتا ہے:

وَأَنْتَ مُنِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. (سورۃ رعد: آیت ۷)

”اس آیت میں منذر سے مراد رسول خداؐ ہیں، اور ہادی سے مراد میں ہوں“

پھر اس کے بعد (سورہ رعد کی آیت نمبر ۸ سے لے کر ۱۱ تک) تلاوت فرمائی۔ جن کا ترجمہ یہ ہے۔



”اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر عورت کے حکم میں کیا ہے اور اس کے حکم میں کیا  
کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اور ہر شی کی اس کے نزدیک مقدار معین  
ہے۔“

وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے بزرگ و برتر ہے اس کے نزدیک  
سب کے سب برابر ہیں جو بات آہستہ کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو  
رات چھپا رہا اور دن میں چلتا رہے۔

اس کے لیے سامنے اور پیچھے سے محافظ طاقتیں خدا ہیں جو حکم خدا سے اس کی  
حفاظت کرتی ہیں اور اس وقت کسی قوم کے حالات کو ہمیشہ وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود  
اپنے کو تبدیل نہ کرے۔ اور جب خدا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے کوئی ٹال نہیں سکتا  
ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی و سرپرست ہے۔

اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور کہا:-  
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کرنے والے اور میں پھیلانے والا، محمدؐ بہشت کے  
صاحب اختیار بندے اور میں دوزخ کا۔ ہم جہنم سے کہیں گے اسے پکڑ لے اور اسے چھوڑ  
دے محمدؐ زمین کو ہلانے اور زلزلے کے صاحب اختیار ہوئے اور میں سخت و شدید آوازیں یعنی  
بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کا صاحب اختیار ہوا۔ میں صاحب لوح محفوظ ہوں۔ اور لوح  
محفوظ میں جو علوم ہیں وہ مجھے الہام ہوئے ہیں۔ اے سلمان و جندب! محمدؐ کے بارے میں یہ  
آیات نازل ہوئی ہیں۔

یس ۵ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. (سورہ یس: آیت ۱)

یس سے مراد وجود اطہر و مقدس محمدؐ ہے خدا قرآن کی قسم کھاتا ہے۔

ن وَالْقَلَمِ (سورۃ قلم: آیت ۱)

”ن“ سے مراد بھی خود حضرت ہیں اس کے بعد خدا قلم کی قسم کھاتا ہے۔

طه مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. (سورۃ طہ: آیت ۱)

”اس آیت میں ط سے مقصود پیغمبر اکرمؐ ہیں۔ خدا فرماتا ہے۔ اے ہمارے رسول! ہم نے قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو رنج و مشقت میں ڈالو۔

محمدؐ صاحب ہدایت اور راہنمائی ہوئے۔ اور میں صاحب معجزات و کرامات ہوا۔ محمدؐ خاتم الانبیاء ہوئے اور میں خاتم الاوصیاء۔  
آیہ مبارکہ:

الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ (سورۃ فاتحہ: آیت ۶)

”میں صراط مستقیم سے مراد میں ہوں“

میں نباء عظیم ہوں۔ وہ مہم خبر کہ جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا اور جس کا ذکر آیہ شریفہ (النَّبَاءُ الْعَظِيمُ ۝ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) (سورہ نباء: آیت ۲، ۳) میں موجود ہے، وہ میں ہوں کسی نے بھی میری ولایت کے سوا کسی چیز میں اختلاف نہیں کیا۔

محمدؐ صاحب دعوت ٹھہرے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے اور میں صاحب شمشیر ہوں تاکہ سرکشوں کو نابود کروں۔ محمدؐ مرسل بنے اور میں آنحضرتؐ کا صاحب امر: خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ (سورۃ مؤمن: آیت ۱۵)

”وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کو نازل کرتا ہے۔“

اور وہ روح خدا ہے کہ جو کسی کو عطا نہیں کرتا بجز فرشتہ، مقرب یا پیغمبر مرسل، یا پیغمبر مرسل کا جانشین ہو۔ اور خدا جس کسی کو بھی اپنی روح عطا کر دیتا ہے وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسے ایسی قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اس قدرت کے سبب وہ واقعات و حادثات جو واقع ہو چکے ہیں یا واقع ہوں گے ان سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک ایک لحظہ میں پہنچ سکتا ہے اور جو

کچھ نیتوں اور دلوں میں ہوتا ہے اس سے بھی باخبر ہوتا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔

اے سلمان اور اے جناب محمد ”ذکر“ (یعنی یاد آوری کرنے والا) ہے۔

قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے۔

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

”خدا نے تمہاری طرف ذکر یعنی رسول کو بھیجا جو تم پر آیات الہی کی تلاوت

کرتا ہے“ (سورۃ طلاق: آیت ۱۰، ۱۱)

مجھے مدت مرنے، بلاؤں اور احکام قاطع کا علم دیا گیا ہے، قرآن کا علم اور جو کچھ قیامت کے دن واقع ہوگا اس کا علم مجھ میں بطور امانت رکھا گیا ہے۔

محمدؐ نے لوگوں کے لئے حجت اور برہان قائم کی، اور میں حجت خدا بن گیا خدا نے میرے لئے ہر وہ چیز قرار دی ہے جو اول و آخر میں سے کسی کے لئے قرار نہ دی، حتیٰ کہ رسولوں اور مقرب فرشتوں کو بھی وہ چیز نہیں دی گئی۔

پھر آپؐ نے فرمایا: اے سلمان اور اے جناب: وہ میں ہی تھا جس نے پروردگار کے حکم سے نوحؑ کو کشتی میں سکون و آرام بہم پہنچایا اور کشتی کو ساحل تک پہنچایا۔ وہ میں ہوں جس نے یونسؑ کو با اذن خدا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ میں نے ہی موسیٰؑ کو دریا عبور کروایا۔ میں نے ہی ابراہیمؑ کو آگ سے نجات دلائی۔ وہ میں ہی ہوں جس نے نہروں اور چشموں کو روانی دی اور درختوں کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ یوم الظلہ کا عذاب میں ہوں۔ اس میں قوم شعیب کو دیے جانے والے عذاب کی طرف اشارہ ہے جس کا سورہ شعراء آیت نمبر ۱۸۹ میں تذکرہ ہے۔ میں ہی نزدیک مقام سے آواز اپنے والا ہوں تاکہ جن اور انسان سن لیں۔ وہ میں ہو جو جابر و ظالم اور منافقین کی آواز کو ہر روز ان کی اپنی زبان میں سنتا ہوں۔ میں ہی وہ خضر ہوں جس نے موسیٰؑ کو تعلیم دی۔ سلیمانؑ بن داؤد کا معلم میں ہوں۔ ذوالقرنین میں ہوں قوت پروردگار میں ہوں۔



اے سلمان اور اے جندب: میں محمدؐ ہوں اور وہ میں ہیں، میں محمدؐ سے ہوں اور محمدؐ مجھ سے ہیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

(سورۃ الرحمن: آیت ۱۹ اور ۲۰)

”وہ ہے جس نے دو دریا آپس میں ملا دیئے اور ان دو کے درمیان فاصلہ

قرار دیا تاکہ تجاوز نہ کریں“

اے سلمان اور اے جندب: جو ہم میں سے مرجاتا ہے درحقیقت وہ مرتا نہیں ہے، جو ہم میں سے غائب ہو جاتا ہے درحقیقت وہ غائب نہیں ہوتا۔ ہم میں سے جو قتل ہو جاتا ہے درحقیقت وہ قتل نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا: اے سلمان اور اے جندب: دونوں نے عرض کیا: جی امیر المومنین آپ پر خدا کی رحمت ہو۔

میں گذرے ہوئے اور آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں اور روح عظمت سے میری تائید ہوئی ہے۔ میں ان تمام اوصاف کے ساتھ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں ہمیں خدا نہ کہو۔ اس کے بعد جو چاہو ہماری فضیلت میں کہہ سکتے ہو، اور جتنی بھی کوشش کرلو۔ خدا نے جو ہمارے لئے مقام و مرتبہ قرار دیا ہے اس میں سے دسویں حصے کے دسویں حصے تک تم نہیں پہنچ سکتے۔

اس لئے کہ ہم خدا کی طرف سے نشانی، راہنما، حجت، جانشین، امین اور پیشوا ہیں۔ ہم خدا کا خوبصورت چہرہ، دیکھتی ہوئی آنکھ سننے والے کان ہیں، ہمارے سبب سدا اپنے بندوں کو عذاب و جزا دیتا ہے۔ ہمیں اپنی مخلوق میں سے اس نے چن لیا، اختیار کیا اور پاک کیا ہے مگر کوئی چون و چرا کرے خدا کے انتخاب پر اعتراض کرے تو اس نے کفر کیا اور مشرک ہوا، کیونکہ خدا جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے بلکہ وہ بندے ہیں

جن سے سوال کیا جائے گا۔ (سورۃ انبیاء: آیت ۲۳)

پھر آپ نے فرمایا: اے سلمان! اے جندب

جو کوئی بھی میری بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آئے اور اس شرح و تفسیر کی تصدیق کرے، جسے میں نے دلیل کے ذریعے ثابت اور واضح کیا ہے تو وہ ایسا مومن ہے جس کے دل کا خدا ایمان کے لیے امتحان لے چکا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول چکا ہے اور کشادہ کر دیا ہے۔ وہ ایسا باکمال عارف ہے جو معرفت، آگاہی اور کمال کے انتہائی درجے پر فائز ہے اس کے برعکس جو کوئی بھی میری کہی ہوئی باتوں میں شک کرے، جان بوجھ کر مخالفت کرے، انکار کرے اور سرگردان و مضطرب رہے تو وہ غلطی پر ہے اور کوتاہی و دشمنی کا شکار ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: اے سلمان! اے جندب!

انا احی و امیت باذن ربی وانا انبشکم بما تاكلون وماندخرون فی  
بیوتکم باذن ربی وانا عالم بضمائر قلوبکم والائمة من اولادی  
یعلمون ویفعلون هذا اذا احبوا و ارادوا لانا کلنا واحد

”میں اذن خدا کے ساتھ مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو کے بارے میں خبر دیتا ہوں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے جانتا ہوں اور میری اولاد سے دوسرے امام بھی اس معرفت کے حامل ہیں۔ وہ جب چاہیں ایسا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم سب حقیقت میں ایک ہیں“

ہمارا اول محمدؐ وسط محمدؐ ہے اور ہم سب محمدؐ ہیں۔ پس ہمارے درمیان فرق پیدا نہ کرو۔ جب ہم چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے اور جب ہم نہ چاہیں تو خدا بھی نہیں چاہتا۔ بدبختی اور تمام بدبختی اس شخص کے لئے ہے جو ہمارے فضائل و خصوصیات اور ہمیں خدا کی عطا کردہ معرفت کا انکار کرے، جو بھی ایسا کرے گا درحقیقت اس نے قدرت خدا، منشاء خدا اور ہمارے بارے میں ارادہ خدا کا انکار کیا ہے۔

اے سلمان! اے جندب! خدا نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بلند تر اور افضل ترین

مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دونوں عرض کرتے ہیں۔ اے امیر المومنین! وہ خصوصیت کون سی ہے جو ان تمام خصوصیات سے بلند تر ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہمارے خدا نے ہمیں اسم اعظم عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں آسمانوں، زمین، بہشت اور دوزخ تک دسترس حاصل ہے۔ آسمان کی بلندیاں، زمین کی اتھاہ گہرائیاں، مغرب، مشرق اور عرش الہی ہماری پہنچ میں ہیں ہر چیز حتیٰ کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، دریا بہشت اور جہنم ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خدا نے ہمیں جو اسم اعظم کے ذریعے سے عطا کی ہیں۔ ان تمام اوصاف کے باوجود ہم کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں اور ان امور کو حکم پروردگار سے انجام دیتے ہیں۔ ہم خدا کے وہ پاکرامت بندے ہیں جو گنہگاروں میں خدا سے سبقت نہیں کرتے اور اس کے امر اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمیں اس نے معصوم اور پاک بنایا ہے اور اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ہم کہتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنَّ هَدَانَا اللّٰهُ

(سورہ اعراف: آیت ۴۳)

”تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر وہ

ہدایت اور لطف نہ کرتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے“

حَقَّقَتْ كَلِمَةَ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. (سورہ زمر: آیت ۷)

”اور کافرین عذاب کے سزا وار ہوئے اور ان کے بارے میں خدا کے

عذاب کا وعدہ حتمی ہے“

اور خدا نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اور بخشا ہے لوگ اسے قبول نہیں کرتے اور اس کا

انکار کرتے ہیں۔

اے سلمان! اے جناب! یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب جو تم نے میری

نورانیت اور معرفت کے بارے میں کیا تھا۔ اسے حفظ کرلو اور اس کی حفاظت کرو کیونکہ یہ



باعث رشد و ہدایت ہے۔ بے شک ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی حد بصیرت تک نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ کہ وہ مجھے نورانیت کے ساتھ پہچانتا اور میری معرفت رکھتا ہو۔ جب میری معرفت حاصل کر لی تو وہ حد بصیرت، بلوغ اور کمال تک پہنچ جائے گا۔ اور علم کے دریا کے اندر غوطہ زن ہو۔ فضیلت و برتری کا درجات طے کرے گا۔ خدا کے رازوں میں ایک راز اور اس کے پوشیدہ خزانوں سے آگاہ ہو جائے گا۔ (بحار الانوار: ۱/۲۶۷-۷ حدیث ۱، مشارق الانوار: ۱۶۰)

## مجھے علی محبوب ہے

(۲۰/۱۱۳) شیخ حسن بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کتاب مختصر میں کتاب ”نوادیر الحکمہ“ سے عمار بن یاسر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا:

جس رات مجھے آسمان پر معراج کے لئے لے جایا گیا اور میں قرب پروردگار کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوا تو مجھے بارگاہ رب العزت سے خطاب ہوا۔

یا محمد من احب خلقی الیک

”اے محمد! میری مخلوق میں سے تیرے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟“

میں نے عرض کیا: خداوند! تو بہتر جانتا ہے۔

خدا نے فرمایا: میں تو بہتر جانتا ہوں لیکن تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔

میں نے عرض کیا: میرے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب علیہا السلام۔

خدا نے فرمایا: دیکھو:

فالتفت فاذا بعلى واقف معى وقد خرفت حجب السماوات وقد

اوقف راسه يسمع ما يقول فخررت الله تعالى ساجدا

”جب میں نے دیکھا تو علی علیہ السلام تمام آسمانی پردوں کو چاق کرتے

ہوئے تمام موانع کو دور کرتے ہوئے اپنے سر کو بلند کئے ہوئے میرے ساتھ

کھڑے ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں“

پس میں زمین پر گر کر خدا کا سجدہ کرنے لگا

(المختصر: ۱۰۷، بحار الانوار: ۲۵/۳۸۳ حدیث ۳۷)

## اے رمیلہ!

(۲۱/۱۱۳) بری علیہ الرحمۃ کتاب مشارق الانوار میں نقل کرتے ہیں:

امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک خاص شیعہ بنام رمیلہ جو مریض تھا کو مخاطب

کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اے رمیلہ! تمہیں سخت بخار تھا، پھر کچھ آرام محسوس کیا اور مسجد میں نماز کے لئے

آگئے ہو؟ رمیلہ نے کہا: جی میرے آقا! آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا: اے رمیلہ

کوئی بھی مومن مرد وزن بیمار نہیں ہوتا مگر یہ کہ ہم اس کی بیماری کی وجہ سے بے آرام ہوتے

ہیں۔ جب وہ غمگین ہوتا ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں، جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لئے

دعا گو ہوتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کیلئے تب بھی دعا کرتے ہیں اور

مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی مؤمن یا مومنہ ہو، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(مشارق الانوار: ۷۷، بحار الانوار: ۲۶/۱۵۶ حدیث ۴۳، بصائر الدرجات: ۲۵۹ حدیث ۱)

مؤلف فرماتے ہیں کہ خدا کا یہ فرمان کہ

فَاَيُّنَّمَا تُولُوْا فَتَحْمِلْهُ وَجْهَ اللّٰهِ. (سورۃ بقرہ: آیت ۱۱۵)

”تم جدھر بھی منہ کرو وہاں وجہ خدا ہے“

اس مطلب کی تائید کرتا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ بہت سی

روایات میں ہے کہ وجہ اللہ سے مراد آئمہ علیہم السلام ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ اور امیر المومنین علیہ

السلام کے متعلق بھی اس معنی میں بہت سی روایات مروی ہیں۔

آئمہ کے وجہ اللہ ہونے سے مراد یا تو یہ ہے کہ یہ حضرات خدا کے نزدیک صاحب

عزت و شرف اور بلند مرتبہ ہیں اور یا یہ مقصود ہے کہ یہ حضرات وہ جہت اور سمت ہیں جس کی

طرف خدا نے لوگوں کو متوجہ ہونے اور آنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کی طرف توجہ کرنا اور خدا کی

طرف آنا ممکن ہی نہیں تاوقت کہ ان حضرات کے ذریعے سے نہ آئیں، کسی کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا مگر ان حضرات کی معرفت کے ساتھ۔

### اہل بیتؑ کے امور میں شک مست کرو

(۲۲/۱۱۵) دیلمی علیہ الرحمۃ کتاب ”ارشاد القلوب“ میں سلیمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ سے

ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا:

یا سلمان، الولیل کل الولیل لمن لا یعرفنا حق معرفتنا وانکر فضلنا

”اے سلمان! ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لئے جو ہماری حقیقی

معرفت نہ رکھتا ہو اور ہماری فضیلت کا انکار کرتا ہو“

اے سلمان! محمدؐ اور سلمان بن داؤد میں سے کون افضل ہیں؟ سلمان نے کہا: محمدؐ

افضل ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: اے سلمان! آصف بن برخیا نے آنکھ جھپکنے سے پہلے یقیں کے

تحت کو فارس سے مملکت سبا میں منتقل کر دیا حالانکہ اس کے پاس صرف کتاب کا کچھ معمولی علم

تھا جب کہ میرے پاس ہزار کتابوں کا علم ہے، خدا نے آدم علیہ السلام کے بیٹے شیثؑ پر پچاس

صحیفے، اور یس علیہ السلام پر تیس صحیفے، ابراہیم علیہ السلام پر بیس صحیفے اور ان کے علاوہ تورات،

انجیل، زبور اور قرآن کو نازل کیا ہے۔ سلمان کہتا ہے: میں نے عرض کیا: اے میرے مولا جیسے

آپؐ نے فرمایا ہے بالکل ایسے ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے سلمان! جو کوئی بھی

ہمارے امور اور ہمارے علوم میں شک کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہماری معرفت اور

ہمارے حق پر ہونے کے ساتھ مذاق کیا ہو۔ حالانکہ خدا نے اپنی کتاب میں ہماری ولایت کو کئی

مقامات پر واجب قرار دیا ہے اور اس ولایت کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اسے روشن اور واضح ہے۔

(ارشاد القلوب: ۲/۴۱۶، بحار الانوار: ۲۶/۲۲۱ حدیث ۴۷ مختصر: ۱۰۷)

### ذکر آل محمدؐ شفا ہے

(۲۳/۱۱۶) برقی علیہ الرحمۃ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔



کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

ذکرنا اهل البيت شفاء من الوبعک والا سقام و وسواس الريب

وحبنا رضی الرب تبارک وتعالیٰ

(الحاسن: ۱/۱۰۷ حدیث ۷۰ بحار الانوار: ۲/۱۳۵، حدیث ۱۰، الخصال: ۲/۲۲۵)

”ہم اہل بیت کا ذکر روجی اور جسمانی بیماریوں کے لئے شفاء ہے، شیطانی

وسوسوں کے بچاؤ کا سبب ہے اور ہماری دوستی خدا تعالیٰ کی خوشنودی ہے“

**وہ میرے ساتھ ہوگا**

(۲۳/۱۱۷) کراچکی علیہ الرحمہ کتاب ”کنز القوائد“ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی

سے نقل کرتے ہیں کہ سلمان فارسی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا: اور

آپ کی معرفت اور شناسائی کے متعلق آپ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا: اے

سلمان! میں وہ ہوں جس نے تمام امتوں کو اپنی اطاعت کے لئے دعوت دے

کر بلایا، جنہوں نے نافرمانی کی ان کو آگ میں ڈال دیا اور میں ان پر آگ کا

داروغہ ہوں۔

یا سلمان انه لا يعرفنی احد حق معرفتی الا کان معی فی الملاء الا علی

”اے سلمان! جو کوئی بھی مجھے اس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح پہچانے تو

وہ شخص ملاء اعلیٰ (جو ملکوتیوں کے لیے قرب پروردگار کا مقام ہے) میں میرے

ساتھ ہوگا“

اتنے میں امام حسنؑ اور امام حسینؑ تشریف لے آئے۔ آپ نے سلمان سے فرمایا: یہ

میرے دو بیٹے عرش خدا کے دو گوشوارے ہیں، ان دو کی وجہ سے بہشت درخشندہ اور نورانی ہے اور

ان کی والدہ گرامی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ خدا نے لوگوں سے میرے لئے عہد و پیمان

لیا ہے۔ ایک گروہ نے تصدیق کی اور ایک گروہ نے انکار کیا اور جھٹلایا۔ اور وہ آگ میں ہوں۔

وانا الحجة البالغة والكلمة الباقية وانا سفير السفراء

”میں جنت بالغہ کاملہ ہوں میں اپنے پروردگار کا باقی رہنے والا کلمہ ہوں اور میں پیغمبروں کا نمائندہ ہوں“

سلمان نے عرض کیا: یا امیر المومنین علیہ السلام! میں نے آپ کے اوصاف تورات اور انجیل میں اسی طرح پائے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان! اے وہ جو مسجد کوفہ میں قتل کیا جائے گا، خدا کی قسم اگر لوگ ایسے نہ کہیں کہ خدا قاتل سلمان پر رحمت کرے تو میں آپ کے بارے میں ایسے مطالب بیان کروں کہ لوگوں کے دل اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ تو وہ حجت خدا ہے کہ جس کے سبب سے خدا نے آدمؑ کی توبہ قبول کی، یوسفؑ کو کنوئیں سے نجات دی اور ایوبؑ کا واقعہ اور جو نعمت ان کے لئے تبدیل ہوئی وہ سب آپ کے ساتھ مربوط ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہیں ایوبؑ کے واقعہ اور جو ان کی نعمت تبدیل ہوئی، اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سلمان نے عرض کیا: خدا آپ اور امیر المومنین علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب خدا نے عہدو میثاق لیا تو ایوبؑ نے میری بادشاہی کے متعلق شک کیا اور کہا: یہ ایک بہت بڑی بات ہے خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے ایوبؑ! کیا اس صورت میں شک کر رہے ہو جس کو میں نے قائم کر دیا ہے اور برپا کر دیا ہے آدمؑ علیہ السلام کو جب مصیبت میں گرفتار کیا تو اس کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ جب آدمؑ نے اس کا امیر المومنین ہونا تسلیم کر لیا تو میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔

فوعزتی لا ذیقنک من عذابی او تنوب الی بالطاعة لا میر المومنین  
”میری عزت کی قسم اپنا عذاب تجھے ضرور چکھاؤں گا یا امیر المومنین کی اطاعت کے ساتھ توبہ کرو۔ پھر ایوب علیہ السلام کو سعادت نصیب ہوئی اور توبہ کی اور امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی ذریت طاہرینؑ کی اطاعت کا اقرار کیا“

(کنز الفوائد: ۲/۵۷، بحار الانوار: ۲۶/۲۹۲، حدیث ۵۲، تاویل الآیات: ۲/۵۰۳، حدیث ۴)

## ولایت علیؑ

(۲۵/۱۱۸) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب ”امالی“ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:  
 رسول خداؐ نے فرمایا: جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے لئے تمام خیر و خوبی جمع کرے تو اسے چاہیے کہ میرے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرے اور ان کے دوستوں کو دوست اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھے۔

(امالی صدوق: ۲۷۰، حدیث ۲، مجلس ۳۲، بحار الانوار: ۲/۵۵، حدیث ۹)

## رحمت خدا کا منتظر

(۲۶/۱۱۹) شیخ مفید علیہ الرحمۃ کتاب ”مجالس“ میں ابی اسحاق سمیعی سے نقل کرتے ہیں:  
 میں مسروق اجدعی کے پاس گیا، اس کے پاس ایک مہمان تھا جسے میں نہیں جانتا تھا اس مہمان نے کہا کہ میں جنگ حنین میں رسول خداؐ کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لئے ایک حدیث نقل کرتا ہوں جو حارث اعور نے نقل کی ہے۔ ہم نے کہا: جی ہاں اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کے پاس گیا آپ نے فرمایا: اے اعور: کون سی چیز تجھے اس جگہ لے کر آئی ہے؟ کہتا ہے میں نے عرض کیا، آپ کی محبت اور دوستی: آپ نے فرمایا تجھے خدا کی قسم کیا تم سچ کہتے ہو؟ اور مجھے تین مرتبہ اسی طرح قسم دی۔ پھر آپ نے فرمایا: خدا کے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے دل کا ایمان کے لئے امتحان لیا گیا ہو مگر یہ کہ وہ اپنے دل میں ہماری محبت کو پائے گا اور ہمیں دوست رکھے گا اور خدا کے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہ ہوگا جو غضب الہی کا سبب بنا ہو مگر یہ کہ وہ اپنے دل میں ہماری دشمنی کو محسوس کرے گا اور ہمارے ساتھ دشمنی رکھے گا۔

پس ہمارا دوست اس حال میں صبح کرتا ہے کہ رحمت خدا کا منتظر ہوتا ہے۔ گویا اس پر رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور ہمارا دشمن اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ ہلاکت اور



جہنم کے ڈھلوان کے کنارے پر ہے اور دوزخ میں گر جائے گا پس اہل رحمت کے لئے وہ لطف اور رحمت جو ان کے نصیب ہوا ہے مبارک ہو۔ اور اہل جہنم کا برا حال ہے اس برے ٹھکانے کی وجہ سے جہاں وہ ٹھہریں گے۔ (امالی مفید: ۲۷۰ حدیث ۲، بحار الانوار: ۲۲/۱۹۶ حدیث ۱۰)

## جنت میں داخل کر دے گا

(۲۷/۱۲۰) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب امالی میں امام باقر علیہ السلام سے اور آپ کے اباؤ اجداد سے اور رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں:

آپؐ نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا: یا علیؑ! اگر کسی مومن کے دل میں تیری محبت پیدا ہوگئی تو پہلے صراط سے گزرتے وقت اگر اس کا ایک پاؤں لڑھکڑانے لگا تو دوسرا پاؤں ثابت رہے گا، یہاں تک کہ خدا اسے آپؐ کی محبت کی خاطر جنت میں داخل کر دے گا۔

(امالی صدوق: ۶۷۹ حدیث ۲۹ مجلس ۸۵)

## معیار محبت

(۲۸/۱۰۱) ابن شاذان کتاب روضہ اور فضائل میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں:

رسول خداؐ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک علیؑ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، جن کے دائیں جانب حسن علیہ السلام جب کہ بائیں طرف حسین علیہ السلام تھے، پیغمبر اکرمؐ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور علیؑ علیہ السلام کو بوسہ دیا اور انہیں اپنے قریب کر لیا۔ امام حسنؑ کو دائیں زانو پر بٹھاتے ہوئے بوسہ دیا اسی طرح امام حسینؑ کو بوسہ دیا اور انہیں بائیں زانو پر بٹھا لیا۔ پھر ان دونوں بچوں کو بوسہ دیتے، ان کے لبوں کو چومتے تھے اور فرماتے تھے: میرا باپ آپ کے باپ اور آپ کی ماں پر قربان ہوں۔ پھر حاضرین سے فرمایا: خدا تبارک و تعالیٰ ان دو کے وجود کی وجہ سے اور ان دو کے باپ کے وجود کی وجہ سے اور ان کی پاک اولاد کے وجود کے سبب اپنے تمام فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے۔ پھر فرمایا: اے خدا! میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ اور ان کے دوست کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ جو کوئی بھی ان کے متعلق

میرے فرمان کی اطاعت کرے اور میری سفارش کی رعایت کرے، اس کو اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے تو ہر ایک سے بہتر رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک یہ میری اہل بیت ہیں، میرے دین کو قائم کرنے، میری سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اور میرے پروردگار کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں پس ان کی فرمانبرداری میری فرمانبرداری ہے، اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ (الروضة، ۱۱۴، بحار الانوار: ۲۷/۱۰۴ حدیث ۷۴)

### باپ جنت سے نکلا

(۲۹/۱۲۲) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب ”علل الشرائع“ میں جابر سے نقل کرتے ہیں:

میں چند افراد کے ساتھ منیٰ میں رسول خداؐ کے ساتھ تھا۔ اچانک ایک آدمی نے ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ وہ کبھی سجدہ کبھی رکوع اور کبھی گریہ و زاری میں مشغول ہو جاتا تھا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہؐ یہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: یہ وہی ہے جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا۔ پھر علیؑ علیہ السلام بغیر کسی خوف کے اس کی طرف لپکے، پکڑ کر اتنا سختی سے ہلایا کہ اس کی دائیں اور بائیں طرف کی پسلیاں اندر چلی گئیں۔ اور فرمایا: ان شاء اللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا: خدا تعالیٰ کے متعین کردہ وقت سے قبل آپؐ یہ کام نہیں کر سکتے، مجھے آپؐ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم آپؐ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کے باپ کے نطفہ سے پہلے میرا نطفہ اس کی ماں کے رحم میں گیا ہوگا۔ اور میں آپؐ کے دشمنوں کے ساتھ ان کے تمام اموال اور ان کی اولاد میں شراکت رکھتا ہوں۔ اور یہ فرمان خدا ہے۔

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. (سورۃ اسراء: آیت ۶۴)

”تو ان کے ساتھ ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا“

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: یا علیؑ! تیرے ساتھ قریش میں سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا مگر وہ جس کی شادی نکاح اور عقد کے بغیر ہوئی ہوگی۔ انصار میں سے تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں

کرے گا مگر وہ جو اصل میں یہودی تھا۔ گروہ عرب میں سے تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ جس کی نسبت صحیح نہ ہوگی۔ دوسرے لوگوں میں سے کوئی دشمنی نہ رکھے گا مگر وہ جو گمراہ اور بد بخت ہوگا۔ اور عورتوں میں سے کوئی تیرے ساتھ دشمنی نہ رکھے گی مگر وہ جسے پاخانہ کے مقام سے حیض آتا ہوگا۔ اس کے بعد آنحضرتؐ نے اپنا سر مبارک نیچے کیا اور سکوت فرمایا پھر سر کو بلند کیا اور فرمایا:

معاشر الناس اعرضوا اولادکم علی محبة علی  
 ”اے لوگو! اپنی اولاد کے سامنے محبت علیؑ کو رکھو“

جابر ابن عبد اللہ کہتا ہے: ہم امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور دوستی کو اپنی اولاد کے سامنے پیش کرتے تھے جو بھی ان میں سے علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور جو آنحضرتؐ کو دوست نہ رکھتا تھا ہم اسے اپنی طرف نسبت نہیں دیتے تھے اور اپنا بچہ نہیں بناتے تھے۔ (علل الشرائع: ۱/۱۳۲، حدیث ۷، بحار الانوار: ۲/۵۱۱، حدیث ۲۰، مدنیۃ المعارج: ۳/۲۱۵)

مؤلف فرماتے ہیں: ترمذی جو اہل سنت کے بزرگوں میں سے ہے ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ ہم منافقین کو علی علیہ السلام کی دشمنی کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔  
 (صحیح ترمذی: ۵/۶۳۵، حدیث ۳۷۱۷، مسند احمد: ۶/۲۹۲، صحیح مسلم: ۱/۶۰)

## آپؐ کی محبت نے

(۳۰/۱۲۳) شیخ مفید علیہ الرحمۃ کتاب ”امالی“ میں حارث ہمدانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا:

حضرتؐ نے فرمایا: اے حارث! کس چیز نے تجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: یا امیر المومنین آپؐ کی محبت نے۔ آپؐ نے فرمایا: اے حارث! کیا مجھے دوست رکھتے ہو؟ عرض کی، جی! خدا کی قسم: آپؐ نے فرمایا: جان لو۔ مجھے جان نکلنے کے وقت اور اس وقت دیکھو گے جب میں حوض کوثر سے بعض لوگوں کو ایسے روک رہا ہوں گا۔ جیسے اجنبی



اونٹ کو روکا جاتا ہے۔ اس وقت تم مجھے ایسے دیکھو گے جیسے دوست رکھتے ہو۔ نیز اگر مجھے پل صراط سے گذرتے ہوئے دیکھو کہ رسول خداؐ میرے آگے آگے جارہے ہوں گے اور لو! الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا تو اس وقت بھی مجھے ایسے دیکھو گے جیسے تم دوست رکھتے ہو۔

(امالی طوسی: ۴۸: حدیث ۳۰، مجلس ۲، کشف الغمۃ: ۱/۱۴۰، بحار الانوار: ۲۷/۱۵۷ حدیث ۲)

مؤلف فرماتے ہیں کہ لواء الحمد کے متعلق کتاب ”خصال“ میں پیغمبر اکرمؐ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جبرائیل ہاتھ میں لواء حمد لئے ہوئے میرے پاس آئے گا۔ لواء حمد ستر طبقات پر مشتمل ہوگا جب کہ ہر طبقہ سورج اور چاند سے وسیع تر ہوگا اور میں قدس کے منبروں میں سے ایک منبر اور رضوان کے تختوں میں سے ایک تخت پر براجمان ہوں گا۔ میں لواء حمد کو لے کر علی ابن ابی طالب علیہما السلام کے ہاتھ میں دے دوں گا۔

عمر بن خطاب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ یا رسول اللہ! علی علیہ السلام اس پرچم کو کس طرح اٹھائیں گے جب کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ اس کے ستر طبقات ہیں اور ہر طبقہ سورج اور چاند سے بڑا ہے؟ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: جب قیامت آئے گی تو خدا تعالیٰ علی علیہ السلام کو جبرائیل جیسی قوت، آدمؑ جیسا نور، رضوان جیسا حلم و بردباری، یوسفؑ جیسا جمال اور داؤدؑ جیسی آواز عطا فرمائے گا۔ اگر داؤدؑ بہشت کے خطیب نہ ہوتے تو اس جیسی آواز علی علیہ السلام کو عطا کرتا بے شک علی علیہ السلام سب سے پہلا وہ شخص ہے جو بہشت کی دو نہروں سلیمان اور زحیمیل کے خوش مزا پانی سے نوش فرمائے گا۔ اور پل صراط پر وہ قدم نہیں رکھیں گے مگر یہ کہ اس کی جگہ ان کا دوسرا قدم محکم اور مضبوط ہوگا۔

وان لعلى وشيعته من الله مكانا يغبطه به الاولون والآخرون  
 ”بے شک علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے لئے خدا کے نزدیک جنت میں ایسا مقام ہوگا کہ اولین اور آخرین اس پر رشک کریں گے“

(انخصال: ۵۸۲ حدیث ۷، بحار الانوار: ۳/۸، حدیث ۳، ارشاد اقلوب: ۲/۱۳۷)

## علیؑ کو کندھوں پر سوار کیوں کیا؟

(۳۱/۱۲۳) عیسیٰ علیہ الرحمۃ کتاب ”مشارك الانوار“ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام صادق سے عرض کیا:

رسول خداؐ نے علیؑ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیوں کیا؟ آپؑ نے فرمایا: اس لئے تاکہ لوگ ان کے مقام بلند اور عظیم مرتبہ کو پہچان لیں۔ اس نے عرض کیا، کچھ زیادہ وضاحت فرمائیں۔ آپؑ نے فرمایا: اس لئے رسول خداؐ نے علیؑ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بلند کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ باقی سب سے زیادہ خلافت رسولؐ خدا کے حق دار ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا: اور زیادہ وضاحت فرمائیں۔ آپؑ نے فرمایا:

ليعلم النامن انه امام بعده والعلم المرفوع  
”تاکہ لوگ جان لیں کہ علیؑ ان کے بعد امام ہیں اور پرچم ہدایت کو بلند کرنے والے ہیں“

اس شخص نے عرض کیا: اور زیادہ فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا:  
ھیحات: اگر ان کی حقیقت اور باطن کے بارے میں تجھے خبر دوں تو تو مجھ سے کنارہ کش ہو جائے گا، اور کہے گا جعفر بن محمد جھوٹ کہتے ہیں یا دیوانے ہیں۔ سوائے نیک لوگوں کے کسی کے اسرار پر کون آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ (مشارك الانوار: ۱۷۱)  
مؤلف فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

عرج	الهادی	الی	اوج	السماء
وعلیؑ	کتف	الهادی	علا	
ایہا	المنصف	انصف	بیننا	
ای	معراجیہما	اعلا	علا	

”ہدایت کرنیوالا مخیر اوج آسمان پر بلند ہوا۔ اور علیؑ علیہ السلام اس کے

کندھے پر بلند ہوا۔ اے منصف! انصاف کر ان دو معراجوں میں سے کوئی  
معراج برتر اور بلند تر ہے“

### چوبیس چہروں والا فرشتہ

(۳۲/۱۲۵) شیخ صدوق کتاب ”امالی“ میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام سے نقل کرتے  
ہیں کہ آپ نے فرمایا: رسول خداؐ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا۔  
جس کے چوبیس چہرے تھے۔

حضرت نے فرمایا: جبرائیل، اے میرے دوست! آج تک میں نے تجھے اس شکل  
میں نہیں دیکھا، فرشتے نے عرض کیا: میں جبرائیل نہیں ہوں بلکہ میرا نام محمود ہے، خدا نے مجھے  
بھیجا ہے تاکہ نور کی نور کے ساتھ شادی کروں۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: دو نوروں سے تیری مراد  
کون ہیں؟ اس نے عرض کیا: فاطمہ اور علی علیہما السلام، جب فرشتے نے اپنا چہرا دوسری طرف  
کیا تو اس کے دو کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا۔

(محمد رسول اللہ علیٰ وصیہ) محمدؐ اللہ کے رسولؐ ہیں اور علیؑ اس کے وصی  
ہیں۔ رسولؐ خدا نے فرمایا: کب سے یہ جملے تیرے کندھے پر لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے عرض  
کیا: خدا نے جب آدمؑ کو پیدا کیا اس سے دو ہزار سال پہلے۔

(امالی صدوق: ۲۸۸ حدیث ۱۹ مجلس ۸۶، معانی الاخبار: ۱۰۲ حدیث ۱، الخصال: ۲/۶۳۰ حدیث ۱۷)

### قیامت کا دن

(۳۳/۱۲۶) برسی علیہ الرحمۃ کتاب ”مشارق الانوار“ میں ابن عباس سے روایت نقل کرتے  
ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

قیامت کا دن ایسا دن ہے جس میں خوف و ہراس بہت زیادہ ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ  
اس دن کے خوف و ہراس سے نجات حاصل کرے، اسے چاہیے ہمارے ولی امر کو تسلیم کرے، اور  
میرے وصی و جانشین اور صاحب حوض کوثر علی ابن ابی طالب علیہما السلام کی پیروی کرے۔



بے شک علیؑ حوض کے پاس سے اپنے دشمنوں کو دور کر رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ جس نے بھی اس حوض سے پانی نہ پیا وہ ہمیشہ پیاسا رہا اور کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا اور جو بھی اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان اور نفاق کے درمیان علامت اور نشانی علیؑ علیہ السلام کی دوستی ہے۔ جو بھی اسے دوست رکھے وہ مؤمن ہے اور جو بھی اسے دشمن رکھے وہ منافق ہے، جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ علیؑ علیہ السلام جو میری طرف سے تمہارا سرپرست ہے اور اہل اور امت پر میرا جانشین ہے کو دوست رکھے۔ بے شک وہ پروردگار عالم کا در رحمت اور خدا کا صراط مستقیم ہے۔ علیؑ دینداروں کا امیر، سفید چہرے والوں کا رہبر اور ان کا مولا ہے جن کا میں مولا ہوں۔ اسے دوست نہیں رکھتا مگر وہ جس کی ولادت پاک اور طینت پاک ہو، اور اس کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا مگر وہ جو حرام زادہ اور جس کی طینت نجس ہو۔

اور شب معراج جب خدا نے میرے ساتھ کلام فرمائی: اے محمدؐ! میری طرف سے علیؑ کو سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ وہ میرے دوستوں کا امام اور میرے پیروکاروں کے لئے چراغ ہدایت ہے۔ اور اسے اس بلند مرتبے پر میری طرف سے مبارک باد دینا۔ اس کے بعد فرمایا: علیؑ علیہ السلام کے شیعوں میں سے جو غریب اور تنگدست ہو، اسے حقیر نہ سمجھ۔ بے شک ان میں سے ایک شخص قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ اور مضر کی تعداد کے مطابق لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ (مشارك الانوار: ۵۳)

## امام مبین کون؟

(۳۳/۱۲۷) اسی کتاب میں ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں۔

جب آیہ شریفہ

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْضَيْنَاهُ لِيِ إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ (سورۃ یس: آیت ۱۲)

”ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے“

نازل ہوئی تو فلاں دو نفر کھڑے ہوئے (دو نفر سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے) اور عرض کرنے لگے۔ یا رسول اللہ امام مبین سے کیا مقصود اور مراد ہے؟ کیا اس سے مراد تورات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا پھر حتماً اس سے مراد قرآن ہوگا۔ آپ نے فرمایا: نہیں اس اثنا میں امیر المومنین علیہ السلام وہاں آ گئے، پیغمبر اکرمؐ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: یہ وہ امام مبین ہے جس میں خدا نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ بے شک حقیقی طور پر وہ شخص خوش بخت اور سعادت مند ہے جو موت سے پہلے اور بعد میں علیؑ کو دوست رکھتا ہو، اور حقیقی معنی میں گمراہ اور بد بخت وہ ہے جو زندگی میں اور مرنے کے بعد علیؑ کو دشمن رکھتا ہو۔

(مشارك الانوار: ۵۵)

## علیؑ سورہ توحید کی طرح

(۳۵/۱۲۷) اسی کتاب میں رسول خداؐ کی روایت ہے کہ آپ نے علیؑ علیہ السلام سے فرمایا: یا علیؑ میری امت میں تیری مثال سورۃ (قل هو اللہ احد) جیسی ہے۔ جس نے بھی ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کی گویا اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا ہے اور جس نے دو مرتبہ پڑھا تو اس نے قرآن کے دو حصے پڑھ لیا۔ اور جس نے اس سورہ کی تین مرتبہ تلاوت کی، گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی، پس جو تجھے زبان کے ساتھ دوست رکھے اس نے ایمان کا تیسرا حصہ حاصل کر لیا۔ اور جس نے تجھے زبان اور دل سے دوست رکھا۔ اس نے ایمان کا دو تہائی حصے حاصل کر لے۔ اور جس نے تجھے اپنے ہاتھ، زبان اور دل سے دوست رکھا تو اس کا ایمان کامل ہوا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اگر اہل زمین اہل آسمان کی طرح سب کے سب تجھے دوست رکھتے تو خدا ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہ کرتا۔

اے علیؑ! جبرائیل نے مجھے پروردگار عالم کی طرف سے بشارت دی اور فرمایا ہے۔

اے محمدؐ! اپنے بھائی علیؑ کو خوش خبری دو، کہ جو بھی اسے دوست رکھتا ہوگا میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور جو بھی اس سے دشمنی رکھتا ہوگا میں اس پر رحم نہ کروں گا۔ (مشارق الانوار: ۵۶)

## علیؑ فضائل کا مجموعہ

(۳۶/۱۲۹) شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب ”امالی“ میں سعید بن جبری سے نقل کرتے ہیں:

کہ میں ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے کہا: اے رسولؐ خدا کے چچا کے بیٹے میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ تجھ سے علی بن ابی طالب علیہما السلام اور ان کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کے متعلق پوچھوں۔ ابن عباس نے فرمایا: اے ابن جبیر! تم اس لئے آئے ہو تاکہ مجھ سے پیغمبرؐ کے بعد اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں سوال کرو؟ تم آئے ہو تاکہ اس کے متعلق سوال کرو جس کے لئے ایک رات میں تین ہزار منقبت حاصل ہوئی؟ تم اس لئے آئے تاکہ وہی رسولؐ خدا، ان کے جانشین، صاحب حوض کوثر، صاحب پرچم اور صاحب شفاعت کے متعلق دریافت کرو؟

پھر فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمدؐ کو خاتم المرسلین قرار دیا اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام اہل دنیا لکھنے والے ہو جائیں اور یہ سبھی فضائل علیؑ آغاز خلقت تا انتہائے خلقت لکھنا چاہیں تو خدا نے جو ان کو فضائل عطا کئے ان میں سے دسواں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے۔

(مشارق الانوار: ۵۸، امالی صدوق: ۶۵۱، حدیث ۱۵، مجلس ۸۲، بحار الانوار: ۴۰/۷، حدیث ۱۷)

مؤلف فرماتے ہیں کہ وہ رات جس کا ذکر ابن عباس کی کلام میں ہوا ہے اور جس میں تین ہزار مناقب و فضائل علیؑ علیہ السلام کے لئے ہیں وہ سترہ رمضان المبارک کی رات ہے جسے (لیلة القربة) کہتے ہیں۔ اور اسی رات کے بعد جنگ بدر واقع ہوئی ہے۔ اور سید حمیری علیہ الرحمۃ نے اس کی طرف اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔ جن کا ترجمہ یہ ہے۔

ترجمہ اشعار:



خدا اور اس کی نعمتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ہر وہ جو اپنی کبھی ہوئی بات کا ذمہ دار ہے۔  
بے شک علی ابن ابی طالب علیہما تقویٰ اور نیکی پر پیدا ہوئے ہیں۔

اور وہ ایسے امام اور پیشوا ہیں کہ تمام امت پر ان کو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ  
حق کہتے ہیں اور حق کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں اور باطل ہرگز ان کو سرگرم نہیں کر سکتا۔

جنگ کے وقت نیزہ ان کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ اور بڑے بڑے شجاع و بہادر  
اس سے دوز بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

ان کے سرداروں کی طرف اس حال میں جاتے ہیں کہ کاٹنے والی تلوار جو تیز ہے  
اس سے بجلی چمک رہی ہوتی ہے۔

ایک بہادر شیر کی طرح اپنے بیٹوں کے درمیان چلتے ہیں۔ گویا ایسے جیسے شیر شکار  
کے لئے اپنے ٹھکانے سے باہر نکلا ہو۔

علی علیہ السلام وہ ہے کہ جس پر ایک رات میں میکائیل اور جبرائیل نے سلام کیا  
ہے، جب کہ میکائیل ہزار فرشتوں کے درمیان تھا اور جبرائیل بھی ہزار فرشتوں کے درمیان تھا  
اور ان کے پیچھے اسرائیل نے ہزار فرشتوں کے ساتھ سلام کیا۔

جب بدر کی رات یہ تمام فرشتے مدد کرنے کے عنوان سے نازل ہوئے تو ایسے لگتا  
تھا جیسے ابابیل پرندے لشکرِ ابرہہ پر نازل ہوئے تھے۔

تمام فرشتوں نے آپ پر سلام کیا کیونکہ وہ سب آپ کے قدموں میں نازل ہوئے  
ہیں اور یہ سب کچھ ان کے احترام اور فضیلت کی خاطر ہے۔

(بشارة المصطفى: ۵۳، امالی طوسی: ۲۰۱ حدیث ۳۱، بحار الانوار: ۳۱۵/۲۷ حدیث ۶)

## مقام علیؑ

(۳۷/۱۳۰) کتاب مناقب میں ابن عمر سے نقل ہے:

میں نے رسول خدا سے علی بن ابی طالب علیہما السلام کے بارے میں سوال کیا اور

کہا: یا رسول اللہ صلی علیہ السلام کا آپ کی نسبت کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا: کیا ہو گیا ہے کہ ایک گروہ اس کے متعلق پوچھتا ہے جس کا مرتبہ خدا کے نزدیک میرے مرتبے جیسا ہے اور اس کا مقام میرے مقام جیسا ہے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

اے ابن عمر! میری اور علی علیہ السلام کی نسبت ایسے ہے جیسے روح اور بدن کی ہے، علی علیہ السلام کی نسبت ایسے جیسی جان کی جان سے نسبت ہو۔ اور جیسے نور کی نور سے نسبت ہو۔ (یعنی ہم دونوں یک جان اور یک نور ہیں) اور علی علیہ السلام کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے سر کی نسبت جسم سے اور بٹن کی نسبت پیراہن سے۔

اے ابن عمر! جس نے علیؑ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا اور جس نے علیؑ کے ساتھ دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمن کی اور جس نے میرے ساتھ دشمنی کی خدا اس پر ناراض ہوا اور اسے اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا:

خبردار! جو علیؑ کو دوست رکھے گا خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اس کا حساب آسان ہو گا اور اس پر سختی نہ ہو گی۔

آگاہ رہو جو بھی علیؑ کو دوست رکھے گا وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو گا تا وقتیکہ آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے درخت طوبیٰ سے پھل نہ کھالے اور جنت میں اپنا مسکن نہ دیکھ لے۔ تم آگاہ رہو! جو بھی علیؑ کو دوست رکھے گا اس کی روح آرام سے نکلے گی، اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔

جان لو! جو کوئی بھی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا، خدا تعالیٰ اس کے ہر عضو کی تعداد کے مطابق اس کو نعمتیں عطا کرے گا، اور اس کے قریبوں میں سے انہیں افراد کی شفاعت قبول کرے گا۔

خبردار! جو علیؑ کو پہچانتا اور معرفت رکھتا ہو، ان کو دوست رکھتا ہو، تو خدا اس کی

روح کو قبض کرنے کے لئے عزرائیل کو ایسے بھیجے گا جیسے اپنے رسولوں کی روح کو قبض کرنے کے لئے اسے بھیجتا ہے۔ اور منکر و نکیر کے سوالوں کا خوف و ڈر دور فرما دے گا۔ اور اس کی قبر کو ایک سال کی مسافت کے برابر وسیع کر دے گا۔ قیامت کے دن سفید چہرے کے ساتھ داخل ہوگا، اور بہشت کی طرف ایسے جلدی سے جائے گا جیسے لہن اپنے شوہر کے گھر کی طرف جاتی ہے۔

یقین کرو جو کوئی علیؑ کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو خدا اسے اپنی عافیت کے سایہ میں پناہ دے گا اور قیامت کے خوف سے محفوظ ہوگا۔

آگاہ رہو! جو کوئی علیؑ کو دوست رکھے گا تو خدا اس کی خوبیوں کو قبول فرمائے گا اور اسے بحفاظت بہشت میں داخل کرے گا۔

جان لو! جو کوئی علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو وہ خدا کی طرف سے زمین پر امین ہوتا ہے۔

خبر دار! جو کوئی بھی علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو تو اس کے سر پر تاج کرامت فضیلت رکھا جائے گا، جس پر لکھا ہوگا کہ اہل بہشت اپنے مقصد کو با مراد پہنچ گئے، یہی نیک لوگ ہی تو ہیعیان علیؑ علیہ السلام ہیں۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو کوئی علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو، اس کا نامہ اعمال کھولا نہیں جاتا اور نہ ہی ترازو لگایا جاتا ہے، اس کے لئے آٹھ ہشتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں۔

آگاہ ہو جاؤ! جو کوئی علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو اور ان کی محبت لئے ہوئے دنیا سے جائے تو فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ جبکہ انبیاء خدا اس کی زیارت کرتے ہیں۔

آگاہ رہو! جو کوئی علیؑ علیہ السلام کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا ایک دروازہ ہے جو بھی اس دروازے سے داخل ہوا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ دروازہ محبت علیؑ علیہ السلام ہے۔



خبردار! جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو، تو خدا تعالیٰ اس کے بدن پر بالوں اور جسم کی ہر رگ کے برابر اسے جنت میں شہر عطا کرے گا۔

اے عمر کے بیٹے! علی علیہ السلام اوصیاء کے سردار، پرہیزگاروں کے مولا اور لوگوں پر میرے جانشین ہیں۔ وہ ان اماموں کے باپ ہیں جن کا چہرہ نورانی اور بابرکت ہے۔ علی علیہ السلام کی پیروی کرنا میری پیروی کرنا ہے اور ان کی معرفت حاصل کرنا میری معرفت حاصل کرنا ہے۔

اے عمر کے بیٹے! مجھے خداوند قدوس کی قسم، جس نے مجھے رسالت پر مبعوث فرمایا ہے: اگر کوئی فرد خدا کی ایک ہزار سال عبادت کرے اس حال میں کہ دن کو روزہ رکھے اور راتوں کو بھی عبادت بجالائے، زمین بھر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، غلام آزاد کرے اور ان تمام چیزوں کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان ناحق قتل کر دیا جائے۔ پھر قیامت کے دن خدا کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، تو اس کے اعمال میں سے کوئی عمل بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ ان تمام اعمال کے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور گھانا کھانے والوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ (مشارق الانوار: ۶۱)

(۳۸/۱۳۱) اسی کتاب میں کتاب اربعین سے نقل کرتے ہیں کہ انس بن مالک کہتا ہے کہ قیامت کے دن علی علیہ السلام کو اس طرح خطاب کیا جائے گا اے علی! اے ولی! اے سید! اے سچے! اے حاکم! اے رہبر! اے ہدایت کرنے والے۔ اے پرہیزگار اے جوانمرد! اے پاک! اے پاکیزہ! تم اور تیرے شیعہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (مشارق الانوار: ۶۸، ارشاد القلوب: ۸۳/۲)

### بہشت میں ستون

(۳۹/۱۳۲) اسی کتاب میں کتاب مناقب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا:

خدا نے بہشت میں ایک ستون بنایا ہے جو اہل بہشت کو ایسے نور عطا کرتا ہے جیسے سورج اہل زمین کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اس ستون تک صرف علی علیہ السلام اور اس کے شیعہ پہنچ سکتے ہیں۔

بے شک جنت میں دروازے کا کنڈا سرخ یا قوت کا بنا ہوا ہے۔ جو کہ سونے کے تختوں پر لگا ہوا ہے اور اس کنڈے کا طول یعنی لمبائی پچاس سال کی راہ کے برابر ہے۔ جب اس کنڈے کو چوٹ لگائی جاتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے، یا علی! یا علی! یا علی!

(مشارق الانوار: ۶۸، امانی صدوق: ۶۸۳، حدیث ۳، مجلس ۸۶)

### اسرار الہی

(۴۰/۱۳۳) اسی کتاب میں آئمہ علیہم السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

خدائی کی نسبت ہماری طرف مت دو۔ اور وہ فوائد بشری جو تمہاری لئے جائز ہیں ان کو ہمارے لئے جائز قرار نہ دو۔ یعنی ہمیں اپنی طرح قیاس مت کرو، کیونکہ لوگوں میں سے کسی کا بھی ہمارے ساتھ قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ہم وہ اسرار الہی ہیں جو ان بشری بدنوں میں رکھ دیئے گئے ہیں۔ ہم پروردگار کی بولتی ہوئی کلام ہیں جو ان خاکی جسموں میں موجود ہے۔ ان چیزوں کے سمجھنے کے بعد ہماری فضیلت کے متعلق جو چاہتے ہو کہہ دو۔ جان لو کہ ہمارے فضائل بحر بیکراں کی مانند ہیں اور ہماری عظمت کو بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ (مشارق الانوار: ۶۹)

### ولادت علیؑ کعبہ میں

(۴۱/۱۳۳) اسی کتاب میں نقل ہے:

جب امیر المومنین علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے تو سجدہ کی حالت میں زمین پر تشریف لائے، اس کے بعد اپنا سر اقدس بلند کیا اور اذان و اقامت کہی۔ اس کے بعد خدا کی وحدانیت، محمدؐ کی رسالت اور اپنی ولایت اور جانشینی کی گواہی دی۔ پھر رسول خداؐ کی طرف

اشارہ کیا اور کہا: یا رسول اللہ! اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں پڑھو۔ اس کے بعد علیؑ علیہ السلام نے ان صحیفوں کو جو آدمؑ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ اور ان کو اس طرح پڑھا کہ اگر شیت علیہ السلام موجود ہوتے تو اقرار کرتے کہ علیؑ علیہ السلام ان صحیفوں کو سب سے بہتر جانتے ہیں، اس کے بعد باقی آسمانی کتب حضرت نوحؑ کی کتاب حضرت ابراہیمؑ کی کتاب، موسیٰؑ کی تورات اور عیسیٰؑ علیہ السلام کی انجیل کو تلاوت فرمایا: اس کے بعد قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (سورۃ مومنون: آیت ۱)

”تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے“

پیغمبر اکرمؐ نے ان سے فرمایا: ہاں یا علیؑ مومنین کامیاب ہیں کیونکہ تو ان کا امام ہے۔ پھر ان کو اس طرح مخاطب کیا جیسے اوصیاء اور انبیاء کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ پھر خاموش ہو گئے اس کے بعد رسول خداؐ نے ان سے فرمایا:

عد الی طفولیتک فامسک

”اپنی طفولیت (یعنی بچپن) کی طرف لوٹ جا“

پس علیؑ نے اس کے بعد معجزات ظاہر نہیں کیے۔

آپؐ کی بے انتہا کرامات اور بیش بہا فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ راہب یمامہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو علیؑ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی تھی کہ بہت جلد تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو اپنے زمانے کے لوگوں کا سردار، صاحب اسرار الہی، اپنے زمانے کے پیغمبر کا حامی و ناصر اور مددگار اور اس کا داماد ہوگا۔ لیکن میں اس کے زمانے کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ جب تم اسے دیکھو تو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔

جب امیر المومنین علیؑ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابو طالب علیہ السلام اس راہب کے پاس گئے تاکہ اسے خبر دیں، لیکن وہ قضائے الہی پر لبیک کہہ چکا تھا۔ واپس امیر المومنین علیؑ علیہ السلام کی طرف پلٹے، انہیں پکڑا اور بوسہ دیا۔ امیر المومنین علیؑ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو



سلام کیا، لب کشائی کی۔ اور کہا اے والد بزرگوار کیا راہب یمامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہو، جس نے میری آمد کی بشارت دی تھی؟ اس کے بعد تمام قصہ نقل کیا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا: اے خدا کے ولی آپ نے سچ کہا ہے۔

ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

هو القبلۃ الوسطی تری الوفد حولہا  
لہا حرم اللہ المہيمن والحل  
وآیتہ الکبری وحبثہ النبی

اقیمت علی من کان منا لہ عقل

وہ قبلہ وسطیٰ ہے۔ لوگ ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔

خدا کے حل و حرم جو تمام انبیاء کی حفاظت کرنے والے ہیں سب اس کے لئے ہیں وہ خدا کی عظیم نشانی اور اس کی حجت ہیں۔ ان لوگوں پر جو عقل و فکر کے مالک ہیں۔ (مشارق الانوار: ۷۵)

ایک عارف شاعر لطیف اللہ غیشا پوری کہتا ہے۔

طواف خانہ کعبہ از آن شد برہمہ واجب

کہ آنجا در وجود آمد علی بن ابی طالب

خانہ کعبہ کا طواف اس لئے تمام لوگوں پر واجب ہوا ہے، کیونکہ وہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔

(۴۲/۱۳۵) مذکورہ کتاب میں منقول ہوا ہے کہ رسول خداؐ نے خیبر کے دن فرمایا:

لولم اخف ان تقول امتی فیک ما قالت النصارى فی المسيح بن

مریم لقلت الیوم فیک حدیثا

”اگر مجھے ڈرنہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے میں وہ کہے گی جو عیسیٰ ابن

مریم کے بارے میں کہتے تھے تو میں تیرے بارے میں ایک حدیث کہتا“

(مشارق الانوار: ۱۰۹، روضۃ الواعظین: ۱۱۲، بشارۃ المصطفیٰ: ۱۵۵)

خیبر کے دن صفیہ بنت جحش بنی امیہ جو اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورت تھی رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضورؐ نے اس کے چہرہ پر دھم دیکھا تو اس سے پوچھا۔ ایک بادشاہ کی بیٹی اور چہرے پر یہ دھم کیسا؟ اس نے عرض کیا: جب علی علیہ السلام نے قلعہ میں داخل ہونے کے لئے قلعہ کے دروازے کو دھکا دیا تو پورا قلعہ لرزنے لگا۔ اس سے قلعے کے محافظ و نگہبان سب نیچے گر گئے۔ جس تخت پر میں بیٹھی تھی وہ لرزنے لگا تو میں اوندھے منہ زمین پر گری۔ مجروح ہو گئی۔

رسول خداؐ نے فرمایا: اے صفیہ خدا کے نزدیک علی علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے، اس کی شان اور مقام بلند ہے۔ جب علی علیہ السلام نے قلعہ کو ہلایا تو فقط قلعہ میں لرزہ پیدا نہیں ہوا بلکہ تمام آسمان، زمینیں اور عرش الہی غضب ناک ہو کر علی علیہ السلام کی خاطر لرزنے لگے۔ اس واقعہ کے بعد عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا: آپ نے ایسے دروازے کو زمین بوس کیا جس کا ہلانا ناممکن تھا، جب کہ آپ تین دن سے بھوکے تھے کیا یہ آپ نے بشری طاقت کے ذریعے سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے اس کو بشری طاقت کے ذریعے سے نہیں بلکہ الہی طاقت اور اس نفس مطمئنہ کی قوت سے اکھاڑا ہے جو اپنے پروردگار کی ملاقات اور دیدار سے مطمئن اور راضی ہے۔

(مشارق الانوار: ۱۱۰، بحار الانوار: ۳۱/۳۰، حدیث ۳۷۷، المعارج: ۱/۳۲۵، حدیث ۲۸۶)

یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں میں امیر المومنین علیہ السلام کے اسرار کو دیکھنے کی طاقت ہے اور نہ یہ سننے کی۔

## علیؑ کی ولایت اور کھوپڑی

(۳۳/۱۳۶) ابن شاذان علیہ الرحمہ کتاب ”فضائل“ میں انوشیروان کی کھوپڑی

کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

جسے امیر المومنین علیہ السلام نے کلام کرنے کا حکم دیا تھا۔ کھوپڑی سے آواز آتی ہے کہ آپ مومنوں کے امیر اور حاکم، اوصیاء کے سردار اور پرہیزگاروں کے پیشوا ہو۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تحت و تاج اور اپنا بلند مقام آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھوں کھودیا، بہشت بریں سے محروم ہو گیا اور بد نصیب رہا، لیکن خدا نے میرے کافر ہونے کے باوجود میری عدالت اور قوم میں انصاف روا رکھنے کی وجہ سے مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ میں آگ میں ہوں لیکن آگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، مجھے عذاب نہیں دیتی اور نہ ہی مجھے جلاتی ہے۔ کتنے افسوس اور ندامت کا مقام ہے کہ اگر میں ایمان لایا ہوتا تو آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔

لوگوں نے جب اس کھوپڑی کی اس بات کو سنا تو رونے لگے، پریشان ہو گئے، اور ذات اقدس امیر المومنین کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے، وہ جو اہل اخلاص تھے، کہنے لگے کہ آپ خدا کے بندے، اس کے ولی اور رسول خدا کے جانشین ہیں، جبکہ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ وہ پیغمبر ہیں۔ ایک گروہ مثل عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکار کہنے لگے کہ وہ خدا ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو حاضر کیا اور فرمایا: شیطان نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اس بیہودہ گفتگو جو کہ کفر ہے سے باز آ جاؤ، میں تو اپنے خدا کا بندہ ہوں چنانچہ کچھ لوگوں نے توبہ کر لی اور باز آ گئے، جب کہ کچھ اپنے کفر پر بضد رہے۔ حضرت نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ کچھ لوگ ان میں سے دوسرے شہروں کی طرف بھاگ گئے اور اس جگہ جا کر کہنے لگے اگر علی علیہ السلام کے وجود میں ربوبیت نہ ہوتی اور وہ خدا نہ ہوتے تو ہمیں آگ میں نہ جلاتے۔ ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ پستی اور بیچارگی ہمارے در پے ہوں

(فضائل ابن شاذان: ۷۰)

مؤلف فرماتے ہیں جیسا کہ مقدمہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ کہ انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے بارگاہ پروردگار میں جسارت کی اور پروردگار کی عظمت کو نہ جانا اور کمتر سمجھا۔



ان لوگوں نے اپنی بے عقلی اور اعتقادِ باطل کی وجہ سے آئمہ علیہم السلام کی جس طرح تعظیم کرنی تھی ویسے نہ کی۔ بلکہ مقامِ ربوبیت کو گھٹا دیا، اسے ممکنات کے ساتھ قیاس کیا۔ اور پروردگار کا انکار کیا۔ خداوند ہمیں اعتقادی انحرافات سے محفوظ فرمائے۔

(۴۴/۱۳۷) شیخ کلینی علیہ الرحمۃ کتاب کافی میں ابو سعید کے بیٹے یوسف سے نقل کرتے ہیں، کہ میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے مجھے فرمایا: جب قیامت برپا ہوگی تو خدا تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ سب سے پہلے جس کو بلائے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تو نے تبلیغ کی اور اپنے پروردگار کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا؟ نوح کہیں گے، جی ہاں! ان سے کہا جائے گا تیرے اس عمل کی کون گواہی دے گا؟ حضرت نوح کہیں گے محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت محمد کی تلاش میں چل پڑیں گے۔ لوگوں کو ایک طرف کر کے آگے جائیں گے یہاں تک کہ حضرت تک پہنچ جائیں گے۔ اور آپ علی علیہ السلام کے ساتھ مشک کے ایک ڈھیر کے پاس بیٹھے ہوں گے اور اسی بارے میں ہے خدا کا یہ فرمان ہے کہ:

فَلَمَّا رَاوْهُ زُلْفَةً سَمِعَتْ وَجْهَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا (سورۃ ملک: آیت ۲۷)

”پس جب اس کو (یعنی علی علیہ السلام کو) دیکھیں گے کہ خدا اور رسول کے نزدیک مقرب ہے تو ان کے چہرے رسوا اور گندے ہو جائیں گے“

نوح علیہ السلام پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کریں گے، خدا نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آیا تو نے تبلیغ کی ہے اور ہمارے پیغام کو پہنچایا ہے؟ میں نے کہا، ہاں! خدا نے فرمایا: کہ تیری گواہی کون دے گا؟ میں نے کہا کہ محمد تو اس وقت پیغمبر اکرم، جعفر بن ابی طالب اور حمزہ سے فرمائیں گے کہ تم دونوں جاؤ اور گواہی دو کہ نوح نے تبلیغ کا کام انجام دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب علیہما السلام اور حمزہ علیہ السلام انبیاء کی تبلیغ کے گواہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں پھر علی علیہ السلام کہاں ہیں اور ان کا کیا کام ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ان کا مرتبہ ان سے بلند تر ہے۔

(الکافی: ۸/۲۶۷ حدیث ۳۹۲، بحار الانوار: ۷/۲۸۲ حدیث ۳، الوافی: ۳۰/۳۰ حدیث ۶)

## اے طارق

(۳۵/۱۳۸) علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ کتاب مشارق الانوار میں طارق بن شہاب سے امام کے اوصاف

میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہیں جس کا کچھ حصہ یوں ہے۔

اے طارق! امام کلمہ پروردگار، حجت الہی، نور خداوند، اور حق تعالیٰ کا پردہ ہے۔

امام کا مقام ہر ایک سے بلند تر ہے وہ ہدایت کی بلند چوٹی اور سعادت کا سیدھا راستہ ہیں جو کوئی بھی ان کو پہچان لے اور اپنا دین ان سے وابستہ کرے تو وہ شخص انہی میں شمار ہوگا۔ اس مطلب کے بارے میں کلام پروردگار میں اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے حکایت ہوا ہے۔

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي (سورہ ابراہیم: آیت ۳۶)

”جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے“

خدا تعالیٰ نے اماموں کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے اور اپنے امور مملکت کی سر پرستی ان کے سپرد کر دی۔ وہ خدا کے پوشیدہ راز، پروردگار کے مقرب اولیاء اور اس کے ایسے امر ہیں جو کاف و نون کے درمیان ظاہر ہوئے، بلکہ خود کاف اور نون ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں، خدا کی طرف سے بات کرتے ہیں اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

انبیاء کا علم ان کے علم کے مقابلے میں، اوصیاء کے اسرار ان کے اسرار کے مقابلے میں اور اولیاء کی عزت ان کی عزت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں یا ایک ذرہ ایک وسیع صحرا کے مقابلے میں ہو۔ امام کے لئے آسمان و زمین ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہیں ان کے ظاہر کو ان کے باطن سے جانتے ہیں۔ وہ نیکو کار کو بدکردار سے جدا کرنے والے ہیں اور آسمان و زمین کے ہر خشک و تر سے آگاہ ہیں۔

(مشارق الانوار: ۱۱۳، بحار الانوار: ۲۵/۱۶۹ حدیث ۳۸)

مؤلف فرماتے ہیں کہ اس روایت کے دو جملے وضاحت کے قابل ہیں، ایک یہ کہ (وامرہ بین الکاف والنون) مجلسی علیہ الرحمۃ اس کے بیان میں فرماتے ہیں کہ امام خدا کے پوشیدہ امر ہیں جو کاف اور نون کے درمیان ظاہر ہوئے ہیں۔ اور یہ اس آیہ شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں خدا فرماتا ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”بے شک اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو فوراً وجود میں آ جاتی ہے“ (سورہ یس: آیت ۸۲)

اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ہے کہ جس میں فرمایا: (هل هم الکاف والنون) اس جملہ کی بھی شرح اور وضاحت درکار تھی لیکن مجلسی علیہ الرحمۃ نے اس کی شرح نہیں کی۔ اس جملہ کی تفسیر کے متعلق جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ چار وجوہات ہیں اور ان میں سے ہر ایک وجہ دوسری سے دقیق تر ہے اور ان وجوہات کے بیان کرنے میں میں ان لوگوں کے فتوؤں سے نہیں ڈرتا جو حقیقت سے دور اور فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اعتقادات کا اظہار نہیں کر رہے۔ اعتقادی لحاظ سے امام صادق علیہ السلام کی وہی حدیث کافی ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے جس میں فرماتے ہیں:

قُولِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ قَوْلَ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا اسْرُوا وَمَا اَعْلَنُوا وَفِيمَا

بَلَغْنِي عَنْهُمْ وَفِيمَا امْ يَلْغَنِي

”میرا قول تمام امور میں وہی ہے جو آل محمد علیہم السلام کا قول ہے۔ اس چیز

میں جو انہوں نے ظاہر کیا ہے اور یا جو انہوں نے پوشیدہ رکھا ہے، چاہے

انکی طرف سے ہم تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو“

اور وجوہات جو اس جملہ کے متعلق میرے ذہن میں آئی ہیں یہ ایک علمی گفتگو ہے۔

اول: کاف اور نون سے مراد یہ ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے جیسا کہ

اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اللہ کا کام ان کا کام ہے اور ان کا کام اللہ کا کام ہے جیسے کہ



حضرت حجت علیہ السلام کے فرمان میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے دل مشیت الہی کے ظرف ہیں جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں اور جب ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے۔

دوم: کاف اور نون سے مراد وہی ارادہ مراد ہے کہ جس کا اظہار ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کی مراد جو کہ کائنات کی پیدائش ہے اسی پر مرتب ہوئی ہے۔  
واضح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام پروردگار کا مقصود کامل ہیں جیسا کہ ”زیارت جامعہ“ میں وارد ہوا ہے:

بکم فتح الله بکم یختم

”خدا نے تمہارے ساتھ ابتدا کی اور تمہارے ساتھ ہی ختم کرے گا“

یعنی پروردگار عالم کا تمام کا تمام مقصد آپ تھے۔ اور باقی سب ان انوار مقدس کی نسبت اگر نیک و صالح ہوں تو ان کا عکس ہیں اور اگر فاسد ہوں تو صرف اور صرف ظلمت اور تاریکی ہیں۔

سوم: کاف اور نون سے مراد وہ چیز ہے یعنی وہ وجود ہے جو اس عالم میں سب سے پہلے ظاہر ہوا ہے۔ اور واضح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے انوار ہی اس طرح پیدا کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ارادہ خدا اور وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا ہے ایک ہی ہے کیونکہ خدا کا فعل وہی ایجاد خداوند ہے بغیر اس کے کہ کوئی نقطہ یا واسطہ درمیان میں موجود ہو۔

چہارم: احتمال ہے کہ مقصد یہ ہو کہ آئمہ علیہم السلام فیض کا وسیلہ ہیں۔ یعنی فیض کو منبع فیض اور سرچشمہ فیض سے لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی مثال اس عالم میں اس محدب شیشہ کی طرح ہے کہ جب وہ سورج اور اس چیز کے درمیان واسطہ ہو جس پر وہ واقع ہو رہا ہے پس جس طرح اس عمل کی نسبت سورج کی طرف دی جاسکتی ہے اسی طرح شیشہ کی طرف بھی دی جاسکتی ہے۔

(۳۶/۱۳۹) کتاب مشارق میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

کوئی چیز بھی اس کے اور خدا کے درمیان پردہ اور حائل نہیں ہے بلکہ وہ خود حجاب اور سرالہی ہے (یعنی واسطہ کے بغیر خدا کی طرف سے فیض اس تک پہنچتا ہے اور وہ وسیلہ فیض ہیں) پس امام خدائی نور اور سرالہی ہے اور جسم کے ساتھ اس کی وابستگی عارضی ہے۔ (ایک ایسا نور ہے جو عالم علوی اور عالم ملکوت سے اس جسم میں پایا جاتا ہے) اس کی دلیل خدا کا یہ فرمان ہے۔

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (سورہ زمر: آیت ۶۹)

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ”رب الارض“ یعنی صاحب، مالک اور زمین کا مختار جو کہ امام ہے، جس کے نور سے زمین روشن ہے اور وہ خدا کا ایسا نور ہے جو تاریکیوں میں چمکا اور تمام عالم کو نورانی کر دیا ہے۔ (مشارق الانوار: ۱۳۹) اس تفسیر کے موافق پیغمبر اکرمؐ کی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں۔

کہ سورج کی دو اطراف ہیں ایک طرف وہ ہے جو اہل آسمان کی طرف ہے جس پر لکھا ہوا ہے ”الْكَلَّةُ نُورُ السَّمَوَاتِ“ (خدا آسمان کا نور ہے) اور دوسری طرف زمین کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے ”عَلَى نُورِ الْأَرْضِينَ“ (علیٰ زمینوں کا نور ہے) پس امام تمام مخلوق کے ساتھ ہے، ان سے جدا نہیں اور لوگ اس سے پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگوں کی نظروں سے حجاب میں ہیں کیونکہ دنیا امام علیہ السلام کے نزدیک ایسے سکے کی مثل ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہو کہ انسان جس طرح چاہے اس کا تصرف کر سکتا ہے۔ آئمہ علیہم السلام سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں۔

”خدا اپنے ولی کو نور کا ایک ستون عطا فرماتا ہے جو خدا اور مخلوق کے درمیان

ہے۔ وہ اس میں تمام بندوں کے اعمال کا ایسے مشاہدہ کرتا ہے جیسے کوئی شخص

اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھ رہا ہو۔“ (مشارق الانوار: ۱۴۰)

مؤلف فرماتے ہیں کہ دیلمی علیہ الرحمۃ کتاب ”ارشاد القلوب“ کی دوسری جلد میں وہ روایت نقل کرتے ہیں جو سورج کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ عبداللہ بن

مسعود کہتے ہیں رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا: سورج کے دو رخ ہیں۔ ایک اس کا رخ اور چہرہ اہل آسمان کو منور کرتا ہے اور دوسرا اہل زمین کو نورانیت سے مستفید کرتا ہے جبکہ اس کے دونوں چہروں پر کچھ لکھا ہوا ہے۔

پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ تحریر دونوں طرف کیا ہے؟

اصحاب عرض کرنے لگے، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: سورج کا وہ رخ جو اہل آسمان کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (سورہ نور: آیت ۳۵)

یعنی خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور جو رخ اہل زمین کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے۔ ”علی نور الارضین“ یعنی علی زمینوں کا نور ہے۔

(ارشاد القلوب: ۲/۱۳۸، مائتہ منقہ: ۷۷ حدیث ۳۵، بحار الانوار: ۹/۲۷۷ حدیث ۲۱)

اور اس سے پہلی والی حدیث میں جو ایک جملہ گذرا ہے کہ امام کے پاس ایک نور کا ستون ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مطلب کی یہ آیت شریفہ تائید کرتی ہے۔

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

(سورۃ توبہ: آیت ۱۰۵)

”ان سے کہو عمل کرو اور جان لو کہ بہت جلد خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے“

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومنین سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔

(بحار الانوار: ۲۳/۳۳۳)

(۱۴۰/۱۴۷) برسی علیہ الرحمۃ کتاب مشارق میں پیغمبر اکرمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: جس رات مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے کوئی ایسا دروازہ، پردہ، درخت، پتہ اور پھل نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس پر علیؑ لکھا ہوا تھا۔ بے



شک نام علیؑ ہر چیز پر لکھا ہوا ہے۔ (مشارق الانوار: ۱۳۹)

مؤلف کہتے ہیں اس روایت شریف سے استفادہ ہوتا ہے کہ بہشت علیؑ السلام اور آپ کے دوستوں کے لئے مخصوص ہے۔ جیسے کہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں۔

ان علیا صاحب الجنة والنار ای مالکھما وقاسمھا  
”بے شک علیؑ السلام صاحب جنت اور جہنم ہے یعنی ان دونوں کا مالک  
اور تقسیم کرنے والا ہے“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

انا صاحب الجنة والنار اسکن اهل الجنة الجنة واهل النار النار  
”جنت و جہنم کا اختیار مجھے ہے میں اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم  
میں رکھوں گا۔“

(بحار الدرجات: ۳۳۲، بحار الانوار: ۵۳/۵۷، حدیث ۲۰، تفسیر برہان: ۳/۱۱۳۹، حدیث ۹)

## علیؑ چمکتا ہوا سورج

(۳۸/۱۴۱) سلمہ بن قیس رسول خدا سے نقل کرتا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا علیؑ السلام

ساتویں آسمان والوں کے لئے ایسے چمکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لئے سورج نورانیت

باغثا ہے۔ اور آسمان اہل زمین کے لئے اندھیری رات کے چاند کی مانند ہیں۔

اور آپؐ نے فرمایا: خدا نے علیؑ السلام کو اتنی عزت و تکریم اور فضیلت عطا کی

ہے کہ اگر اہل زمین میں تقسیم کیا جائے تو سب کے لئے کافی ہے۔ اتنا علم ان کو عطا کیا کہ اگر

زمین والوں پر تقسیم کیا جائے تو تمام کے تمام اہل علم ہو جائیں، جنت کے ہر پردہ پر نام علیؑ

علیہ السلام لکھا ہوا ہے اور مجھے خدا نے اس بارے میں بشارت دی ہے کہ علیؑ السلام حق

تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین اور فرشتوں کے نزدیک عظیم الشان ہے۔ علیؑ السلام میرے

نزدیکیوں اور مقربوں میں سے ہیں اور میری نسبت وفادار ہیں۔ وہ میرا ظاہر و باطن، میرا خفیہ و

آشکار، میرے ساتھ رہنے والا، میرا ہدم اور میری روح ہے۔ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ مجھ سے پہلے اس کی روح کو قبض نہ کرنا، اور جب اس دنیا سے جائے تو شہید ہو کر جائے۔ بیشک میں جب بہشت میں داخل ہوا تو وہاں دیکھا کہ اس کے لئے مخصوص حوریں درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ اور اس کے لئے مخصوص محلات انسانوں کی تعداد سے زیادہ تھے۔

علی منی وانا من علی من تولی علیا فقد تولانی جہ نعمة وابعاه فضيلة  
 ”علی علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں علی علیہ السلام سے ہوں جس نے علیؑ کی ولایت کو قبول کیا اس نے میری ولایت کو قبول کیا اس کی محبت نعمت اور اطاعت فضیلت ہے“

زمین پر چلنے والوں میں سے کوئی بھی میرے بعد علیؑ سے بڑھ کر صاحب فضیلت نہیں ہے۔ خدا نے حکمت کو اس پر نازل فرمایا، اسے دانش و بزرگی کا لباس پہنایا، اس کے سبب سے محافل کو زینت بخشی، اہل ایمان کو عزت دی، اور لشکریوں کو نصرت اور مدد عطا کی، دین کو غالب کیا، زمینوں کو آباد اور نیک سیرت لوگوں کو عزت و آبرو بخشی ہے۔

مثله كمثل بیت الله الحرام یزاو ولا یزور و مثله كمثل القمر اذا  
 طلعت اضواء ت الظلم و مثل الشمس اذا طلعت اضواء ت الحنادس  
 ”اس کی مثال کعبہ کی مثال ہے کہ اس کی زیارت کی جاتی ہے وہ کسی کی زیارت نہیں کرتا (یعنی اس کے گرد گھوما جاتا ہے وہ کسی کے گرد نہیں گھومتا)، وہ چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے کہ جب چمکتا ہے تاریکیوں کو منور کر دیتا ہے اور وہ سورج کی طرح ہے کہ جب روشن ہوتا ہے تو تاریکی فنا ہو جاتی ہے“

خدا نے اپنی کتاب میں اس کی توصیف کی ہے اور آیات میں اس کی مدح ستائش فرمائی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں معاف کرنے والا، بلند مقام پر فائز اور اس دنیا سے جاتے وقت شہید ہے۔

خدا نے موسیٰؑ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے عمران کے بیٹے! میں کسی کی نماز کو

قبول نہیں کروں گا مگر اس کی جو میری عظمت کے سامنے عاجزی اور انکساری دیکھائے، ہمیشہ اپنے دل میں میرے خوف اور محبت کو جگہ دے، دن میری یاد میں گزارے، اور میرے اولیاء کہ جن کی خاطر میں نے آسمان وزمین اور بہشت و دوزخ کو پیدا کیا ہے جو کہ محمدؐ اور اس کی پاک آل ہیں کی معرفت رکھتا ہو۔ جو کوئی ان کو پہچان لے اور ان کے حق کی معرفت حاصل کرے تو اگر وہ کوئی چیز نہ جانتا ہو تو میں اسے اس سے آگاہ کر دیتا ہوں، اگر وہ ظلمت اور تاریکی میں ہو تو اس کے لئے روشنی پیدا کر دیتا ہوں، اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اسے بخش دیتا ہوں اور اس کے پکارنے میں پہلے ہی حاجت روائی کر دیتا ہوں۔ (مشارق الانوار: ۱۴۹)

شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کو تھوڑے سے اضافہ کے ساتھ اپنی کتاب ”امالی“ میں ذکر کیا ہے۔

(امالی صدوق: ۵۷ حدیث ۲، بحار الانوار: ۳۹/۳۷ حدیث ۷۷۲ المعاجز: ۲/۳۵۲ حدیث ۵۹۶)

## اولاد علیؑ کے فضائل چھپانے والے

(۳۹/۱۳۲) اسی کتاب میں کتاب ”تاویل الآیات“ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے رسول خداؐ سے روایت کی ہے،

لا يعذب الله هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من

فضل علی و عترته

”خدا اس مخلوق کو عذاب نہیں دے گا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے جو

انہوں نے علیؑ اور اولاد علیؑ کے فضائل کو چھپانے کے بارے میں کئے۔“

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین پر پیغمبروں اور رسولوں کے بعد کوئی ایسا ذی نفس نہیں ہے جو علیؑ کے شیعوں اور دوستوں سے مقام و مرتبہ میں بڑھ کر ہو، یعنی وہ لوگ جو علیؑ کی ولایت کو ظاہر اور آپ کے فضائل کو نشر کرتے ہیں سر تا پا رحمت الہی ان کو گھیر لیتی ہے اور فرشتے استغفار کرتے ہیں“



اصل بد بختی سے وہ دوچار ہوئے جو فضائل علیؑ کو چھپاتے ہیں اور آپ کی امر ولایت کو پوشیدہ رکھتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کریں گے۔

یہ حق ہے کیونکہ جو کوئی فضائل علیؑ کو جہالت اور نادانی کی وجہ سے چھپائے تو وہ ہلاکت اور بربادی کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اور جو کوئی جان بوجھ کر فضائل علیؑ کو چھپائے تو وہ منافق ہے کیونکہ اس کی طینت اور خمیر ناپاک ہے۔ آنحضرتؐ کے ساتھ سوائے گمراہ اور منافق کے کوئی دشمنی نہیں کرے گا۔

آنحضرتؐ کی ولایت کو اس کی طینت کے سامنے پیش کیا گیا اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہذا وہ طینت مسخ ہوگئی (یعنی اس کی ماہیت اور حقیقت میں تبدیلی آگئی) اور عالم مسخ شدہ گمان میں اس سے کہا گیا کہ جو خمیٹ ہے وہ دوسرے حیثیوں سے مل جائے۔ پس وہ دین نہیں رکھتا اور اس کی عبادت ضائع ہوئی، اور جو مومن ولایت اور معرفت امیر المومنین رکھتا ہے حقیقت میں وہ عبادت گزار ہے، اگرچہ عبادت نہ بھی کرے، وہ نیکو کار اور نیک ہے اگرچہ برائی کرے اور وہ نجات یافتہ ہوگا اگرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ درج ذیل آیہ شریفہ اس گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

”خدا ان کے برے کاموں کو معاف کر دے گا اور ان کو ان کے عمل سے بہتر اجر عطا کرے گا“

اور یہ چیز شیعیان علیؑ کے ساتھ مخصوص ہے۔

(مشارق الانوار: ۱۵۱، الدعاء الساکہ: ۵۶/۲)

### فرشتوں کا استغفار کرنا

(۵۰/۱۴۳) مجلسی کتاب ”مشارق“ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: یا علیؑ! بے شک خدا تجھے اور تیرے دوستوں کو دوست رکھتا ہے اور بے شک فرشتے تیرے، تیرے شیعوں اور تیرے شیعوں کے دوستوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

جب قیامت برپا ہوگی تو ایک منادی ندا دے گا کہ شیعہ یان علیؑ کہاں ہیں؟ صالحین میں سے ایک گروہ کھڑا ہوگا، ان سے کہا جائے گا جس کسی کو بھی چاہتے ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک شخص ہزار اشخاص کو آتش جہنم سے نجات دے گا۔

اس کے بعد پھر منادی ندا دے گا کہ علیؑ کے باقی دوست کہاں ہیں؟ پس ایک ایسا گروہ کھڑا ہوگا، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، تم جو چاہتے ہو خدا سے مانگو، پس ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ پھر وہ منادی ندا دے گا، کہ علیؑ کے اور شیعہ کہاں ہیں؟ ایک ایسا گروہ کھڑا ہوگا جنہوں نے گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا دشمنان علیؑ کہاں ہیں؟ ایک بہت بڑی جمعیت کھڑی ہوگی، ندا دی جائے گی، کہ ان میں سے ہزار آدمیوں کو علیؑ کے ایک شیعہ کے مقابلے میں قرار دو اور ان ہزار آدمیوں کے نیک اعمال کو لے کر علیؑ کے دوستوں کے نامہ اعمال لکھ دو۔ جب ایسا کریں گے تو علیؑ کو ماننے والے گناہ گار آتش جہنم سے نجات پا جائیں گے۔

اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: اے علیؑ! تو عالی مرتبت ہے تو عظیم الشان ہے، جو کوئی تجھے دوست رکھتا ہے خدا اور اس کے رسولؐ اسے دوست رکھتے ہیں اور جس کسی نے تجھے دشمن رکھا اس نے خدا اور اس کے رسولؐ سے دشمنی کی۔ (مشارق الانوار ۱۵۵، بحار الانوار ۷/۲۱۰ حدیث ۱۰۴)

(۵۱/۱۴۳) مذکورہ کتاب میں ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداؐ کو دیکھا

آپؐ نے رکوع کے بغیر ہی پانچ مرتبہ سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا: آپؐ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا: جبرائیلؑ میرے پاس آیا اور عرض کی:

یا محمد: ان الله يحب علیا

”اے محمد! خدا علیؑ کو دوست رکھتا ہے“

میں نے یہ سن کر سجدہ کیا، اس نے کہا: خدا پارسا اور پاک فاطمہؑ کو عزیز رکھتا ہے  
میں نے سجدہ کیا، ابھی سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا تو اس نے کہا: خدا حسنؑ کو دوست رکھتا ہے  
اور پھر کہا: خدا حسینؑ کو دوست رکھتا ہے، میں نے ہر ایک کی خاطر سجدہ کیا، اس نے آخری  
مرتبہ کہا: خدا اس کو بھی دوست رکھتا ہے جو ان کو دوست رکھے۔ تو میں نے پانچواں سجدہ کیا

(مشارق الانوار: ۱۵۵، بحار الانوار: ۳۷/۵۹ حدیث ۲۸)

شیخ مفید کتاب ”امالی“ میں اس روایت کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے  
فرمایا: جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ علیؑ کا مقام بہشت میں ہے، تو میں نے شکر گزاری کی خاطر  
سجدہ کیا۔ جب میں نے سجدہ سے سر اٹھایا، تو اس نے کہا: فاطمہؑ بھی بہشت میں ہے، میں  
نے پھر اسی طرح خدا کا سجدہ کیا۔ اس نے مزید کہا: حسنؑ و حسینؑ دونوں جنت کے سردار  
ہیں، میں نے سجدہ شکر کیا اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو اس نے کہا: جو کوئی ان کو دوست رکھتا  
ہو اس کا مقام جنت میں ہے، میں نے ایک اور سجدہ شکر الہی کے طور پر انجام دیا۔

(امالی مفید: ۲۱ حدیث ۲، مجلس ۳، بحار الانوار: ۶۸/۱۱۱ حدیث ۲۳)

## ابلیس سے علیؑ نے کہا

(۵۲/۱۳۵) سید ہاشم بحرانی کتاب ”مہذب المعاجز“ میں کہتے ہیں کہ کتب شیعہ میں امیر  
المؤمنینؑ سے روایت ہوئی ہے کہ

ایک دن ابلیس حضرت کے پاس سے گذرا، آپ نے اس سے فرمایا: اے  
ابوحارث تو نے قیامت کے لئے کس چیز کا ذخیرہ کیا ہے۔ اس نے عرض کیا: آپ کی دوستی  
کو ذخیرہ کیا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کے ناموں میں سے ایک نام جو میں نے  
ذخیرہ کیا ہوا ہے اور کوئی اس کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتا کو میں پیش کروں گا، یہ ایسا نام  
ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے جب کہ میرے نزدیک ظاہر ہے، اور اس نام کو خدا نے اپنی  
کتاب میں رمز اور اشارہ قرار دیا ہے۔ سوائے خدا اور ان کے جن کے دلوں میں علم و دانش



راخ ہو چکا ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ جب خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پردہ دور کر کے وہ نام اسے سکھا دیتا ہے جبکہ یہ بندہ اس نام اور سرالہی کو جاننے کی وجہ سے امت کی آنکھ میں محبوب ہو جاتا ہے یہ وہ نام ہے جس کے سبب خدا نے آسمانوں اور زمین کو قائم کیا ہے اور اس نام کے ساتھ چیزوں میں ہر طرح سے تصرف کر سکتا ہے۔

(مشارق الانوار: ۱۵۷، ص ۱۰۱/۱۲۷ حدیث ۷۳)

## علیٰ پانی کے اوپر چلنے لگے

(۵۳/۱۴۶) مجلسی علیہ الرحمۃ کتاب مشارق الانوار میں نقل کرتے ہیں

صاحب کتاب عیون الاخبار نے روایت کی ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے کہ خیبری یہودیوں میں سے ایک یہودی حضرت کے ہمراہ ہو گیا، راستے میں ایک ایسے درہ کے پاس پہنچے جہاں سیلاب کا پانی جمع تھا۔ یہودی نے فوراً اپنا کپڑا جو سوتی یا پشم کا تھا اوپر اٹھایا اور پانی کے اوپر چلنے لگا۔ جب تھوڑا سا گیا تو علیٰ کو کہنے لگا۔ اگر آپ بھی وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو میری طرح پانی کو عبور کر جاتے۔

امیر المومنینؑ نے اس سے فرمایا: تھوڑا رک جاؤ، پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو پانی جم گیا اور سخت ہو گیا، آپ اس کے اوپر چلنے لگے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا تو اپنے آپ کو علیٰ علیہ السلام کے قدموں پر گر ادیا اور عرض کرنے لگا، اے جو امردا تو نے کیا پڑھا ہے کہ پانی پتھر میں تبدیل ہو گیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: تو نے کیا پڑھا تھا جس کی وجہ سے تو پانی کے اوپر چلنے لگا تھا؟ اس نے عرض کیا۔ میں نے خدا کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارا تھا۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا: وہ خدا کا اسم اعظم کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ محمدؐ کے جانشین کا نام ہے۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا: میں محمدؐ کا جانشین ہوں۔ یہودی آپ کی حقانیت کا اعتراف

کر کے اسلام لے آیا۔ (مشارق الانوار: ۱۵۷، ص ۱۰۱/۱۲۷ حدیث ۷۴)

## پتھر سونا ہو گیا

(۵۴/۱۴۷) اسی کتاب میں عمار بن یاسر سے نقل ہے وہ کہتے ہیں:

میں ایک دن اپنے مولا امیر المومنینؑ کی خدمت میں شرفیاب ہوا، حضرت نے مجھے پریشان دیکھ کر وجہ پوچھی، میں نے عرض کیا: میں مقروض ہوں اور صاحب قرض تقاضا کر رہا ہے۔ علیؑ نے ایک پتھر کی طرف جو نیچے گرا ہوا تھا اشارہ کیا اور فرمایا: اس کو اٹھاؤ اور اپنا قرض ادا کرو۔ عمار نے عرض کیا: اس پتھر کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا: میرا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرو، وہ اسے سونے میں تبدیل کر دے گا۔ عمار کہتا ہے کہ میں نے آنحضرت کے ہدایت پر عمل کیا وہ سونا بن گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا: جتنی تیری ضرورت ہے وہ لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو سخت ہے، کس طرح نرم ہوگا؟ حضرت نے فرمایا: اے کمزور یقین والے میرا نام لے کر خدا سے دعا کرو تا کہ وہ نرم ہو جائے، بے شک میرے نام کی برکت سے داؤدؑ کے لئے لوہا نرم ہوا۔

عمار کہتا ہے: میں نے ایسا ہی کیا، وہ نرم ہو گیا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس سے لے لیا۔ پھر حضرت نے فرمایا: میرے نام کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو تا کہ یہ سونا اپنی پہلی شکل میں بدل جائے۔ یعنی سلمان مر کے مسکرائے پتھر بن جائے۔

(مشارق الانوار: ۱۷۳، ص ۱۷۳، الحدیث ۳۳۱/۱: حدیث ۲۹۱)

(۵۵/۱۴۸) اسی کتاب میں سلمان فارسی کے خدمت گزار زاذن نقل کرتے ہیں:

جب امیر المومنینؑ، سلمان فارسی کو غسل دینے کے لئے آئے تو دیکھا کہ سلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو سلمان مسکرائے اور بیٹھنے کی کوشش کی حضرت نے فرمایا: اپنی موت کی حالت کی طرف چلے جاؤ اور وہ واپس چلا گیا۔

(بحار الانوار: ۲۲/۲۲۸، حدیث ۲۱، مشارق الانوار: ص ۱۷۳، الحدیث ۲۵۷/۱: حدیث ۱۱۶۳ اور ۳۲۸/۲: حدیث ۶۴۷)

## شہداء پانی

(۵۶/۱۳۹) ابن عباس رسول خدا سے روایت کرتے ہیں :

ایک دن حضورؐ نے پانی مانگا اور حضرتؐ کے پاس امیر المومنینؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، اور حسینؑ موجود تھے، پیغمبر اکرمؐ نے پانی پیا، اور پانی کا برتن امام حسنؑ کو دے دیا، جب انہوں نے پانی پی لیا تو حضرتؐ نے فرمایا: اے ابو محمد! تیرے لئے خوش مزہ ہو۔ اس کے بعد پانی کا برتن امام حسینؑ کو دیا۔ انہوں نے پیا تو پیغمبر اکرمؐ نے ان سے فرمایا: اے ابا عبد اللہ! آپ کے لئے خوش مزہ ہو۔ پھر برتن حضرت زہراءؑ کو دیا جب انہوں نے بھی پی لیا تو ان سے فرمایا: اے پاک طینت اور نیک و صالح ہستیوں کی ماں! تیرے لئے بھی خوش مزہ ہو۔ پھر باری علیؑ کی آئی۔ جب حضرت علیؑ نے پانی پیا تو پیغمبر اکرمؐ نے سجدہ کیا اور جب سر سجدہ سے اٹھایا تو حضورؐ کی بعض بیویوں نے اس کی وجہ پوچھی آپؐ نے فرمایا: جب میں نے اس برتن سے پانی پیا، تو جبرائیل اور فرشتوں نے مجھ سے کہا: اے رسولؐ خدا آپ کے لئے مبارک اور خوش مزہ ہو۔ حسنؑ و حسینؑ اور فاطمہؑ کے پینے کے بعد بھی اسی طرح انہوں نے کہا: اور میں نے بھی جبرائیل اور فرشتوں کی طرح کیا۔ اور جب امیر المومنینؑ نے پانی پیا تو خدا تعالیٰ نے علیؑ سے فرمایا:

ہنیشا مرنیا یا ولی و حجتی علی خلقی

”تیرے لئے مبارک اور خوش مزہ ہوا اے میرے ولی اور میری مخلوق پر میری حجت“

میں نے شکرانے کے طور پر خدا کو سجدہ اس لئے کیا کہ خدا نے میری اہل بیت میں سے علیؑ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا اور ان پر لطف فرمایا ہے۔

(مشارق الانوار: ۱۷۳، بحار الانوار: ۷۶/۵۷۷ حدیث ۱)

## سر پر نورانی تاج

(۵۷/۱۵۰) کتاب ”امالی“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ رسولؐ خدا نے علیؑ

سے فرمایا:



جب قیامت برپا ہوگی تو تجھے ایک سواری پر میدان قیامت میں اس حال میں لائیں گے کہ تیرے سر پر نور کا تاج ہوگا جس کے چار پائے ہوں گے اور ہر پائے پر تین سطروں میں یہ جملات لکھے ہوں گے:

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ

”پھر تیرے لئے ایک فضیلت اور کرامت کا تخت لگایا جائے گا اور جنت و

دوزخ کی چابیاں تیرے پاس لائی جائیں گی“

پھر ابتداء سے لے کر انتہا تک تمام خدا کی مخلوق کو تیرے سامنے ایک سر زمین میں جمع کیا جائے گا۔ پھر تو اپنے شیعوں کو حکم دے گا کہ جنت میں جاؤ اور دشمنوں کو جہنم داخل کریگا، تو ہی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، تو اس دن خدا کی طرف سے امین ہوگا اور امین وہ ہوتا ہے جو حکومت کرے اور جس طرح چاہے امور میں تصرف کرے۔

ایک دوسری روایت میں رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا: یا علی! جب قیامت برپا ہوگی تو تجھے نور کے ایک اونٹ پر لایا جائے گا اس حال میں کہ تیرے سر پر نور کا تاج ہوگا، جو آنکھوں کو چندھیا دینے والا ہوگا اور قریب ہوگا کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے اس وقت ایک حکم صادر ہوگا کہ تو اپنے دوستوں کو جنت میں اور دشمنوں کو جہنم میں داخل کر دے۔

(مشارق الانوار: ۱۸۱)

اے گھوڑ سوار! میری مدد کر

(۵۸/۱۵۱) مجلسی علیہ الرحمہ کتاب مشارق میں کہتے ہیں۔

سلمان فارسی کی حکایت میں ایک روایت ہوئی ہے کہ جب شیر نے ان پر حملہ کیا تو

انہوں نے کہا:

”یا فارس الحجاز ادرکنی“

اے حجاز کے گھڑ سوار میری مدد کرو۔

اچانک گھوڑے پر سوار ایک شخص ظاہر ہوا، جس نے سلمان کو شیر سے بچایا اور اس شیر کو حکم دیا کہ اب تو سلمان کی سواری بن جا۔ اس کے بعد سلمان اس پر لکڑی لاوا کرتے تھے اور حکم علی کی اطاعت کی وجہ سے اس پر وزن اٹھایا کرتے اور اسے صحرا سے شہر کے دروازے تک لاتے تھے۔ (مشارك الانوار: ۲۱۶، مدنیہ العاجز: ۱۱/۲، حدیث ۳۵۵)

## علی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے

(۵۹/۱۵۲) اسی کتاب میں مقداد بن اسود نقل کرتے ہیں:

میرے مولا امیر المومنین نے مجھ سے فرمایا کہ میری تلوار لاؤ، میں نے تلوار حضرت کی خدمت میں پیش کی، آپ نے تلوار کو اپنے زانو پر رکھا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ظہر کے نزدیک دوبارہ واپس آ گئے جب کہ آپ کی تلوار سے خون گر رہا تھا۔ میں نے مولا سے عرض کیا: میرے آقا! آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا: عالم بالا میں دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں اوپر گیا ہوں اور ان کے جھگڑے کو ختم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے آقا! کیا اوپر والی مخلوق کے امور اور معاملات بھی آپ کے سپرد ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں خدا کی طرف سے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات پر حجت ہوں۔ آسمان میں کوئی فرشتہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا مگر میری اجازت کے ساتھ جبکہ میرے متعلق اہل باطل شک اور تردید میں پڑے ہوئے ہیں۔

(مشارك الانوار: ۲۱۸)

مؤلف کہتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ اوپر والی مخلوق میں جھگڑا یا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں خدا فرماتا ہے:

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (سورہ ص: آیت ۶۹)

”مجھے اوپر کی مخلوق کے درمیان جھگڑا کے بارے میں علم نہیں ہے“

اس کے جواب میں کہیں گے کیا ہاروت و ماروت اور فطرس کا قصہ آپ کو معلوم

نہیں ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جنوں کا ایک گرو پرواز کرتا ہے اور ان کا ٹھکانہ ہوا میں ہے؟ پس ممکن ہے کہ ان کے دو گروہوں میں جھگڑا ہو گیا ہو، اور خدا کا ولی اور پروردگار عالم کا ابن اوپر گیا ہو اور ان کے جھگڑے کو نمٹایا ہو۔

اگر پھر بھی کوئی انکار کرے تو اس سے کہا جاسکتا ہے کیا اور یسٰیؑ اور عیسیٰؑ آسمان کی طرف نہیں گئے؟ کیا حضرت موسیٰؑ کے لئے سمندر کو چیرا نہیں گیا؟ کیا سلیمان ہوا پر اور خضرؑ پانی پر نہیں چلتے؟ کیا تمام مخلوقات ولی خدا کے حکم کے تابع نہیں ہے؟ کیا آصف کے قصہ کو آپ نے نہیں سنا ہے؟ کیا (۷۲) حروف میں سے ایک حرف کے علم کے ذریعے ایک عجیب و غریب کارنامہ انجام نہیں دیا گیا؟ جب کہ ان تمام (۷۲) حروف کا علم امیر المومنینؑ کے پاس ہے۔

قرآن آصف کے بارے میں فرماتا ہے۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ (سورۃ نمل: آیت ۴۰)

”جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھانے کہا“

اور امیر المومنینؑ کے متعلق فرماتا ہے:

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (سورۃ رعد: آیت ۴۳)

”وہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے“

بلکہ وہ کتاب ہیں اور کتاب وہ ہے، اس لئے کہ وہ عظیم ترین کلمہ الہی ہیں۔ یہ آیت

شریفہ اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے:

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (سورۃ نجم: آیت ۱۸)

”یعنی اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا“

اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب کی بعض آیات کو دیکھا، بلکہ

مطلب یہ ہے کہ اس نے پروردگار کی بزرگ ترین نشانیوں کو دیکھا۔ خود حضرت فرماتے ہیں:

انا مکلم موسیٰ من الشجرة انا ذلك النور

”میں وہ ہوں جس نے درخت میں سے موسیٰؑ کے ساتھ کلام کی، میں وہ



نور ہوں جسے موسیٰؑ نے وہاں دیکھا“

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

لیس للہ آیۃ اکبر منی ولا لبنا اعظم منی

”خدا کے لئے مجھ سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ سے بڑھ کر کوئی خبر ہے“

ابن عباس کی ایک روایت اس حدیث شریف کی تائید میں ہے کہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ معراج کی رات جب جبرائیل براق رسولؐ خدا کے پاس لائے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، کہ اس براق پر سوار ہو جاؤ۔ آنحضرتؐ نے اس سے پوچھا کہ یہ براق کیسی مخلوق ہے؟ عرض کیا یہ آپ کے لئے ایسی سواری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہشت عدن میں ایک ہزار سال سے مخصوص کر رکھا ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے اس کی رفتار کی نسبت پوچھا۔ جبرائیل نے عرض کیا: اگر آپ چاہیں کہ سات آسمانوں اور سات زمینوں کی ایک ساتھ سیر کریں تو ستر ہزار سال کی مسافت کو ہزار بار آنکھ کے جھپکنے سے کم وقت میں طے کر سکتے ہیں۔

جب پیغمبر اکرمؐ کی سواری جیسی مخلوق میں اتنی طاقت و قدرت ہے تو جس کی خاطر تمام مخلوق کو خلق کیا گیا ہے اس کی کتنی طاقت اور قدرت ہوگی؟ (مشارق الانوار ص ۲۱۸)

## علیؑ کی تلوار اور ڈھال

(۶۰/۱۵۳) کتاب مشارق میں روایت ہے:

علیؑ ایک ایسے قلعے کے پاس سے گذرے، جسے زنجیروں کے ساتھ مضبوط کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنی تلوار اور ڈھال منگوائی، ڈھال کو پاؤں کے نیچے رکھا اور تلوار اپنے ساتھ لٹکائی، پھر اوپر ہوا میں بلند ہوئے اور قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ کر ایک ضرب زنجیروں کو لگائی اور سب کو کاٹ دیا۔ اس قلعے کے سب ستون گر گئے اور دروازہ کھل گیا۔ حضرت کا اس طرح سے اوپر جانا ایسے ہے جیسے فرشتوں کا اوپر جانا اور نیچے آنا ہو۔

(مشارك الانوار: ۲۱۸، مدینہ العاجزہ: ۲/۱۱ حدیث ۳۵۶ مناقب ابن شہر آشوب: ۲/۲۹۹)

(۶۱/۱۵۳) اسی کتاب میں صاحب المقامات سے روایت ہے کہ ابن عباس نقل کرتے ہیں:

میں نے علیؑ کو مدینے کے ایسے کوچوں میں سے گذرتے ہوا دیکھا جن میں راستے آگے سے بند تھے۔ میں نے رسول خداؐ کو اس کی اطلاع دی۔ آپؐ نے فرمایا:

ان علیا علم الہدای والہدی طریقہ

”بے شک علیؑ ہدایت کا راہنما ہے اور اس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے“

اس واقعہ کو تین دن گذر گئے۔ تین دن کے بعد آپؐ نے ہمیں حکم دیا کہ علیؑ کو

تلاش کرو۔

ابن عباس کہتا ہے: میں اس دروازہ کے پاس گیا جس میں آپؐ کو دیکھا تھا۔ دور

سے آپؐ کی سورج میں چمکتی ہوئی زرہ کو دیکھا۔

میں رسولؐ خدا کے پاس آیا اور علیؑ کے آنے کی ان کو خبر دی۔ جب علیؑ پیغمبرؐ کی

زیارت کے لئے آئے تو رسولؐ خدا اٹھے اور علیؑ کو گلے لگا لیا۔ ان کی زرہ کو خود کھولا، اور ان کے جسم

کو غور سے دیکھنے لگے۔ عمر نے کہا: کیا آپؐ کے خیال میں علیؑ کسی جنگ میں تھے؟ پیغمبر اکرمؐ نے

فرمایا: اے خطاب کے بیٹے! علیؑ کو چالیس ہزار فرشتوں کی سرپرستی سونپی گئی تھی آپؐ چالیس ہزار

جنوں کو قتل کر کے آئے ہیں اور جنوں کے چالیس قبیلے اس کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں۔

بے شک بہادری اور شجاعت کے دس مرتبے اور درجے ہیں۔ ان میں سے نو درجے

علیؑ کے پاس ہیں اور ایک درجہ باقی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بزرگی اور شرافت کے دس

درجے ہیں جب کہ نو درجوں کے حضرت علیؑ امین ہیں اور ایک درجہ شرافت کا باقی لوگوں میں

پایا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ علیؑ کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے کہنی سے لے کر ہاتھ

تک بازو کے حصے کی نسبت بازو کے ساتھ ہوتی ہے۔ علیؑ میرے لباس کا بند اور میرا ایسا ہاتھ

ہے جس کے ذریعے میں اپنی ہر خواہش پوری کرتا ہوں وہ میری شمشیر ہے کہ جس کے ذریعے

دشمنوں کو ہلاک کرتا ہوں۔

جو اسے دوست رکھے وہ مؤمن ہے اور جو اسے دشمن رکھے وہ کافر ہے۔ جو کوئی اس کی پیروی کرے وہ کامیاب لوگوں کے ساتھ جا ملے گا۔

(مشارق الانوار: ۲۲۰، مدینۃ المعاجز: ۲/۳۳۶ حدیث ۶۷۲)

## شیعہ تاریکی میں چراغ

(۶۲/۱۵۵) کتاب فضائل الہدیہ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ سے فرمایا:

شیعتک مصابیح الہدیٰ (بحار الانوار: ۶۸/۳۸ سطر ۵)

”تیرے شیعہ تاریکی میں چراغ کی مانند ہیں“

## اسرار الہی کے معجزات

(۶۳/۱۵۶) برسیؑ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

اہل کوفہ میں سے امیر المومنینؑ کے بڑے بڑے شیعوں نے حضرت سے درخواست کی کہ ہمیں اسرار الہی کے معجزات میں سے کوئی معجزہ دیکھائیں۔ آپؑ نے فرمایا: تم اس کے مقہور نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ممکن ہو بھی جائے تو کافر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا: آپ کے صاحب اسرار اور صاحب معجزات ہونے پر شک نہیں ہے اس کے بعد آپؑ نے ستر افراد منتخب کئے اور شہر کوفہ کی عقبی جانب لے گئے۔ آپؑ نے دو رکعت نماز پڑھی، چند کلمات کہے اور فرمایا: نگاہ کرو جب انہوں نے دیکھا تو اپنے سامنے درختوں اور پھلوں کو پایا اور سب نے واضح طور پر جنت کا مشاہدہ کیا ایک شخص جو عرب زبان تھا نے کہا: یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، چنانچہ دو آدمیوں کے علاوہ سب انکار کر گئے۔ آپؑ نے ان میں سے ایک سے فرمایا: آپ کے ساتھیوں نے جو کہا ہے تم نے سنا ہے؟

خدا کی قسم نہ یہ جادو تھا نہ ہی میں جادوگر ہوں بلکہ یہ تو خدا اور اس کے رسولؐ کے



چشمہ علم کے فیض سے حاصل شدہ چیز ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اور میری بات کو رو نہیں کیا بلکہ حقیقت میں رسول خدا کو رد کیا ہے۔ پھر آپ مسجد کی طرف واپس آئے تاکہ ان کے لئے استغفار کریں۔ جب آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو مسجد کے سب منکرینے لعل و جواہرات میں تبدیل ہو گئے، جو دوبائی بچ گئے تھے ان میں سے ایک اور کافر ہو گیا، اور فقط ایک شخص ثابت قدم رہا۔

(مشارق الانوار: ۸۲، بحار الانوار: ۳۱/۲۵۹ حدیث ۲۰، مہذب المعاجز: ۲/۴۷ حدیث ۲۹۳)

### سورہ فاتحہ کی تفسیر

(۶۳/۱۵۷) کتاب ”قوة القلوب“ میں علیؑ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا:

لو شئت لا وفرت سبعين بهيوا في تفسير فاتحه الكتاب

”اگر میں چاہوں تو ستر افواہوں کے وزن کے برابر سورہ فاتحہ کی تفسیر کر سکتا ہوں“

(مناقب ابن شہر آشوب: ۲/۴۳)

### محبت علیؑ انبیاء کے ساتھ

(۶۵/۱۵۷) شیخ صدوق کتاب ”عیون اخبار الرضا“ میں حضرت رضاؑ اور آپ اپنے اباؤ و

اجداد سے نقل کرتے ہیں:

رسول خدا نے علیؑ سے فرمایا: جو کوئی تجھے دوست رکھے گا وہ قیامت کے دن انبیاء

کے ساتھ اٹھے گا اور ان کے مراتب جیسا ہوگا اور جو کوئی ہم دونوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، وہ

یہودی یا نصرانی جیسا ہوگا۔ (عیون اخبار الرضا: ۲۲۰، بحار الانوار: ۲۷/۷۹ حدیث ۱۶)

### رسول اور علیؑ کے پاس پانچ پانچ چیزیں

(۶۶/۱۵۸) شیخ طوسی کتاب ”امالی“ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

میں نے پیغمبر اکرمؐ سے سنا کہ خدا نے مجھے اور علیؑ کو پانچ پانچ چیزیں عطا کی ہیں

مجھے قرآن عطا کیا ہے تو علیؑ کو مجموعہ علم، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے تو علیؑ کو وصی، مجھے خدا نے

کوثر عطا کیا ہے، علیؑ کو سلبیل، جو جنت میں نہر کا نام ہے، مجھے وحی عطا کی تو اسے الہام بخشا، مجھے اس نے آسمانوں کی سیر کروائی تو علیؑ کے لئے آسمانوں کے دروازے کھولے اور پردوں کو ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مجھے دیکھتا تھا اور میں اسے دیکھتا تھا۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں: پھر رسولؐ خدا نے گریہ کیا۔ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں رو رہے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: اے ابن عباس! معراج پر پروردگار کی اول گفتگو یہ تھی کہ آپؐ نے فرمایا: اے محمد! نیچے دیکھو، میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمام پردے ہٹا دیئے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور میں نے دیکھا، علیؑ نے اپنا سر بلند کیا۔ اور میرے ساتھ ہم کلام ہوئے اور میں نے ان کے ساتھ کلمات پروردگار کے ساتھ گفتگو کی۔

خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! میں نے علیؑ کو وزیر، مددگار، وصی اور تیرے بعد جانشین قرار دیا ہے۔ اسے اس بات کی اطلاع دو کہ وہ تیری بات کو سن رہا ہے۔ میں نے علیؑ کو اطلاع دی اس حال میں کہ میں بارگاہ پروردگار میں تھا۔ اس نے قبول کی اور کہا: میں اطاعت کروں گا۔

خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ علیؑ کو سلام کریں، فرشتوں نے سلام کیا اور علیؑ نے ان کو جواب دیا اور فرشتے ایک دوسرے کو مبارک باد اور خوش خبری دینے لگے۔ میں آسمان کے فرشتوں میں سے کسی کے پاس سے نہیں گذرا مگر یہ کہ ہر ایک نے مجھے مبارک باد دی۔ اور سب نے کہا اے محمد! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق رسول مبعوث فرمایا، سب فرشتے اس بات پر خوش ہیں۔

میں نے حاملین عرش کو دیکھا کہ جو سر نیچے جھکائے ہوئے زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا: یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے عرض کیا: اے محمد! سب فرشتے علیؑ کو خوش خبری دینے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سوائے ان فرشتوں کے جو عرش الہی کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اجازت حاصل کر لی ہے تاکہ چہرہ علیؑ کی زیارت کر سکیں۔

اس کے بعد حضرتؑ نے فرمایا: جب میں آسمان سے نیچے آیا تو میں نے چاہا کہ علیؑ کو اوپر کے واقعات کی اطلاع دوں، لیکن ہوا یہ کہ مجھ سے پہلے علیؑ نے تمام واقعات سنانے شروع کر دیئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے۔ وہ سب علیؑ کے سامنے ظاہر ہے اور علیؑ نے اسے دیکھا ہے۔ ابن عباس کہتا ہے: میں نے رسولؐ خدا سے عرض کیا کہ آپؐ مجھے نصیحت فرمائیں؟ آپؐ نے فرمایا:

علیک بحب علی ابن ابی طالب

”میں تجھے علی ابن ابی طالب علیہما السلام کے ساتھ محبت رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں“

میں نے دوبارہ عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیں؟ آپؐ نے فرمایا: میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ علیؑ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق رسول مبعوث فرمایا ہے کسی کا کوئی اچھا عمل خدا قبول نہ فرمائے گا مگر یہ کہ اس سے محبت علیؑ کے بارے میں سوال کرے گا، حالانکہ خود بہتر جاننے والا ہے۔ اگر کوئی ولایت علیؑ رکھتا ہوگا تو اس کے تمام اعمال تمام نقائص کے باوجود قبول کر لے گا لیکن اگر ولایت علیؑ نہ رکھتا ہوگا تو اسے جہنم کی طرف روانہ کر دے گا اور نہ ہی اس سے کسی عمل کے بارے میں سوال کرے گا۔

(امالی طوسی: ۱۰۴ حدیث ۱۵ مجلس ۴، بحار الانوار: ۱۶/۳۱۷ حدیث ۷)

مؤلف کہتا ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

قد	حوتہ	ارض	وارض	تخلت
منہ	حتی	مشی	بہا	وطواھا
هو	فی	الشرق	ما	هو فی
و فی	الارض	مثل	ما فی	سماھا

”ایک زمین نے اسے اپنے اندر لے لیا ہے اور ایک زمین اس سے خالی ہے، یہاں تک کہ اس پر وہ راستہ چلے اور قدم رکھے“



”وہ اگر مشرق میں ہو تو ایسے ہے جیسے مغرب میں ہے اور اگر زمین میں ہو  
اس طرح ہے جیسے آسمان پر ہے“

### میں وسیلہ ہوں

(۶۷/۱۶۰) ابن شہر آشوبؒ امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

اذا الوسيلة

”میں وسیلہ ہوں“

اسی طرح شیخ صدوقؒ پیغمبر اکرمؐ سے روایت کرتے ہیں:

اذا سالت الله لي فاسالوه الوسيلة

”جب تم خدا سے میرے لئے کچھ مانگو تو اس سے وسیلہ کی درخواست کرو“

جب آپؐ سے وسیلہ کے معنی کے متعلق پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا:

وسیلہ بہشت میں میرا ایک درجہ ہے جس کے ہزار مرتبے ہیں، ایک مرتبہ سے لے  
کر دوسرے مرتبہ تک اتنا فاصلہ ہے، جتنا ایک تیز رو گھوڑا ایک مہینے میں سفر طے کرتا ہے اور  
ہر مرتبہ مختلف قسم کے جواہرات سے مزین ہے۔

قیامت کے دن جب اس درجہ کو لایا جائے گا اور دوسرے پیغمبروں کے درجہ کے  
نزدیک اسے نصب کیا جائے گا تو وہ ایسے چمکے گا جیسے چاند ستاروں کے مقابلہ میں چمکتا ہے،  
ہر پیغمبر، صدیق اور شہید اس دن کہے گا خوش قسمت ہے وہ جس کا یہ درجہ ہے۔ پھر پروردگار کی  
طرف سے ایک ندا آئے گی جسے تمام پیغمبر اور لوگ سنیں گے، آواز یہ ہوگی کہ محمدؐ اس درجہ کا  
مالک ہے۔ پس اس وقت میں اس حال میں آؤں گا کہ نور کا جامعہ تن پر ہوگا اور میرے سر  
پر تاج کرامت ہوگا۔ علی ابن ابی طالب علیہما السلام میرے آگے آگے ہوں گے، جن کے  
ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور اس پر یہ لکھا ہوا ہوگا:

لا اله الا الله المفلحون هم الفائزون بالله

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اہل سعادت اور کامیاب وہ ہیں جن کو خدا کامیاب کرے“

جب ہم پیغمبروں کے پاس سے گزریں گے تو کہیں گے یہ دو عظیم اور مقرب فرشتے ہیں کہ جنہیں ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہی انہیں پہچانتے ہیں۔ اور جب ہم فرشتوں کے پاس سے گذریں گے تو وہ کہیں گے یہ دو پیغمبر مرسل ہیں یہاں تک کہ میں اس درجہ کے اوپر جاؤں گا جو میرا مقام ہے اور علیؑ مجھ سے ایک مرتبہ نیچے کھڑا ہوگا۔ اس وقت ہر پیغمبر، صدیق اور شہید کہے گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ دو بندے جو خدا کے نزدیک اتنا بلند مقام رکھتے ہیں، پس ایک ایسی آواز بلند ہوگی جسے سب پیغمبر، صدیقین، شہداء اور مومنین سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی:

هذا حبیبی محمدؐ و هذا ولی علیؑ طوبی لمن احبه وویل لمن بعضه  
و کذب علیہ

”یہ میرا حبیب محمدؐ اور یہ میرا ولی علیؑ ہے خوش قسمت ہے وہ جو اسے دوست رکھے اور بد قسمت ہے وہ جو اسے جھٹلائے اور اس کو دشمن رکھے“

پھر رسول خداؐ نے فرمایا: یا علیؑ! وہ سب جو تجھے دوست رکھتے ہوں گے اس آواز کو سن کر سکون اور اطمینان حاصل کریں گے، ان کے چہرے سفید اور دل خوش ہو جائیں گے اور وہ سب جو تیرے دشمن ہوں گے یا جنہوں نے تیرے ساتھ جنگ کی ہوگی یا تیرے حقوق میں سے کسی حق کا انکار کیا ہوگا اس آواز کو سن کر ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان کے قدموں میں لرزہ پیدا ہو جائے گا۔

اس وقت دو فرشتے میرے پاس آئیں گے، ایک خزانہ دار بہشت جس کا نام رضوان اور دوسرا خزانہ دار دوزخ جس کا نام مالک ہوگا۔ جب قریب آئیں گے تو پہلے رضوان آئے گا اور سلام کرے گا، میں اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہوں گا۔ تو کون ہے؟ تجھ سے خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے اور تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے؟ وہ کہے گا میں (رضوان) خزانہ دار بہشت ہوں اور یہ بہشت کی چابیاں ہیں جو خدا نے آپ کے لئے بھیجی ہیں، مجھ سے لے لو۔

میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ میں نے ان کو اپنے پروردگار کی طرف سے قبول اور اس فضیلت و برتری کے عطا کرنے پر اس کی حمد کرتا ہوں، میں یہ چاہیوں علیؑ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد رضوان واپس چلا جائے گا اور مالک آگے بڑھ کر مجھ پر سلام کرے گا۔ میں اس کا جواب دینے کے بعد اسے کہوں گا: اے فرشتے! تیرا چہرہ کتنا برا ہے اور تیری شکل کتنی مکروہ ہے۔ وہ کہے گا کہ میں خزانہ دار دوزخ (مالک) ہوں، یہ جہنم کی چابیاں مجھے دے کر خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے لہذا مجھ سے لے لو، میں جواب میں کہوں گا، میں انہیں اپنے پروردگار کی طرف سے قبول کرتا ہوں۔ اور انہیں عطا یگی فضیلت پر اس کی حمد کرتا ہوں اور ان چابیوں کو علیؑ کے سپرد کر دوں گا۔ مالک فرشتہ واپس چلا جائے گا، پھر علیؑ جس کے اختیار میں بہشت اور جہنم کی چابیاں ہوں گی، جہنم کے آخری حصے پر کھڑا ہو جائے گا، جب کہ اس کی آگ سے شعلے برپا ہوں گے جو انتہائی گرم ہوگی۔ علیؑ کے ہاتھ میں اس کی مہار ہوگی جہنم مخاطب ہو کر کہے گی: اے علیؑ! قریب سے گذر جاؤ، کیونکہ آپ کے نور نے میرے شعلوں کو ماند کر دیا ہے۔ امیر المؤمنینؑ اس سے فرمائیں: اے جہنم! آرام کرو، جو میرا دشمن ہے اسے پکڑ لے اور جو میرا دوست ہے اسے چھوڑ دے۔ اس دن جہنم علیؑ کی اطاعت اور فرمانبرداری ایک غلام سے بڑھ کر کرے گی۔ اگر چاہے تو اسے اپنے دائیں اور بائیں طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اور اس وقت جہنم علیؑ کے حکم پر بڑی سختی سے عمل کرے گی اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر اطاعت گزاری کرے گی۔

(امالی صدوق: ۸/۱۷۸ حدیث ۲۴۳، مجلس ۲۴، تفسیر فی: ۶۴۳، بحار الانوار: ۷/۳۲۶ حدیث ۲، بشارۃ المصطفیٰ: ۲۱)

## شیعوں کے گناہ معاف

(۶۸/۱۶۱) ابن بابویہؒ محمد بن سعید سے نقل کرتے ہیں:

میں نے امام باقرؑ یا امام صادقؑ سے عرض کیا: کیا محمدؐ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟



لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (سورہ فتح: آیت ۲)

”تاکہ خدا تمہارے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دے“

آپ نے فرمایا:

ان الله سبحانه وتعالى حمل محمداً ذنوب شيعة علي ثم غفرها له  
ما تقدم وما تأخر

”خداوند تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنینؑ کے شیعوں کے گناہوں کو محمدؐ کے

کندھوں پر ڈال دیا ہے، اور پھر ان تمام کو معاف کر دیا ہے“

(تاویل الآيات: ۲/۵۹۱ حدیث ۱، تفسیر برہان: ۴/۱۹۵ حدیث ۷)

یہ روایت امام ہادیؑ سے بھی مروی ہے:

(تاویل الآيات: ۲/۵۹۳ حدیث ۴، بحار الانوار: ۲۳/۲۷۳ حدیث ۵۷)

## شیعیان علیؑ کی توبہ

(۶۹/۱۶۲) پیغمبر اکرمؐ سے روایت ہوئی ہے کہ آپؐ نے علیؑ سے فرمایا:

یا علیؑ! میں نے خدا سے درخواست کی ہے کہ شیعیان علیؑ کو توبہ سے محروم نہ کرے،  
اگرچہ جان کنی کی حالت پر ہوں۔ چنانچہ یہ درخواست قبول کر لی گئی اور یہ خصوصیت صرف  
تیرے شیعوں کے ساتھ خاص ہے، دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔

(تاویل الآيات: ۲/۵۹۳ حدیث ۵، بحار الانوار: ۲۷/۲۷۳ حدیث ۱۳۸)

## عمل سے دشمنی رکھو

(۷۰/۸۱۶۳) شیخ طوسیؒ ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

میں نے حضرت موسیٰؑ ابن جعفر سے عرض کیا: ایک شخص آپ کے مولیوں اور  
دوستوں میں سے ہے لیکن معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور ہلاک کرنے  
والے گناہوں کا مرتکب ہے۔ کیا اس سے بیزاری اختیار کریں؟ حضرت نے فرمایا:

اس کے برے اعمال سے بیزاری اختیار کرو، اچھائی سے بیزاری نہ چاہو، دوست رکھو لیکن اس کے عمل سے دشمنی رکھو۔

میں نے عرض کیا: کیا جائز ہے کہ ہمیں وہ فاسق و فاجر ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں فاسق و فاجر اور کافر وہ ہے جو ہمارا اور ہماری ولایت کا منکر ہو، خدا اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا کہ ہمارا دوست فاسق و فاجر ہو۔ اگرچہ بعض مناسب اعمال اس سے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن تم اسے بدکردار محض کہو البتہ اس کا نفس مؤمن ہے جب کہ کام برا ہے۔ روح اور بدن پاک رکھتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا دوست اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا تا وقت کہ خدا اس کا رسول اور ہم اہل بیت اس سے راضی نہ ہو جائیں، اس کے تمام اعمال کے ساتھ خدا اسے سفید چہرے کے ساتھ محشور فرمائے گا، اس کی برائیوں کو چھپا دے گا، اسے خوف و وحشت سے محفوظ رکھے گا، کسی قسم کا غم و غصہ نہ رکھتا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر اپنے گناہوں سے پاک ہوگا۔ اور خالص ہوگا اور یہ یا تو کسی حادثہ کی وجہ سے ہوگا جو اس کے مال یا اولاد میں واقع ہوگا۔ یا کسی بیماری یا مصیبت کی وجہ سے ہوگا۔

اور چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اس کے گناہوں کا کفارہ واقع ہوگی کہ وہ کوئی ڈراونا خواب دیکھے گا، اور جب بیدار ہوگا تو تمکین و پریشان ہوگا، یا حکومت وقت کی طرف سے خوف و اضطراب کی حالت میں ہوگا، یا اس کی جان کنی سخت ہوگی۔ یہ تمام واقعات باعثِ بینش گے کہ خدا سے جب ملاقات کرے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا اور اس کا خوف حضرت محمدؐ اور امیر المومنینؑ کی زیارت کے سبب ختم ہو جائے گا۔ پھر دو امر اس کے سامنے ہیں۔ یا خدا کی بے انتہا رحمت اس کے شامل حال ہوگی یا جہنم اور امیر المومنینؑ کی شفاعت اس کے ساتھ ہوگی۔ اگر رحمت خدا کی لیاقت نہ رکھتا ہو تو اس وقت ان دو ہستیوں کی شفاعت اس کے نصیب ہوگی اور وہ اس رحمت کے لائق ہے اور خدا اس پر احسان فرمائے گا اور اسے بخش دے گا۔

(تاویل للآیات: ۲/۵۹۳ حدیث ۶، بحار الانوار: ۲۵/۱۷۳ حدیث ۱۱۳۹ اور ۶۸/۱۲۸ حدیث ۹۶)

مؤلف فرماتے ہیں کہ خدا کا یہ فرمان۔

وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (سورۃ یونس: آیت ۴۱)

مذکورہ روایت کے مطلب کی اشارہ کرتا ہے کیونکہ خدا یہ نہیں فرماتا کہ میں تم سے بیزار ہوں بلکہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔

(۷۱/۱۶۴) صاحب کتاب (تاویل الایات) اس آیہ شریفہ:

القیافی جہنم کل کفار عنید (سورۃ ق: آیت ۲۴)

حکم ہوگا تم دونوں ہر ناشکرے سرکش کو جہنم میں ڈال دو کافر دوگردان کو جہنم میں ڈالو گے

کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: میں رسول خدا کے پاس گیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد میں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے حق کے بارے میں آشنا کرو تاکہ واضح اور روشن طریقے سے دیکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا: اے ابن مسعود اس کمرے میں جا کر دیکھو، کہتا ہے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ علیؑ رکوع اور سجود کر رہے ہیں اور اپنے رکوع اور سجود میں خشوع کے ساتھ خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہیں:

اللهم بحق نبیک الا ما غفرت للمذنبین من شیعتی

”اے اللہ! اپنے نبی کے صدقے میرے گناہ گار شیعوں کو معاف فرمادے“

میں کمرے سے باہر آیا تاکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا رسول خدا سے عرض کروں لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ رسول خدا رکوع اور سجود میں مشغول ہیں۔ اور کمال خشوع و خضوع کے ساتھ خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہیں:

اللهم بحق علی ولیک الا ما غفرت للمذنبین من امتی

”پروردگار! اپنے ولی علیؑ کے صدقے میں میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے“

میں نے جب یہ دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہوا، رسول خدا نے نماز کو مختصر کیا اور ختم کر کے مجھے فرمایا: اے ابن مسعود! کیا ایمان رکھتے کے بعد کفر سے دوچار ہونا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! آپ کی جان کی قسم! مجھے تعجب صرف یہ ہے کہ میں نے



دیکھا، علیؑ آپ کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ علیؑ کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ میں مجھے میں ہوں، آیا آپ دونوں ہستیوں میں سے کون خدا کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے؟

آنحضرتؐ نے فرمایا: خدا نے مجھے علیؑ اور حسینؑ کو اپنے پاک نور سے پیدا کیا ہے۔ جب خدا نے کائنات کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو میرے نور سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں خدا کی قسم آسمانوں اور زمین سے افضل اور برتر ہوں۔ پھر علیؑ کے نور سے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، خدا کی قسم علیؑ عرش اور کرسی سے افضل اور بلند تر ہیں۔ اس کے بعد نور حسنؑ کو تقسیم کیا اور اس سے فرشتے اور حورالعین تولد ہوئے، خدا کی قسم حسنؑ کا مرتبہ فرشتوں اور حورالعین سے بلند تر ہیں۔ اس کے بعد حسینؑ کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے لوح و قلم کو پیدا کیا، خدا کی قسم حسینؑ لوح و قلم سے افضل تر ہیں۔

اس وقت ہر طرف تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فرشتوں نے چیخا اور پکارنا شروع کیا اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار اور آقا! نورانی اشخاص کے حق کا واسطہ ہمیں تاریکی سے نجات عطا فرما۔ خدا نے ایک دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا اور اس سے روح کو پیدا کیا۔ پھر اس روح کے نور سے حضرت فاطمہ زہراءؑ کو پیدا کیا اور اسے عرش کے سامنے قرار دیا۔ اس وقت تمام کائنات روشن ہوگئی۔ اسی وجہ سے انہیں زہراءؑ کہا جاتا ہے اے ابن مسعود! جب قیامت برپا ہوگی تو خدا مجھے اور علیؑ کو حکم دے گا جو کوئی آپ کو دوست رکھتا ہے اسے جنت میں داخل کرو اور جو کوئی تمہارا دشمن ہے اسے جہنم میں پھینک دو۔ اس دلیل خدا کا یہ فرمان ہے:

الْقِيَامَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (سورہ ق: آیت ۲۳)

”تم دونوں ہر ناشکرے سرکش کو جہنم میں ڈال دو“

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آیہ شریفہ میں ”کفار عنید“ سے کون مراد ہے؟

آپؐ نے فرمایا:

الكفار من كفر بنوتی والعنيد من عاند علی ابن ابی طالب

”کفار سے مراد وہ ہے جو میری نبوت کا انکار کرے اور عید سے مراد وہ ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہو۔

(تأویل لآیات: ۲/۶۱۰ حدیث ۷، بحار الانوار: ۳۶/۳۳ حدیث ۲۴)

مؤلف فرماتے ہیں بحرانی کتاب غایۃ المرام میں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں اہل سنت سے تین حدیثیں نقل کی ہیں، ان تین میں سے ایک مذکورہ حدیث ہے، اور اہل شیعہ کی لرف سے اس کی تفسیر میں سات حدیثیں نقل کی ہیں۔ (غایۃ المرام: ۶۸۷ حدیث ۱۴)

## دوموٹے اونٹ

(۷۲/۱۶۵) اسی کتاب میں ابن عباس سے ایک بڑی خوبصورت اور لطیف حدیث نقل کرتے ہیں:

ایک شخص دوموٹے اونٹ پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں بطور تحفہ لایا، رسولؐ خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا: تم میں سے کون ایسا ہے، جو دو رکعت نماز اس کے تمام واجبات یعنی قیام، رکوع، سجود اور دوسرے اعمال کے ساتھ بجالائے اور نماز کی حالت میں امور دنیا کے متعلق نہ سوچے اور اس کے دل میں دنیا کی فکر نہ ہو ان دو اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے ہدیہ کے طور پر دوں گا۔ اس بابت ایک بار دوبار بلکہ تین بار تکرار کیا، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ امیر المومنینؑ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے:

یا رسول اللہ! میں دو رکعت نماز پڑھوں گا اور اس کی تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام کے آخر تک دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہ لاؤں گا۔

آپؐ نے فرمایا: یا علیؑ! تجھ پر خدا کا درود و سلام ہو، نماز شروع کرو، امیر المومنینؑ نے تکبیر کہی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپؐ نے نماز کا سلام کیا، تو جبرائیلؑ نیچے آئے اور پیغمبر اکرمؐ سے عرض کیا، یا محمدؐ! خدا آپؐ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان دو اونٹوں میں سے ایک اونٹ علیؑ کو عطا کرو۔ رسولؐ خدا نے فرمایا: میں نے شرط کی تھی اگر دو

رکعت نماز پڑھے بغیر اس کے دل میں امور دنیا کی فکر کرے تو تب اونٹ دوں گا، لیکن علیؑ جب تشہد میں مشغول تھے تو یہ فکر کر رہے تھے کہ ان دو اونٹوں میں سے کس اونٹ کو لے۔ جبرائیل نے عرض کیا: یا محمدؐ! خدا نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ علیؑ نے جو یہ سوچا ہے کہ ان دو میں سے کس کو لے وہ اپنی خاطر یا دنیا کی خاطر نہ تھا بلکہ اس لئے ایسا سوچا کہ ان میں سے کونسا موٹا ہے تاکہ راہ خدا میں اسے ذبح کرے اور خالق کائنات کی خوشنودی میں اسے فقیروں میں بانٹ دے۔

رسولؐ خدا گریہ کرنے لگے اور دونوں اونٹ علیؑ کو عطا کر دے۔ علیؑ نے دونوں اونٹوں کو ذبح کیا اور راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ اسی بارے میں خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

(سورۃ ق: آیت ۳۷)

”اس واقعہ میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لئے جس کے

پاس دل ہو یا حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو“

اس سے مراد امیر المومنین ہیں جنہوں نے نماز میں اپنے آپ کو مخاطب کیا اور اپنے سے گفتگو کی لیکن ہرگز امور دنیاوی کے متعلق نہ سوچا۔

(تادیل لآیات ۲/۶۱۲ حدیث ۸، بحار الانوار: ۳۶/۱۶۱ حدیث ۱۴۲، تفسیر برہان: ۴/۲۲۸ حدیث ۳)

اور یہ اخلاص و عصمت کا طریقہ اور راستہ ہے اور یہ دو خصالتیں کسی ایک میں جمع

نہیں ہو سکتیں مگر خود حضرتؐ میں اور حضرتؑ کی معصوم اولاد میں۔

فاطمہؑ سب سے افضل ہیں

(۷۳/۱۶۶) ایک دوسری خوبصورت حدیث جسے سید ہاشم بحرانی کتاب غایۃ المرام میں اہل

سنت سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ کہتے ہیں:

رسول خداؐ نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے فرمایا: اے عبدالرحمن! تم میرے صحابی ہو اور



علیٰ بن ابی طالب علیہ السلام مجھ سے اور میں علیٰ سے ہوں، جو بھی اسے میرے علاوہ کسی غیر کے ساتھ وابستہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا، حقیقت میں اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس پر خدا کی لعنت ہے۔

اے عبدالرحمن! خدا نے روشن اور واضح کتاب مجھ پر نازل کی ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ سوائے علیٰ کے تمام کے سامنے اس کو بیان کروں۔ علیٰ کو اس کے بیان اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ خدا نے اس کی فصاحت کو میری فصاحت اور اس کی سمجھ بوجھ میری سمجھ بوجھ کی مثل قرار دیا ہے۔

اگر حکمت کسی مرد کی شکل میں ظاہر ہو تو وہ مرد علیٰ ہوگا اور اگر عقل کسی شخص کی شکل میں ظاہر ہو تو وہ حسن ہوگا، اور اگر سخاوت کسی شخص کی شکل میں ظاہر ہو تو وہ شخص حسین ہوگا۔ اور اگر تمام اچھائیاں کسی انسان میں ظاہر ہوں تو وہ فاطمہ ہے، بلکہ فاطمہ اس سے بھی بلند تر اور افضل تر ہیں بے شک میری بیٹی فاطمہ حقیقت، شرافت اور فضیلت کے اعتبار سے تمام اہل زمین سے بہتر ہے۔ (فرائد السطین ۲/۶۸)

## کہ مجھے نیند آگئی

(۷۴/۱۶۷) آیہ شریفہ

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنِ

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علیین کا معنی بہت بلند جگہ ہے، جو پیغمبر اکرمؐ، امیر المومنینؑ، آئمہ معصومینؑ اور ان کے شیعوں کا مقام ہے۔ (سورہ السطین: ۱۸)

ابو طاہر کی روایت جو حارث ہمدانی سے نقل کرتے ہیں اس مطلب پر دلیل ہے وہ کہتے ہیں: میں امیر المومنینؑ کے پاس گیا، آپ حالت سجدہ میں تھے اور اس طرح گریہ کر رہے تھے کہ آپ کے گریہ اور نالہ کی آواز بہت زیادہ بلند ہو رہی تھی۔ جب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے عرض کیا: یا امیر المومنینؑ آپ کے گریہ نے ہمیں متشکر اور

پریشان کر دیا ہے۔ پہلے کبھی آپ کو اس طرح گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

آپ نے فرمایا: میں سجدہ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے نیند آگئی۔ میں نے ایک خواب دیکھا، جس کی وجہ سے خوف اور وحشت طاری ہوگئی۔ اس حال میں، میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، یا علی! تیری دوری مجھ سے بہت ہوگئی ہے، میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اور خدا نے جو تیرے بارے میں میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ یقینی ہو گیا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جو وعدہ خدا نے میرے بارے میں آپ کے ساتھ کیا تھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: خدا نے تیرے، تیری زوجہ اور تیری اولاد کے بارے میں اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے کہ تمہارا مقام علیین یعنی بہشت میں بلند ترین جگہ میں ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمارے شیعوں کا کیا مقام ہوگا؟

آپ نے فرمایا: وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے محلات ہمارے پیچھے ہوں گے اور ان کی منزلیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے شیعوں کا دنیا میں کتنا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا: فتنہ و فساد سے محفوظ رہیں گے اور عاقبت الہی ان کے شامل حال ہوگی۔ میں نے عرض کیا: موت کے وقت ہمارے شیعوں کا دوسروں سے کیا فرق ہوگا؟

آپ نے فرمایا: وہ اپنی موت کے بارے میں خود حکم دیں گے کہ موت کیسے آئے اور عزرائیل پابند ہوگا کہ اطاعت کرے اور جس طرح وہ چاہیں ان کی روح قبض کرے۔ میں نے عرض کیا: ان کے مرنے کی حالت کی کوئی حد ہے جس کو بیان کیا جاسکے؟

آپ نے فرمایا: ہاں! ان میں سے وہ جن کی محبت ہمارے ساتھ شدید ہوگی ان کی روح اس طرح نکلے گی جیسے تم میں سے کوئی گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پیئے اور فرحت محسوس کرے اور ہمارے تمام شیعوں کی روح اس طرح نکلے گی جیسے تم میں سے کوئی سوتے وقت بستر پر خراٹے لیتا ہے۔ (تذیل آیات ۶۶/۲، حدیث ۸، بحار الانوار ۳۲/۱۹۳ حدیث ۱۱)

مؤلف کہتے ہیں کہ اس طرح سے قبض روح اہل بیت علیہم السلام کے دوست لوگوں کے ساتھ خاص ہے اور دوسرے لوگوں کی قبض روح اس طرح ہے جیسے کتاب "بستان

الواعظین“ میں وارد ہوا ہے کہ موت کے وقت تین ہزار طرح کی سختیاں اور تکلیفیں ہیں ان میں سے ہر سختی اور تکلیف تلوار کی ہزار ضربات سے سخت تر ہے۔

### سیاہ چہرے والا

(۷۵/۱۶۸) شیخ صدوقؒ ”امام صادقؑ“ سے روایت کرتے ہیں:

آپؑ نے فرمایا کہ رسول خداؐ اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے، اسی دوران حبشی نسل کے چار آدمی ایک سیاہ چہرے والے شخص کا جنازہ اٹھائے ہوئے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر قبر کی طرف لے جا رہے تھے۔ رسول خداؐ نے فرمایا: اس جنازہ کو میرے پاس لاؤ جب وہ جنازہ آپ کے پاس لائے اور اپنے سامنے اس جنازہ کو زمین پر رکھا اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا پھر علیؑ سے فرمایا: یا علیؑ! یہ شخص وہی آل نجار کا غلام رباح ہے۔ علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم یہ جب بھی مجھے دیکھتا تو عزت کرتا اور شرم محسوس کرتا اور کہتا: یا علیؑ! میں آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔

اس کے بعد رسول خداؐ نے حکم دیا کہ اسے غسل دیا جائے، پیغمبر اکرمؐ نے اپنے ایک لباس میں اسے کفن دیا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی قبر تک تشیع جنازہ کے لئے آئے۔ لوگوں نے آسمان سے آوازیں کو سنا۔ رسول خداؐ نے فرمایا: فرشتوں کے ستر ہزار گروہوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور ہر گروہ کی تعداد ستر ہزار نفرتھی۔ خدا کی قسم! اس مرتبہ پر علیؑ کی محبت اور دوستی کے علاوہ نہیں پہنچا جاسکتا۔

پھر رسول خداؐ نے اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارا اور تھوڑی دیر بعد اس سے اپنا رخ دور کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔

اصحاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ آپؐ نے تھوڑی دیر کے لئے اس سے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا، پھر مٹی سے اس کی قبر کو ڈھانپ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: کیونکہ یہ خدا کا فرمانبردار بندہ اس دنیا سے پیسا سا گیا تھا، اس کی جتنی بیویاں یعنی



میں پریشان ہو گیا تو اس وقت یعنی عالم انوار میں بھی جوان ظاہر ہوا، اور مجھے فرمایا: کہو:

انت الرب الجلیل واسمک الجمیل وانا العبد الذلیل واسمى جبرائیل

”تو بلند مرتبہ پروردگار ہے اور تیرا نام جمیل (خوبصورت) ہے میں عبد ذلیل

ہوں کہ میرا نام جبرائیل ہے“

اسی وجہ سے میں نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا: ایک ستارہ ہے جو

تیس ہزار سال میں ایک بار عرش الہی کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اس ستارے کو تیس ہزار مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔

رسول خدا نے فرمایا:

اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟

اس نے عرض کیا: ہاں! کیوں نہیں پہچانوں گا۔

اس وقت علی علیہ السلام سے فرمایا: اپنا عمامہ پیشانی سے اوپر کرو۔

جونہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنا عمامہ اوپر کیا تو جبرائیلؑ نے آپ

کی پیشانی پر اسی ستارے اور نور کا مشاہد کیا۔ (انوار الصافیہ، ۱۵، از بہتان امریکہ)

بعض معاصرین نے آنحضرت کی بہت اچھے اشعار کہے ہیں:

ایاعلة	الایجاد	حاربک	الفکر
ونی	فہم	معنی	ذاتک
قد	قال	قوم	فیک
بانک	رب	کیف	لوکشف
		الستر	

اے علت ایجاد! تیرے بارے غور و فکر نے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ تیری حقیقت

ذات کو سمجھنا لوگوں پر مشتبہ ہو چکا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو حجاب میں چھپا رکھا ہے اور اپنی

عظمت کو ظاہر نہیں کیا، ایک قوم تیرے بارے میں کہتی ہے کہ تو خدا ہے۔ اگر تم پر دے ہٹا دو

”یا علی! فرشتے اس پانی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں جو تیرے ہاتھوں سے گرتا ہے اور اس سے تمہارا اپنے چہروں کو دھو رہے ہیں“  
(الروضة: ۲، الفضائل: ۹۲، بحار الانوار: ۳۹/۱۲۱ حدیث ۳، غریبہ المعانی: ۱/۳۷۳ حدیث ۲۴۰)

## نماز مشکل امر ہے

(۸۴/۱۷۷) فراتؒ اپنی تفسیر میں آیہ شریفہ

وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (سورة بقرہ: آیت ۲۵)

”بے شک نماز بہت مشکل امر ہے مگر خاشعین کے لئے“

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ خاشعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسولؐ خدا اور امیر المومنینؑ کی طرف متوجہ ہیں۔

(تفسیر فرات: ۶۰ حدیث ۲۱، بحار الانوار: ۳۵/۳۳۸ حدیث ۲۷)

مؤلف فرماتے ہیں: یہ تعبیر یا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز گزار گروہ امامیہ سے ہو، اور ولایت امیر المومنین کا معتقد ہو تا کہ خشوع حاصل ہو یا مراد یہ ہے کہ نماز گزار جب ان دو ہستیوں کی محبت کو دل میں لے کر نماز پڑھے گا تو اس کا دل صاف و شفاف ہو کر یہ صلاحیت پیدا کر لے گا کہ عظمت بارگاہ ایزدی کو اپنے اندر سما سکے اور جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی تو خود بخود اس میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اس آئینہ کی مانند جو ہر قسم کی آلودگی سے صاف ہو۔

## اولاد علیؑ ہونا ایک فضیلت ہے

(۸۵/۱۷۸) ابن شاذان کتاب ”روضہ“ میں امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا:

”میں علیؑ ابن ابی طالبؑ کی ولایت کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس سے کہ میں آپؑ کی اولاد سے ہوں، کیونکہ ولایت علیؑ واجب ہے اور ان کی اولاد سے ہونا ایک فضیلت ہے۔“

(الروضة: ۱۳۳ حدیث ۹۲، بحار الانوار: ۳۹/۲۹۹ حدیث ۱۰۵)

(۸۶/۱۷۹) مذکورہ کتاب میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

میں نے علیؑ کی ان فضیلتوں میں کبھی حسد نہ کیا جو پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں آپ نے فرمایا: اے گروہ قریش! تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم کافر ہو جاؤ گے اور مجھے ایک لشکر گاہ کے درمیان دیکھو گے کہ میں تمہارے چہروں پر مار رہا ہوں گا۔ جبرائیلؑ نازل ہوا اور آنحضرتؐ کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا: اے محمدؐ! کہو اگر خدا اور علیؑ نے چاہا رسولؐ خدا نے فرمایا:

ان شاء الله وعلى ابن ابی طالب

”اگر خدا اور علیؑ ابن ابی طالب نے چاہا تو“

(الروضۃ: ۱۴۰ حدیث ۱۱۸، بحار الانوار: ۸/۱۵۳، مشارق الانوار: ۱۶۶)

## جنگ تبوک

(۸۷/۱۸۰) سید ہاشم بحرانی کتاب ”مسنۃ المعاجز“ میں کتاب درر المطالب سبھل کرتے ہیں:

رسولؐ خدا جب جنگ تبوک کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے تو علیؑ ابن ابی طالب علیہما السلام کو پیچھے اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا اور حکم دیا کہ آپ مدینہ میں رہیں، منافقین نے غلط باتوں کے ذریعے سے فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیا کہ پیغمبر اکرمؐ، علیؑ کو اس لئے ساتھ لے کر نہیں گئے کہ آپؐ کی نظر میں علیؑ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب اس طرح کی باتیں علیؑ تک پہنچیں تو آپؐ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور پیغمبر اکرمؐ کی طرف نکل پڑے اور راستے میں جالیا اور عرض کرنے لگے:

یا رسول اللہ! منافقین کے خیال میں آپؐ نے جو مجھے مدینے میں رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ آپؐ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے کیا یہ بات درست ہے؟ رسول خداؐ نے فرمایا: منافقین جھوٹ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں نے تجھے اپنے باقی ماندہ امور اور معاملات میں اپنا جانشین بنایا ہے۔ واپس چلے جاؤ اور میرے اور اپنے اہل خانہ کے



درمیان میرا جانشین بنو۔

الا ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي؟

”کیا تو خوش نہیں ہے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی

موسیٰ کے ساتھ فقط اس کے علاوہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا“

یہ سن کر علیؑ واپس لوٹ گئے اور پیغمبر اکرمؐ نے اپنا سفر جاری رکھا۔

اتفاقاً اس جنگ میں آنحضرتؐ کا لشکر شکست سے دو چار ہوا اور ادھر ادھر فرار

ہو گیا۔ جبرائیل رسول خداؐ کے پاس نازل ہوا اور عرض کی، خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور فتح کی

خوش خبری دیتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ اپنی مدد کے لئے فرشتوں کو بلاؤ اور اگر چاہو تو

علیؑ کو بلاؤ تاکہ وہ آئے۔ پیغمبر اکرمؐ نے دوسری بات کو اختیار کیا جبرائیل نے عرض کیا: اپنا

منہ مدینہ کی طرف کر کے آواز دو۔

یا ابا الفیث ادرکسی یا علی ادرکسی یا علی

”اے علیؑ میری مدد کو آؤ، اے علیؑ! میری مدد کو پہنچو“

مسلمان کہتا ہے میں پیغمبر اکرمؐ کے حکم کے مطابق مدینہ میں رہ گیا تھا ایک دن شہر

سے باہر ایک باغ میں گیا کہ وہاں علیؑ موجود تھے جو بھجور کے درخت کی شاخوں کو کاٹ رہے

تھے جب کہ میں جمع کر رہا تھا۔ اچانک میں نے سنا علیؑ نے فرمایا: ”لیک“ میں آیا میں ابھی

آیا۔ آپ درخت سے نیچے اترے اس حال میں کہ آپ کا چہرہ غمگین تھا اور آنکھوں سے آنسو

بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا ابا الحسن! کیا ہوا ہے، کون سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ نے

فرمایا: لشکر رسولؐ کو شکست ہوگئی ہے، اب مجھے بلایا جا رہا ہے اور مدد طلب کی جا رہی ہے۔

پھر آپ فاطمہؑ کے گھر گئے اور جب واپس لوٹے تو مجھے فرمایا: اپنے قدم میرے قدموں کے

نشان پر رکھتے آؤ۔

مسلمان کہتا ہے: میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب سترہ قدم چلے تو اپنے سامنے

دو لشکروں کو دیکھا۔ امامؑ جب اس جگہ پہنچے تو ایک آواز بلند کی جس سے دو لشکروں کے درمیان

ایک فاصلہ پیدا ہو گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوا، اور رسول خدا کو سلام عرض کیا تو آپؐ نے خوشی کی حالت میں اسے سلام کا جواب دیا۔  
 علیؑ نے دشمن کے لشکر کے بہادروں پر حملہ کیا، سب کے سب تتر بتر ہو کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے، اور خدا نے کافروں کو غم اور پریشانی کی حالت میں بغیر کوئی فائدہ اٹھائے واپس لٹا دیا۔

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (سورۃ الاحزاب: آیت ۲۵)

خدا نے جنگ کو مؤمنین سے امیر المؤمنین کے وسیلے، قدرت اور ہمت کے ذریعے نال دیا اور ایسا معجزہ دکھلایا جس سے تمام عاجز تھے خدا نے ان کی حیرت انگیز فضیلت سے پردہ اٹھا دیا کہ سترہ قدم مدینے سے چلنے کے بعد میدان جنگ میں پہنچا دیا اور یہ کہ پیغمبر اکرمؐ کی آواز کو اتنی دور سے سنا اور اس کا جواب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ اور دلیل ہے کہ آپ اس امت میں بے نظیر ہیں۔ (معدنہ المعاجز: ۲/۹ حدیث ۳۵۳)

### وہ شہید راہ خدا

(۸۸/۱۸۱) بحرانی تفسیر ”برہان“ میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں:  
 رسول خداؐ نے فرمایا: یا علیؑ! جو تجھے دوست رکھتا ہو اور تیری دوستی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید راہ خدا ہے۔ اور جو تجھے دوست رکھتا ہو اور ابھی اس کا وقت موت نہیں آیا لیکن وہ مختلر ہے۔ پس سورج طلوع اور غروب نہیں کرتا مگر یہ کہ اس پر رزق اور ایمان کا سایہ کرتا ہے۔ (تفسیر برہان: ۳/۳۰۳ حدیث ۷، الکافی: ۸/۳۰۶ حدیث ۴۷۵)

### سپہ سالار علیؑ

(۸۹/۱۸۲) تفسیر امام حسن عسکریؑ میں حضرت فرماتے ہیں:  
 رسول خداؐ نے ایک لشکر کو کسی سفر پر بھیجا، اس لشکر کا سپہ سالار علیؑ کو بنایا، اس لشکر سے دو آدمیوں ہنام حاطب اور بریدہ نے چالاکی کی اور آپ کو دھوکہ دے کر واپس لوٹ

آئے۔ جب واپس آئے تو علیؑ کے متعلق رسول خداؐ کے سامنے بد گوئی کرنے لگے، رسول خداؐ ان کی باتیں سن کر اس قدر حسمکین ہوئے کہ انہیں اس سے قبل اور بعد کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور پورا جسم لرزے میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: اے بریدہ! تمہارے نزدیک جو مقام و مرتبہ علیؑ کا ہے خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ علیؑ کی قدر و منزلت ہے۔ کیا میں تمہیں علیؑ کی قدر و منزلت کا ایک گوشہ بتاؤں۔ انہوں نے عرض کیا: جی یا رسول اللہ!

آپؐ نے فرمایا: خدا تعالیٰ قیامت کے دن ایک گروہ کو کھڑا کرے گا جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان سے کہا جائے گا، یہ تو تمہارے گناہ ہیں، تمہاری نیکیاں اور خوبیاں کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے۔ پروردگار! ہمارے پاس نیکیاں اور نہیں ہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ اگر تمہیں اپنی نیکیاں اور معلوم نہیں ہیں تو میں تمہاری نیکیوں کو جانتا ہوں اور میں ان کے مقابلے میں پوری پوری جزا دوں گا۔ اتنے میں ہوا ایک چھوٹا سا کاغذ اپنے ساتھ اڑا کر لائے گی اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گی، اس کے بعد نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ گناہ اس سے زیادہ ہوں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔

ان لوگوں میں سے ایک سے کہا جائے گا، اپنے ماں، باپ، بہن، بھائیوں، رشتے داروں اور دوستوں کا ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت میں لے جاؤ۔

اہل محشر کہیں گے: خدا وندا! ان لوگوں کے گناہ تو معلوم تھے اور ان کی وجہ سے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن ان کی نیکیوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو سکا جو تمام گناہوں پر بھاری ہو گئیں ہیں۔ اس وقت خدا تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندو! ان میں سے ایک شخص اپنا باقی ماندہ قرضہ اپنے مومن بھائی کے پاس لے کر گیا اور اس سے کہا: یہ پیسے مجھ سے لے لو۔ میں تجھے اس لئے دوست رکھتا ہوں کیونکہ تو امیر المؤمنینؑ کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ دوسرے نے اسے جواب دیا کہ میں نے یہ قرضہ تجھے معاف کیا، اس لئے کہ تو امیر



المؤمنین کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ میرے مال میں جیسے چاہو تصرف کرو۔ خدا تبارک تعالیٰ ان دو آدمیوں کے اس عمل سے خوش ہوا، ان کی قدر دانی کی، ان کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا، اس عمل کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا اور بہشت کو ان کے لئے اور ان کے والدین کے لئے واجب قرار دے دیا۔

آپؐ نے فرمایا: اے بریدہ! وہ لوگ جو دشمنی علیؑ کی وجہ سے آتش دوزخ میں جائیں گے وہ ان سنگریزوں سے زیادہ ہیں جو رومی جرات کے وقت مارے جاتے ہیں۔ پس بچو، کہیں ان میں سے نہ ہو جانا۔

(تفسیر امام عسکریؑ: ۱۳۶/۷۰، بحار الانوار: ۶۶/۳۸، حدیث ۶، تفسیر برہان: ۳/۳۳۷ حدیث ۳)

## حیرت انگیز واقعات

(۹۰/۱۸۳) بحرانی کتاب تفسیر برہان میں امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں:

کہ آیہ شریفہ:

إِنْ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ (سورۃ الليل: آیت ۱۲)

کو آپؐ نے اس طرح پڑھا۔

إِنْ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَإِنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

یہ آپؐ نے اس وقت پڑھا جب آپؐ سے قرآن کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپؐ نے فرمایا: قرآن میں بڑی حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں جیسے:

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (سورہ احزاب: آیت ۲۵)

خدا نے جنگ میں علیؑ کے سبب مومنین کو فتح عطا کی، جیسے کہ خدا کا یہ فرمان ہے:

إِنْ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَإِنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

بے شک علیؑ سرچشمہ ہدایت ہے اور اسی کے لئے دنیا اور آخرت کی بادشاہی

ہے۔ (تفسیر برہان: ۳/۲۷۱ حدیث ۴، بحار الانوار: ۲۳/۳۹۸ حدیث ۱۲۲)

## یوسفؑ اور برادران یوسفؑ

(۹۱/۱۸۴) میں نے شیعہ علماء کی بعض مناقب کی معتبر کتابوں کے ٹکٹ اول میں دیکھا ہے کہ ابن جریر طبریؒ اپنی سند کے ساتھ پیغمبر اکرمؐ سے نقل کرتا ہے:

جب حضرت یوسفؑ کے بھائی حضرت یوسفؑ کو کنویں میں پھینک کہ واپس باپ کے پاس گئے تو حضرت یعقوبؑ نے ان سے یوسفؑ کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے ان کی بات کو نہ مانا اور انہیں جھوٹا کہا، وہ سب حضرت یعقوبؑ کے پاس سے نکل کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے ایک بھیڑیا تلاش کیا، اسے اپنے باپ کے پاس لے آئے۔ بھیڑیے نے اپنی زبان کھولی اور حضرت یعقوبؑ کو سلام کیا۔ حضرت یعقوبؑ نے اس سے پوچھا: تو نے میرے بیٹے کو کیوں کھایا ہے؟ اس نے عرض کیا: اے خدا کے پیغمبر! میں نے کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا ہے آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں اور ان کی اولاد کا گوشت وحشی جانوروں پر حرام ہے، حالانکہ میں تو اس علاقے سے نہیں ہوں۔ آج ہی اس طرف آیا ہوں۔

حضرت یعقوبؑ نے اس سے پوچھا: کہاں کا رہنے والا ہے اور ادھر آنے کی وجہ پوچھی؟ اس نے عرض کیا: میں مصر سے آیا ہوں اور اس علاقے سے گذر کر خراسان جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اپنے ایک بھائی سے جا کر ملوں۔ حضرت یعقوبؑ نے اس سے فرمایا: اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟

اس نے عرض کیا: میں آپ کے باپ حضرت نوحؑ کے ساتھ ان کی کشتی میں تھا۔ انہوں نے جبرائیل کے ذریعے سے خدا کے فرمان کی حکایت کی کہ جو کوئی خدا کے لئے اپنے بھائی کی زیارت کرے اور دکھلاوا کا ارادہ نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کے اس عمل پر ہر قدم کے عوض دس نیکیاں لکھے گا، دس گناہ معاف کرے گا اور دس درجات بلند کرے گا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے فرمایا: تم وحشی حیوانات جو خدا کی اطاعت

کرتے ہوتے ہیں اس پر جزا اور نافرمانی پر سزا نہیں دی جائے گی پھر تم یہ کیونکر کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا:

أَجْعَلُ ثَوَابَ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَصِيِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ لِشِبَعَةَ  
 ”میں اس عمل کا ثواب علی ابن ابی طالب، وصی سید المرسلین اور حضرت کے  
 شیعوں کے لئے بطور ہدیہ پیش کروں گا“

حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: بھیڑیا جو کہہ رہا ہے اسے سنو اور لکھ  
 لو۔ بھیڑیے نے کہا: ہم چوپائے پیغمبروں اور ان کے جانشینوں کے سوا کسی سے ہمکلام نہیں  
 ہوتے، پس حضرت یعقوبؑ نے خود اس کے ساتھ گفتگو فرمائی اور اپنے بیٹوں سے فرمایا تم  
 لکھتے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا: اس بھیڑیے کے لئے سفر میں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام  
 کرو۔ بھیڑیے نے کہا: میں نے کسی قسم کی کوئی چیز ساتھ نہیں لی، اور جو آپ دینا چاہتے ہیں  
 مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے اس سے فرمایا: تم ایسا کیوں کر رہے ہو اور  
 تیرا مقصد کیا ہے؟

اس نے کہا: مجھے خدا پر پکا یقین ہے کہ اس نے جسموں کو پیدا کیا ہے تو ان کے  
 لئے روزی کا انتظام ضرور کیا ہے وہ کسی بھی بدن کو روزی کے بغیر نہیں رہنے دے گا۔

(نوادر المحجرات: ۶۲: حدیث ۲۷)

مؤلف کہتے ہیں کہ اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو اس حدیث کے درمیان اور حدیث نمبر  
 ۳۰ کے درمیان تناقض پایا جاتا ہے کیونکہ اس حدیث میں بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ ہم وحشی جانور  
 پیغمبروں اور ان کے جانشینوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے جب کہ سابقہ حدیث میں  
 بھیڑیے نے چرواہے کے ساتھ گفتگو کی تھی۔

اس تضاد اور اختلاف کو دور کرنے کے لئے ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ چرواہے کے  
 ساتھ بھیڑیے کا گفتگو کرنا رسول خدا کے اعجاز اور ان کے حق ولایت کی وجہ سے ہے یہ بات  
 معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزیں حیوانات تو کیا جمادات سے بھی رونما ہوتی ہیں۔ جبکہ



حیوانات میں تو بدرجہ اولیٰ ہو سکتی ہیں۔

اور یہ کہ اس کا غیر پیغمبر اور وحی پیغمبر کے ساتھ بات نہ کرنا اس لئے تھا کہ اسے خدا کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ خدا کی اجازت کے بغیر یا پیغمبر کے معجزے کے بغیر اس کا کلام کرنا ممکن نہیں ہے۔

## آسمان پر گفتگو

(۹۲/۱۸۵) صفارؒ نے کتاب ”بصائر الدرجات“ میں امام صادقؑ سے روایت نقل کی ہے:

رسول خداؐ نے فرمایا: جب خدا مجھے آسمان پر لے گیا تو میرے ساتھ کلام کی۔ اس کلام میں سے کچھ یہ ہے کہ یا محمدؐ، علیؑ الاول و علیؑ الاخر والظاہر والباطن و ہوبکل شئی علیم۔ ”اے محمدؐ، علیؑ اول و آخر ہے۔ وہ ظاہر و باطن ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

میں نے عرض کیا: خداوند! کیا یہ تیرے اوصاف نہیں ہیں؟ اس وقت خدا نے اپنی توصیف کرنے کے بعد ان جملات کی میرے لئے تفسیر کی اور فرمایا:

علیؑ اول ہے کا مطلب یہ ہے کہ اماموں میں سے سب سے پہلے جس سے میں نے بیٹھا لیا وہ علیؑ ہے اور علیؑ آخر ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری ہے جس کی میں روح قبض کروں گا اور ایسی جان کا مالک ہے جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔

اے محمدؐ، علیؑ ظاہر ہے یعنی ہر وہ چیز جس کی تجھے وحی کی ہے وہ اس کے لئے ظاہر کر دی ہے۔ اے محمدؐ، علیؑ باطن ہے یعنی جس راز کے آپ امین ہیں اس سے میں نے علیؑ کو بھی باخبر کر دیا ہے اور وہ اپنے اندر اسے رکھتا ہے۔ پس تیرے اور میرے درمیان ایسا کوئی راز نہیں ہے جسے علیؑ نہ جانتے ہوں۔ اے محمدؐ، امین نے جو کچھ بھی حلال و حرام پیدا کیا ہے علیؑ اس کو جانتے ہیں۔ (بصائر الدرجات: ۵۱۴ حدیث ۳۶، بحار الانوار: ۱۸/۳۷۷ حدیث ۸۲ اور ۳۸/۴۰ حدیث ۷۳)

## خیبر کے دن علیؑ

(۹۳/۱۸۶) اسی کتاب میں ابورافع سے نقل کیا ہے کہ:

جب رسول خدا نے خیبر کے دن علیؑ کو بلایا ، اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر ملا اور ان سے فرمایا : جب تم قلع کو فتح کرلو، تو لوگوں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ کیونکہ خدا نے مجھے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ ابورافع کہتا ہے: علیؑ قلع کی طرف چلے، میں ان کے ہمراہ تھا۔ صبح کے وقت قلعہ خیبر کو کھولا اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ ان کا ٹھہرنا ذرا طول پکڑ گیا۔ لوگوں نے کہا: علیؑ خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپؐ نے حکم دیا کہ جو شہر فتح کیا ہے اسے اپنا شہر بنا لو اور اس میں تصرف کرو، ابورافع کہتا میں رسولؐ خدا کے پاس حاضر ہوا، سارا واقعہ حضرت کے سامنے بیان کیا۔ عرض کیا کہ جیسے آپؐ نے حکم فرمایا تھا ویسے ہی علیؑ کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ خدا علیؑ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

نعم یا ابا رافع ان الله ناجاه يوم الطائف ويوم عقبة تبوك ويوم حنين  
 ”ہاں! اے ابورافع! خدا نے قلع طائف کے فتح ہونے، جنگ تبوک اور جنگ حنین کے دنوں علیؑ سے کلام فرمائی“

(بصائر الدرجات: ۳۱۱ حدیث ۵، بحار الانوار: ۳۹/۱۵۳ حدیث ۱۱، غایۃ المرام: ۵۲۷ حدیث ۱۱، الاختصاص: ۳۲۲)

## اہل طائف

(۹۴/۱۸۷) اسی کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول خداؐ نے اہل طائف سے فرمایا:

لا بعثن اليكم رجلا كنفسى يفتح الله به الخير  
 ”میں تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیجوں گا جو میری جان کی طرح ہوگا اور خدا اس کے ہاتھ پر قلع خیبر کو فتح کرے گا“

جب صبح ہوئی تو علیؑ کو بلایا، اور ان سے فرمایا: طائف کی طرف جاؤ، جب علیؑ طائف میں داخل ہو گئے تو حکم فرمایا تم سب بھی اس کی طرف جاؤ، جب وہاں پہنچے تو علیؑ کو ایک سفید

پہاڑ پر دیکھا۔ رسول خدا نے ان سے فرمایا کہ اسی جگہ رہو، اور وہ اسی جگہ ٹھہرے رہے۔  
 راوی کہتا ہے: میں نے بادلوں کے گرجنے جیسی ایک آواز سنی تو رسول خدا سے  
 سوال کیا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا:

ان الله عز وجل ينادي عليا عليه السلام  
 ”خداوند تبارک و تعالیٰ نے علیؑ سے گفتگو کی ہے“

## علیؑ کا یہودی دوست

(۹۵/۱۸۸) محمد بن جعفر قرشی نے اپنی کتاب میں جابر بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے:  
 امیر المومنینؑ کا ایک یہودی دوست تھا جو آپ کے ساتھ بڑا مانوس تھا۔ حضرت کا  
 جو بھی کام ہوتا اسے انجام دیتا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چل بسا۔ علیؑ اس کی خاطر بڑا  
 غمگین ہوا۔ اس کی وجہ سے بڑے خوف زدہ ہوئے۔ پیغمبر اکرمؐ نے مسکراتے ہوئے علیؑ کو  
 دیکھا اور فرمایا: یا ابا الحسن! تیرے اس یہودی دوست کے ساتھ کیا ہوا؟  
 علیؑ نے عرض کیا: وہ مر گیا ہے اور اس دنیا سے چلا گیا ہے۔  
 حضورؐ نے فرمایا: اس کی خاطر غمگین اور خوفزدہ ہو؟  
 عرض کیا: ہاں! یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا: کیا اسے دیکھنا چاہتے ہو؟  
 عرض کیا: جی ہاں! میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں۔  
 آپؐ نے فرمایا: اپنا سراپر کرو اور دیکھو۔ جب سراپر کیا تو چوتھے آسمان تک ان  
 کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھ گئے اور وہاں ایک سبز رنگ کا گنبد دیکھا، جو قدرت  
 خدا کے ساتھ بغیر کسی چیز کے لٹکا ہوا تھا۔ آپؐ نے فرمایا:

يا ابا الحسن هذا المن يحبك من اهل الذمة واليهود والنصارى

والمجوس وشيعتك المومنون معي ومعك غذا في الجنة

”اے ابا الحسن! یہ ان کا ٹھکانا ہے جو کفار زمی، یہود، نصاریٰ اور مجوسیوں میں



سے تیرے ساتھ محبت رکھتے ہوں گے، لیکن تیرے شیعہ مؤمن قیامت کے دن میرے اور تیرے ساتھ بہشت میں ہوں گے“ (مناقب ابن شہر آشوب: ۲۰۰/۳)

مؤلف کہتے ہیں: یہ مرتبہ اور مقام امیر المومنین کے غیر مسلم دوستوں کے لئے بعید نہ سمجھو، کیونکہ بادشاہ نو شیروان عادل کافر تھا، لیکن عادل تھا یا حاتم طائی ہے۔ جو سخاوت کے اعتبار سے مشہور تھا۔ اگرچہ کافر ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ لیکن وہاں پر معذب نہ ہوں گے۔ اور واضح ہے کہ آئمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت اور محبت ان صفات سے کہیں زیادہ صاحب عظمت مقام ہے۔ لہذا جوان حضرت کی محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے ان کا مقام اور مرتبہ ایسے صفات والے لوگوں سے زیادہ اور بڑا ہوگا۔

### یہ تمہارے لیے ہے

(۹۶/۱۸۹) مجلسیؒ نے کتاب ”بحار الانوار“ میں کامل بن ابراہیم سے نقل کیا ہے۔

قبل اس کے کہ امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں حاضر ہوتا، میں نے اپنے آپ سے کہا: میں امام سے سوال کروں کہ کیا ایسے نہیں ہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جس کا عقیدہ میرے عقیدے جیسا ہوگا؟

جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے نرم اور سفید رنگ کا لطیف لباس پہن رکھا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ولی خدا اور جنت پروردگار خود ایسا لباس پہنے ہوئے ہے اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس طرح کا لباس نہ پہنا کریں امام عسکریؑ نے مسکراتے ہوئے اپنی آستین مبارک کو اوپر کیا اور اسے دیکھایا کہ اس کے نیچے اون کا سیاہ رنگ لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور فرماتے ہیں:

هذا لله وهذا لكم

”یہ خدا کے لئے ہے اور یہ جو تو نے دیکھا ہے یہ تمہارے لئے ہے“

پھر میں نے آنحضرتؐ پر سلام کیا اور اس دروازے کے پاس بیٹھ گیا جس پر پردہ

لٹکا ہوا تھا۔ جب ہوا چلی تو پردہ ایک طرف ہو گیا۔ میں نے چاند کے ٹکڑے کی مانند ایک بچہ دیکھا جس کا سن تقریباً چار سال کے قریب ہوگا۔ اس نے مجھے فرمایا: اے کامل بن ابراہیم ولی خدا حجت پروردگار اور رحمت کے دروازے کے پاس آئے ہوتا کہ ان سے سوال کرے کہ کیا جن کی معرفت اور عقیدہ تیری طرح ہے ان کے سوا کوئی اور جنت میں جائے گا؟ میں نے عرض کیا: ہاں خدا کی قسم میرا یہی مقصود تھا۔ حضرت نے فرمایا: اگر ایسا ہو تو بہت کم لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ خدا کی قسم بہشت میں ایسا گروہ بھی داخل ہوگا جن کو حقیقہ کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے آقا! یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا:

قوم من حبیہم لعلی علیہ السلام یحلفون بحقہ ولا یلرون ماحقہ وفضلہ  
 ”یہ وہ اشخاص ہیں جو حب علیؑ کی وجہ سے علیؑ کے حق کی قسم کھاتے ہیں  
 جب کہ آپ کے حق اور فضائل میں سے کچھ بھی نہیں جانتے۔“

تھوڑی دیر کے لئے سکوت کیا اور فرمایا: تو اس لئے آیا ہے تاکہ مفوضہ کے بارے میں پوچھے۔ وہ جھوٹے ہیں جبکہ ہمارے دل مشیت الہی سے منسلک ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔

اور خدا فرماتا ہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (سورہ دہر: آیت ۳۰)

”وہ نہیں چاہتے مگر وہ جو خدا چاہتا ہے۔“

کامل کہتا ہے پھر پردہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ گیا اور میں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن اسے پیچھے نہ کر سکا۔ پھر امام عسکریؑ نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا: اے کامل! اب کیوں بیٹھا ہے، کیا میرے بعد حجت نے تیرے سوالات کے جوابات دے دیے؟ کامل کہتا ہے میں اٹھا اور امامؑ کے گھر سے باہر آ گیا۔ اس واقعہ کے بعد ان کو میں دوبارہ نہیں دیکھ سکا۔

ابو فہیم کہتا ہے: میں نے کامل سے ملاقات کی، اور اس سے اس حدیث کے بارے

میں سوال کیا تو اس نے میرے لئے اسی طرح ہی نقل کی۔

(غیبہ طوسی: ۱۵۹، بحار الانوار: ۲۵/۳۳۶ حدیث ۱۶ اور ۵۰/۵۲ حدیث ۳۵ اور ۲۵۳/۵۰ حدیث ۷)

## آواز آئے گی

(۹۷/۱۹۰) امام حسن عسکریؑ اپنی تفسیر میں رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں:

اے ابا الحسن! خداوند تعالیٰ نے تیرے عمل کی وجہ سے جو تو نے انجام دیا ہے تجھے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا:

ابن محبوب علی بن ابی طالب علیہ السلام؟

”علی ابن ابی طالب کے محب کہاں ہیں؟“

اس وقت صالح اور نیک لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ میدان محشر میں سے جس کا بھی تم چاہو ہاتھ پکڑو کہ اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جس شخص کو شفاعت کا اختیار دوسروں سے کمتر ہوگا وہ دس لاکھ افراد کو نجات دے گا۔

(تفسیر امام عسکریؑ: ۱۱۰، بحار الانوار: ۳۲/۲۸ حدیث ۸)

## علیؑ کے شیعہ پھر جنت میں

(۹۸/۱۹۱) محمد بن یعقوب کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا اور خدا اپنی تمام اول تا آخر مخلوق کو حساب و کتاب کے لئے جمع کریگا اور اس وقت رسول خدا اور امیر المؤمنینؑ کو بلائے گا۔ رسول خدا کو سبز رنگ کی ایسی پوشاک پہنائی جائے گی جو مشرق و مغرب کے درمیان تمام عالم کو روشن کر دے گی۔ علیؑ کو بھی ایسی ہی پوشاک پہنائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور خوبصورت رنگوں کی رسول خدا کو پوشاک پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان تمام چیزیں روشن ہو جائیں گی اور



علیؑ کو بھی ایسی ہی پوشاک پہنائی جائے گی۔

پھر ہمیں بلایا جائے گا اور لوگوں کا حساب و کتاب ہمارے سپرد کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم ہم اہل بہشت کو بہشت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کریں گے، اس کے بعد پیغمبروں کو بلایا جائے گا وہ تمام کے تمام دُفعوں میں عرش الہی کے پاس کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ تمام مخلوق کے حساب سے ہم فارغ ہو جائیں گے، جب اہل بہشت بہشت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو خداوند عالم علیؑ کو حکم فرمائے گا کہ اہل بہشت کو ان کے مراتب کے مطابق بہشت میں جگہ دیں اور حوران بہشتی کا ان کے ساتھ نکاح کریں۔ خدا کی قسم جو اہل بہشت کے لئے جو ان کی شادی اور نکاح کا پروگرام دے گا اور ان کا عقد نکاح پڑھے گا وہ علیؑ ہے، ان کے علاوہ یہ منصب کسی کو حاصل نہیں یہ خدا کی طرف سے ان پر خصوصی انعام و اکرام اور فضیلت و برتری ہے جو ان کو خدا نے عنایت فرمائی ہے۔

خدا کی قسم! علیؑ وہ شخص ہے جو اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور علیؑ وہ ہے جب اہل بہشت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے دروازے بند کرے گا اور جب اہل دوزخ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے دروازے بند کرے گا۔

فَإِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ إِلَيْهِ وَأَبْوَابُ النَّارِ إِلَيْهِ

”بے شک جنت اور جہنم کے دروازوں کا اختیار اسی (علیؑ) کو دیا گیا ہے“

(الکافی: ۸/۱۵۹ حدیث ۱۵۳، الوافی: ۵/۵۲۶ حدیث ۱۹، تفسیر برہان: ۳/۳۵۵ حدیث ۱)

### چوکور پرندہ

(۹۹/۱۹۲) سید ابن طاووسؒ ”کتاب الیقین“ میں اہل سنت کی طرف سے ایک روایت نقل کرتے ہیں:

امیر المومنین مکہ میں کوہ صفا پر چل رہے تھے کہ اچانک ایک پرندہ دیکھا جو چوکور پرندے کی مثل تھا اور زمین پر چل رہا تھا۔ جب وہ پرندہ امیر المومنینؑ کے سامنے آیا تو

حضرت علیؑ نے اسے سلام کیا۔ پرندے نے عرض کیا: آپ پر سلام اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں یا امیر المؤمنین۔ حضرت نے فرمایا: اے پرندے! تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! مجھے چار سوسال ہو چکے ہیں کہ میں اس جگہ خدا کی تسبیح کرتا ہوں کہ اس کی تقدیس و تمجید میں مشغول رہتا ہوں اور اس کی بطور کامل عبادت کرتا ہوں۔

امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: اے پرندے! صفا ایک ایسی سر زمین ہے جس پر نہ تو کوئی کھانے کے لئے چیز ملتی ہے اور نہ ہی پینے کو، تو یہ چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا:

وَقَرَأْتُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُلَّمَا جَعْتُ دَعْوَتُ  
اللَّهُ لِيُشْفِعَكَ وَمُحِبِّكَ فَاشْتَبَعُ وَإِذَا ضَمَمْتُ دَعْوَتُ اللَّهِ عَلَى  
مُبِغْضِكَ وَغَاصِبِكَ فَارَوَى

”آپ کی رسولؐ خدا کے ساتھ قربانداری کی قسم! جب مجھے بھوک لگتی ہے، میں خدا سے آپ کے شیعوں اور دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں تو میں سیر ہو جاتا ہوں اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آپ کے دشمنوں اور آپ کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت کرتا ہوں تو سیراب ہو جاتا ہوں“

(البحرین: ۴۲، ۹۲، الفہائل: ۱۶۲، الروضة: ۳۶، بحار الانوار: ۲۱/۲۳۵ حدیث ۶)

## جہنم کے کنارے

(۱۰۰/۱۹۳) شیخ طوسی کتاب ”امالی“ میں امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں:

رسول خداؐ نے فرمایا: یا علیؑ! تو اس وقت کیا محسوس کرے گا جب جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوگا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ ہل صراط سے گزرو۔ اور تو جہنم سے کہے گا یہ تیرے لئے اور یہ میرے لئے یعنی ایک گروہ کو جہنم کے حوالے کرے گا اور ایک گروہ کو جہنم سے نجات دے گا؟ علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ جو سلامتی کے ساتھ عبور کریں گے وہ کون ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا:

أُولَئِكَ شِيعَتُكَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ

”وہ تیرے شیعہ ہوں گے جہاں تو ہوگا وہ تیرے ساتھ ہوں گے“

(امالی طوسی: ۹۴ حدیث ۵۵، مجلس ۳، بحار الانوار: ۳۹/۱۹۷ حدیث ۸)

ایک شاعر نے کتنے اچھے اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

”اے علی! تیری دوستی اور ولایت میرے لئے امان ہے۔ اس وقت جب جہنم لوگوں پر اپنے شعلے بھڑکائے گی۔

وہ بندہ جہنم سے کیونکر خوف کھائے گا جو تیری دوستی رکھتا ہوگا۔ کیونکہ تو اس کو تقسیم کرنے والا ہے۔“

## وہ ابھی ارواح تھے

(۱۰۱/۱۹۴) شیخ صدوقؒ امام صادقؑ سے آپ کے آباؤ اجداد کے ذریعے سے نقل کرتے ہیں:

رسول خداؐ نے علیؑ سے فرمایا: یا علی! عالم ذر میں مجھے میری امت دکھائی گئی اور میں نے سب کو دیکھا، جب کہ وہ ابھی ارواح تھے اور ان کے جسم ابھی تک پیدا نہ کئے گئے تھے۔ اس وقت میں تیرے اور تیرے شیعوں کے قریب سے گذرا تو میں نے تمہارے لئے مغفرت طلب کی۔

علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے شیعوں کے متعلق کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا: یا علی! تو اور تیرے شیعہ قبروں سے ایسے نکلیں گے کہ تمہارے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، تمام سختیاں تم سے دور ہوں گی، ہر قسم کی پریشانی اور غم ختم ہوں گے، عرش الہی تم پر سایہ کرے گا۔ دوسرے لوگ ڈریں گے اور تمہیں اس وقت کوئی ڈرنہ ہوگا۔ وہ غمناک ہوں گے اور تمہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ تمہارے لئے دسترخوان لگایا جائے گا، جب کہ دوسرے لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے۔

(فضائل الشیخ: ۶۸ حدیث ۲۷، بحار الانوار: ۷/۱۸۰ حدیث ۲۰، بصائر الدرجات: ۸۴ حدیث ۵)



## وہ اسرافیل ہے

(۱۰۲/۱۹۵) اہل سنت کے عالم دین خوارزمی کتاب مناقب میں ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں:  
 رسول خداؐ نے فرمایا: اہل آسمان میں سے سب سے پہلے جس نے علیؑ کو اپنا بھائی  
 بنایا وہ اسرافیل ہے۔ اس کے بعد میکائیل اور جبرائیل تھے۔ اہل آسمان میں سے سب سے  
 پہلے جس نے علیؑ کی محبت پر فخر کیا وہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ ان کے بعد  
 رضوان نے فخر کیا جو خزانہ دار بہشت ہے اور اس کے بعد روح قبض کرنے والا فرشتہ اسرافیل  
 ہے جس نے دوستی علیؑ پر فخر کیا۔

وان ملک الموت یترحم علی محبیبی علی بن ابی طالب علیہا  
 السلام کما یترحم علی الانبیاءؑ

”بے شک ملک الموت علیؑ ابن ابی طالبؑ کے دوستوں پر ایسے رحم کرے گا  
 جیسے انبیاءؑ پر رحم کرے گا“

(مناقب خوارزمی: ۲۰ حدیث ۳۹، مناقب ابن شہر آشوب: ۳۲/۲، مناقب المودۃ: ۱۳۳، کشف الغمۃ: ۱۰۳/۱، غایۃ  
 المرام: ۵۸۰ حدیث ۲۶)

## اور اسے جن لیا ہے

(۱۰۳/۱۹۶) امام حسن عسکریؑ رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:  
 اے خدا کے بندو! تم پر اس کی خدمت کرنا لازمی ہے جسے خدا نے معتبر کیا ہے اور  
 عزت کی ہے، اس طرح کہ اسے اپنی مخلوق کے درمیان سے پسند کیا اور اسے جن لیا ہے۔  
 اسے انبیاء کے سردار محمدؐ کے بعد اہل آسمان اور زمین میں سب سے بہترین بنایا ہے اور تم پر  
 ضروری ہے کہ آنحضرت یعنی علیؑ ابن ابی طالبؑ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرو اور ان کے  
 دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرو۔

آپؐ نے اپنی کلام کو جاری رکھا یہاں تک کہ یہ فرمایا: قیامت کے دن اس (علیؑ)

کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کو لایا جائے گا، جس کے گناہوں کے پلڑے میں خدا نے اتنے بڑے گناہ رکھے ہوں گے جو مضبوط پہاڑوں سے تلاطم خیز سمندر اور بھی سخت ہوں گے، لوگ جب اس منظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بندہ ہلاک ہو گیا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ تباہ ہوگا اور ہمیشہ کے لئے عذاب الہی میں رہے گا۔ اس وقت بارگاہ ایزدی سے ایک ندا آئے گی: اے خطا کار بندے! یہ وہ گناہ ہیں جنہوں نے تجھے ہلاک کر دیا ہے۔ کیا ان گناہوں کے مقابلے میں کوئی نیکی تیرے پاس ہے جس کی وجہ سے تجھے اچھی جزا دوں اور اپنی رحمت کے صدقے تجھے بہشت میں داخل کروں؟ وہ بندہ خدا سر نیچے کئے ہوئے کہے گا میرے خدا میں نہیں جانتا ہوں دوبارہ خدا کا منادی ندا دے گا کہ خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے اس وسیع و عریض میدان میں آواز دو اور کہو میں فلاں ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں شہر کا رہنے والا ہوں اور میں ایسے گناہ کر چکا ہوں جو پہاڑوں اور سمندروں سے سنگین تر ہیں۔ ان کے مقابلے میں میری کوئی نیکی اور اچھا کام نہیں ہے۔ اس میدان محشر میں کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے ساتھ میں نے کوئی احسان کیا ہو، یا اسے کوئی چیز بخشی ہو کہ جس کی وجہ سے اب وہ میری مدد کرے، کیونکہ اس وقت مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ خدا کے حکم کے مطابق ایسی آواز دے گا۔ سب سے پہلے اس شخص کی آواز پر جو جواب دے گا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے اور وہ فرمائیں گے:

لیک لیک ایہا الممتحن فی محبتی المظلوم بعداوتی

”لیک، لیک! اے وہ جس کا میری محبت اور روتی میں امتحان کیا گیا اور

میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے میرے دشمنوں کا دشمن ہوا“

پھر امام ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ اگرچہ ان کی تعداد اس شخص کو چاہنے والوں کی تعداد سے کمتر ہوگی۔ اس کے بعد وہ گروہ جو علی کے ساتھ آیا ہوگا، حضرت سے عرض کرے گا کہ ہم اس شخص کے ایمانی بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ نیکی کرتا تھا ہماری عزت و احترام بجا لاتا تھا اور ہمارے ساتھ اس کی برخورد باوجودیکہ ہمارے ساتھ

احسان کرتا اور ہمیں عطیات دیتا بڑی عجز و انکساری کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہم اپنی تمام اطاعتیں اور عبادتیں اسے دیتے ہیں۔ علیٰ کہیں گے، پس تم لوگ خود کیسے اور کس عمل کے ساتھ بہشت میں جاؤ گے؟ وہ عرض کریں گے: ہم اس رحمت خداوندی کے سبب جنت میں جائیں گے جو ہر اس شخص کے شامل حال ہوگی جو آپ کو دوست رکھتا ہوگا۔ دوبارہ بارگاہ ایزدی سے ندا آئے گی کہ اے رسول خدا کے بھائی! یہ اس شخص کے ایمانی بھائی تھے اور انہوں نے اسے یہ کچھ بخش دیا ہے، آپ اس پر کونسا احسان کریں گے؟ میں جو اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان حکم کرنے والا ہوں اس کے تمام کے تمام گناہ تیرے ساتھ محبت کے سبب میں نے بخش دیئے ہیں لیکن وہ گناہ جو اس کے اور میرے بندوں کے درمیان واقع ہوئے ہیں نیز اس نے جو ان پر ظلم کیا اور ان سے جو قرضہ لیا ہے، اس کا تو حساب اس سے لیا جائے گا اور اس کا محاسبہ ہوگا جب تک اس کی ان گناہوں سے جان نہ چھوٹے، نجات نہیں پاسکتا۔ علیٰ کہیں گے خدا وندا تو جو حکم فرمائے گا میں وہی انجام دوں گا۔

خدا تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو اس شخص کے خلاف مدعی ہیں اور جن کا اس کے ساتھ جھگڑا ہے، تو ان کی ضمانت لے اور ان پر جو ظلم ہوا ہے اسے پورا کر۔ علیٰ ایسا ہی کریں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ اس شخص کی طرف سے تم پر جو ظلم ہوا ہے اس کے بدلے میں ثواب مجھ سے لے لو اور اسے معاف کر دو۔ وہ کہیں گے: اے رسول خدا کے بھائی! ہم آپ سے صرف اس ایک سانس کا ثواب مانگتے ہیں جو آپ نے شب ہجرت بستر رسول خدا پر سوتے ہوئے لیا۔

امیر المؤمنینؑ اس کو قبول کر لیں گے۔ اور اس رات میں لئے ہوئے ایک سانس کا ثواب انہیں بخش دیں گے۔ اس وقت خدا تبارک و تعالیٰ علیٰ کی بات ماننے والوں سے فرمائے گا: اے میرے بندو! اب ان مقامات کی طرف دیکھو جو تمہیں علیٰ کی طرف سے تم پر کئے گئے ظلم کے بدلے میں عطا کئے گئے ہیں۔ اور ان کو جنتی محلات دیکھائیں گے۔ جب وہ ایسے مراتب اور منازل کا نظارہ کریں گے جو نہ تو ان کی آنکھ نے کبھی دیکھے ہوں گے نہ کان نے ان کے



اوصاف سنے ہوں گے اور نہ دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہوگا تو عرض کریں گے: اے خدا! اتنا کچھ ہمیں عطا کرنے کے بعد کیا تیری جنت میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ باقی مومن بندے، صدیقین، شہداء اور صالحین کہاں داخل ہوں گے؟ شاید وہ خیال کریں گے کہ تمام کی تمام جنت تو ان کے اختیار میں دے دی ہے۔ پھر خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندو! جو تم نے دیکھا ہے یہ علیؑ کی سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب ہے، جو تمہیں سوال کرنے پر بخش دیا ہے اب اس کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جاؤ اور اسے اپنے تصرف میں لے آؤ۔ پھر وہ ممالک دیکھیں گے جو خدا نے علیؑ کے لئے اضافہ کئے ہیں۔ اور یہ بہشتی ملکیتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جو خدا کی راہ میں لوگوں کو عطا کی ہیں اس کا اندازہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

پھر رسول خداؐ نے فرمایا:

اَذْلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا مَّ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ (سورہ صافات: آیت ۶۲)

”کیا یہ مقام عالی بہتر ہے یا وہ شجرہ زقوم جو میرے بھائی اور جانشین علیؑ ابن ابی طالبؑ کے لئے تیار کیا گیا ہے“

(تفسیر امام عسکریؑ: ۱۲۷، بحار الانوار: ۵۹/۸، حدیث ۸۲، تاویل الآیات: ۱/۹۰، حدیث ۷۸)

## علیؑ کی محبت جنت کی کنجی ہے

(۱۰۴/۱۹۷) محمد بن حسن صفار کتاب ”بصائر“ میں اور شیخ طوسی کتاب ”امالی“ میں حذیفہؓ سے نقل کرتے ہیں:

میں نے رسول خداؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی مرد یا عورت مر جائے اور اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی علیؑ کی محبت ہو تو خداوند تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (امالی طوسی: ۳۳۰، حدیث ۱۰۷، مجلس ۱۱، بحار الانوار: ۳۹/۲۳۶، حدیث ۲)

## انوکھا درخت

(۱۰۵/۱۹۸) برسیؑ نے رسول خداؐ سے نقل کیا ہے:

حَبَّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ شَجَرَةً أَصْلُهَا فِي الْجَنَّةِ وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا  
فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهَا جَرَّةً إِلَى الْجَنَّةِ

”علیٰ ابن ابی طالب کی محبت اس درخت کی مثل ہے، جس کی جڑیں جنت میں اور شاخیں دنیا میں ہیں۔ جو کوئی بھی اس کی شاخوں کے ساتھ لٹک گیا اسے وہ جنت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے“

آپ نے اور روایت میں فرمایا ہے:

إِنَّ حُبَّ عَلِيٍّ سَيِّدُ الْأَعْمَالِ

”بے شک علیٰ کی محبت اعمال کی سردار ہے“

(فضائل ابن شاذان: ۱۳۸، ۵، الروضة الفضاہ: ۲۷، بحار الانوار: ۳۶/۳۰، حدیث ۸۳، مناقب خوارزمی: ۳۳۳)

## بلکہ موسیٰ سے بھی پہلے

(۱۰۶/۱۹۹) ابن شاذان نے کتاب ”روضۃ الفضاہ“ میں ابن عباس سے نقل کیا ہے:

علیٰ ابن ابی طالب رسول خدا کے پاس آئے۔ اور عرض کیا کہ امیر المومنین آئے ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: بے شک علیٰ نے مجھ سے پہلے امیر المومنین کا نام حاصل کر لیا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا: آپ سے پہلے یا رسول اللہ؟

آپؐ نے فرمایا: بلکہ عیسیٰؑ اور موسیٰؑ سے بھی پہلے۔ اصحاب نے عرض کیا: عیسیٰؑ اور موسیٰؑ سے پہلے یا رسول اللہؐ؟ آپؐ نے فرمایا: سلمان بن داؤدؑ سے بھی پہلے۔ حضرت آدمؑ تک تمام پیغمبروں کا نام لیا۔ اور پھر فرمایا: خدا نے جب آدمؑ کی مٹی کو گوندھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے بڑا سا مروارید لٹکایا جو خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا تھا۔ خدا نے مروارید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں تیرے اندر ایک ایسے مرد کو ٹھہراؤں گا جسے تمام مومنین کا امیر قرار دوں گا، اور جب علیؑ کو پیدا کیا تو اس مروارید میں آپ کو قرار دیا۔ پس علیؑ کو آدمؑ کی خلقت سے پہلے امیر المومنین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ (فضائل ابن شاذان: ۱۰۳، الروضۃ: ۵۱،

بحار الانوار: ۳۳۷/۳۷ حدیث ۷۷۷ مدینۃ المعجز: ۱/۷۱ حدیث ۲۱، حلیۃ الاولیاء: ۱۳/۲ حدیث ۴۲، غایۃ المرام: ۲۹۰ حدیث (۳۱)

## علیٰ اور بتولؑ کا نکاح

(۱۰۷/۲۰۰) تاریخ بغداد میں اہل سنت کی طرف سے بلال بن حمامہ کی روایت نقل کرتے ہیں:

ایک دن پیغمبر اکرمؐ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابن عوف نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ کے چہرے کو بڑا خوش دیکھ رہے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: خدا کی طرف سے میرے چچا زاد بھائی علیؑ اور میری بیٹی فاطمہؑ کے متعلق خوش خبری آئی ہے کہ خدا نے علیؑ کا نکاح فاطمہؑ سے کر دیا ہے اور رضوان جو بہشت کا خزانہ دار ہے، اسے حکم فرمایا ہے کہ درخت طوبیٰ کو ہلائے، اور اس سے اہل بیتؑ کے دوستوں کی تعداد کے مطابق پتے اور کاغذ گرائے۔ اور درخت کے نیچے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کو سند عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا: جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ فرشتے لوگوں کے درمیان مہمان اہل بیتؑ کو صدا دیں گے اور جو ملے گا اسے وہ سند (جو آزادی دوزخ کی سند ہے) عطا کرتے جائیں گے۔

(تاریخ بغداد: ۲۱۰/۳ حدیث ۱۸۹۷، ماہ منقبتہ: ۱۶۶ منقبتہ: ۹۲، بحار الانوار: ۳۷/۲۷ حدیث ۹۶)

ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ سند شیعان علیؑ اور فاطمہؑ کے لیے آتش جہنم سے آزادی کی سند ہے جس پر خدا نے دستخط فرمائے ہیں۔

## گناہوں کا اقرار

(۱۰۸/۲۰۱) شاذان بن جبریل قتی نے کتاب فضائل میں عمار بن یاسر سے نقل کیا ہے:

امیر المؤمنینؑ قضاوت کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص بنام ”صفوان اکمل“ وہاں آیا اور اس نے عرض کیا: میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں اور گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہوں، مجھے ان گناہوں سے پاک فرمادیں تاکہ جب میں آخرت کی طرف جاؤں تو گناہ



میرے ساتھ نہ ہوں۔

امامؑ نے فرمایا: سب سے بڑا تیرا گناہ کونسا ہے؟ اس نے عرض کیا: میں بچوں کے ساتھ لواطہ کرتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کون سی چیز کو تو پسند کرے گا، کیا ذوالفقار کی ایک ضرب تجھے لگاؤں یا تجھ پر دیوار گراؤں، یا آگ میں ڈالوں۔ یہ اس کی سزا ہے جو اس طرح کا گناہ کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا: اے میرے آقا! مجھے آگ میں جلادیں تاکہ آخرت کی آگ سے نجات حاصل کر لوں۔ علیؑ نے عمار سے فرمایا: بانس کی لکڑی کے ایک ہزار گٹھے جمع کرو، تاکہ کل آگ جلا کر اس میں اسے پھینک دیں۔ اس کے بعد اس سے فرمایا جاؤ اگر کسی سے کچھ لینا یا دینا ہے تو اس بارے وصیت کر لو۔ وہ چلا گیا اور امامؑ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور جس کسی کا حق اس کی گردن پر تھا اسے واپس کر دیا۔ پھر امیر المومنینؑ کے حجرہ میں جو نوخ کے گھر میں مسجد کوفہ کی مشرق کی جانب ہے رات بسر کی۔ صبح جب امیر المومنینؑ نے نماز پڑھی تو عمار سے فرمایا: کوفہ کے لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ گھروں سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ کیسے علیؑ خدا کے حکم کو نافذ کرتا ہے۔ ایک گروہ کہنے لگا کس طرح علیؑ اپنے شیعوں میں سے ایک شخص کو آگ میں جلائے گا۔ اگر ایسے کرے گا تو یہ کام کرنے سے اس کی امامت باطل ہو جائے گی۔ یہ بات علیؑ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ عمار کہتا ہے: امامؑ نے اس شخص کو پکڑا اور بانس کی لکڑیوں کو اس کے اوپر ڈال دیا اور اسے آگ جلانے والا پتھر دے کر فرمایا: اے شخص! ان لکڑیوں کو آگ لگاؤ اور اپنے آپ کو جلاؤ۔ اگر تو میرے شیعوں اور دوستوں میں سے ہوگا، اور میری معرفت رکھتا ہوگا تو اس آگ میں نہیں جلے گا اور اگر میرے مخالفین میں سے ہوگا یا مجھے جھٹلانے والوں میں سے ہوگا تو یہ آگ تیرا گوشت کھا جائے گی اور تیری ہڈیوں کو خاکستر بنا دے گی۔

اس شخص نے آگ جلائی۔ بانس کی لکڑیوں کو آگ لگ گئی، لیکن وہ شخص آگ کے نیچے سالم رہا، یہاں تک کہ جو سفید قمیض اس نے پہن رکھی تھی وہ بھی میلی نہ ہوئی۔

امامؑ نے فرمایا: وہ جو صراطِ مستقیم سے منحرف ہو گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور غلط راہ

پر چل پڑے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں پھر آپ نے فرمایا:

إِنَّ شَيْعَتَنَا مِنَّا وَأَنَا قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ شَهِدَ لِي بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ  
فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ

”ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں اور میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا  
ہوں، رسول خدا نے میرے لیے اس بارے میں کئی مقامات پر گواہی دی ہے“

(فضائل ابن شاذان: ۷۴، بحار الانوار: ۳۲/۳۳، حدیث ۱۶، مسند المجاز: ۱/۲۵۸، حدیث ۱۶۵)

ایک شاعر نے خوب کہا ہے۔

علی	حبہ	جنة
قسیم	النار	والجنة
وصی	المصطفیٰ	حقا
امام	الانس	والجنة

”علی کی محبت ڈھال ہے وہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے انسانوں اور جنوں کے

آقا اور مولا ہیں۔“

علیؑ انوکھا سلطان ہے

(۱۰۹/۲۰۲) کتاب ”منج التحقيق الى سواء الطريق“ کے مؤلف، سلمان فارسی سے نقل کرتے

ہیں:

میں امام حسنؑ، امام حسینؑ، محمد بن حنفیہؑ، محمد بن ابوبکرؑ، عمار یا سر اور مقداد امیر المومنینؑ

کی خدمت میں موجود تھے، حضرت کے بیٹے امام حسنؑ نے آپ سے عرض کیا:

یا امیر المومنین! سلیمانؑ نے خدا سے ایک ایسی سلطنت مانگی ہے جو اس کے بعد کسی

کو نہ ملے۔ خدا نے اسے ایسی ہی سلطنت عطا فرمائی۔ آیا اس سلطنت اور بادشاہی میں آپ کا

بھی حصہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شکاف نہ کیا

اور مخلوق کو پیدا کیا۔ سلیمان بن داؤد نے خدا سے جیسی سلطنت کی درخواست کی خدا نے اسے ویسی عطا فرمائی۔ بے شک تیرے باپ کی حکومت اس چیز پر ہے کہ تیرے نانا رسول خدا کے سوا نہ کسی کو پہلے ملی ہے اور نہ ہی بعد میں ملے گی۔

امام حسنؑ نے عرض کیا: ہم چاہتے ہیں جو کرامات خدا نے آپ کو عطا کی ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے ہمیں دکھلائیں۔ امامؑ نے فرمایا: اگر خدا نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔

اس کے بعد آپ اٹھے، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر مغرب کی طرف اشارہ کیا، فوراً اس طرف سے ایک بادل ظاہر ہوا جو ہمارے سر کے اوپر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بادل ظاہر ہوا۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا: اے بادل! حکم خدا کے ساتھ نیچے آؤ۔ پس وہ بادل نیچے آیا اور کہہ رہا تھا۔

اشھد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک خلیفۃ ووصیہ

من شک فیک فقد ضل عن سبیل النجاة

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جانشین اور وصی ہیں۔ جس نے بھی آپ کے متعلق شک کیا تو وہ راہ نجات سے دور ہوا اور گمراہ ہو گیا“

امام حسنؑ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بادل زمین پر ایسے بچھ گیا جیسے کوئی دسترخوان والا کپڑا بچھا ہوتا ہے۔ امیر المومنینؑ نے وہاں موجود افراد کو فرمایا: اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، ہم سب اس پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور بادل کو اشارہ فرمایا، وہ بھی نیچے آیا اور اس نے بھی پہلے والے بادل کی طرح گواہی کے کلمات کہے، امیر المومنینؑ اکیلے اس بادل پر بیٹھ گئے، کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اور مغرب کی طرف جانے والے راستے کی طرف اشارہ فرمایا: اچانک ان بادلوں کے نیچے ہوا پیدا ہوئی جس نے انہیں بلند کر دیا۔ میں نے امیر المومنینؑ کی طرف دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ایک تخت پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے چہرے سے اتنا نور



چمک رہا ہے کہ اس کو دیکھنے کی آنکھ طاقت نہیں رکھتی۔

امام حسنؑ نے عرض کیا: سلیمانؑ بن داؤد کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جس کے ذریعے سے ہر چیز ان کے تابع تھی۔ آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز آپ کی اطاعت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

انا عین اللہ فی ارضہ انا لسانہ الناطق فی خلقہ انا نور اللہ الذی لا

یطفی انا باب الذی یوتی منه وحبثہ علی عبادہ

میں خدا کی زمین میں اس کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوں اور اس کی مخلوق کے درمیان اس کی بولتی ہوئی زبان ہوں۔ میں خدا کا وہ نور ہوں جو کبھی نہیں بجھتا، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے داخل ہونا چاہیے اور میں اس کے بندوں پر اس کی حجت ہوں۔

پھر فرمایا: ”کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں سلیمانؑ بن داؤد کی انگوٹھی پیش کر دوں؟“

ہم نے عرض کیا: ہاں جی امامؑ نے اپنا دست مبارک جیب میں ڈالا، اور ایک انگوٹھی نکالی جو سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جس میں سرخ یا قوت کا گنبد بڑا ہوا تھا۔ جس پر لکھا ہوا تھا ”محمدؐ و علیؑ“ سلیمان کہتے ہیں: ہمیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ امامؑ نے فرمایا: کس چیز سے تعجب کر رہے ہو؟ مجھ جیسے سے ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ آج میں تمہیں وہ چیزیں دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھی ہوں۔

آپ نے مزید فرمایا: کیا تم سلیمانؑ بن داؤد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: جی حضور، امامؑ اٹھے، اور ہم آپ کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ ہمیں ایک باغ میں لے گئے، ایسا باغ ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس باغ میں قسم قسم کے پھل اور انگور تھے۔ نہریں جاری تھیں۔ درختوں پر پرندے مچو گھنگو تھے۔ جب ان پرندوں نے حضرت کو دیکھا تو آپ کے ارد گرد چکر کاٹنے اور اپنے پر پھلانے لگے۔ یہاں تک کہ ہم باغ کے درمیان پہنچ گئے، ہم نے

ایک تخت دیکھا جس پر ایک جوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، امیر المومنینؑ نے اپنی جیب سے انگٹھی نکالی اور اس جوان (یعنی جو سلیمان بن داؤد تھے) کی انگلی میں ڈال دی، وہ جوان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور عرض کی:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَصِيَّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْتَ  
وَاللَّهُ الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ وَالْفَاوِقُ الْأَعْظَمُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكَ  
وَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْكَ وَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ بِكُمْ أَهْلَ  
الْبَيْتِ فَأَعْطَيْتَ ذَلِكَ الْمُلُوكَ

”اے مومنوں کے امیر اور اے پروردگار عالم کے رسول کے وصی! آپ پر سلام ہو، خدا کی قسم آپ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں۔ جس نے بھی آپ کا دامن پکڑا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے بھی آپ کا دامن چھوڑ دیا اور آپ سے روگردان ہو گیا وہ نقصان اور گھائے میں رہا۔ میں نے خدا سے آپ اہل بیت کا واسطہ دے کر سوال کیا تو خدا نے مجھے یہ سلطنت عطا فرمائی“

سلمان کہتا ہے: جب میں نے سلیمان بن داؤد کی کلام سنی تو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، امیر المومنینؑ کے قدموں پر گر گیا، قدموں کا بوسہ لیا اور خدا کا شکر ادا کیا، کہ اس نے مجھے پر لطف فرمایا اور مجھے ان اہل بیت کی ولایت کی طرف راہنمائی فرمائی جن سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا اور جن کے وجود مبارک کو ہر اعتبار سے پاک و منزہ پیدا کیا۔ (مدینہ المعاجز: ۱/۲۳۲ حدیث ۱۵۵)

مؤلف فرماتے ہیں: سید مہمۃ اللہ نے کتاب ”مجموع الرائق“ میں اس حدیث کو بطور مفصل نقل کیا ہے۔

امیر المومنینؑ نے ان کو یا جوج و ماجوج دکھائے۔ ان میں سے ہر ایک کا قد ایک سو بیس ذراع تھا اور کچھ کا ساٹھ ذراع۔ (ذراع کہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہوتی ہے) کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ ایک کان کو اپنے نیچے فرش بناتے تھے اور دوسرے کان

کولخاف کے طور پر اوپر اڑھتے تھے۔ اس دیوار کو دیکھا جو ان کے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس درخت کو ابھی دیکھا جس کے نیچے امیر المومنینؑ ہر روز صبح کے وقت دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس درخت نے ان کے ساتھ کلام کی کہ چالیس دن ہو چکے ہیں کہ حضرت صبح کے وقت نماز پڑھنے نہیں آئے۔ اس فرشتے کو بھی انہوں نے دیکھا جو رات کی تاریکی پر معین کیا گیا ہے جس کا ایک ہاتھ مغرب تک اور دوسرا مشرق تک پھیلا ہوا۔

مذکورہ کتاب میں ماوراء کوہ قاف کے متعلق امیر المومنین کے علم کے بارے میں حدیث ذکر ہوئی ہے۔ اور قوم عاد کے باقی ماندہ لوگ اور پھران کی ہلاکت کا منظر جو حضرت نے ان کو دکھلایا وہ بھی مذکور ہے۔ اس حدیث کے آخر میں علیؑ نے ان سے فرمایا: کیا اس سے جو تم نے دیکھا ہے حیران کن نہ دکھلاؤں؟ ہم نے عرض کیا: ہم میں سے کوئی بھی اس سے زیادہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔

(مدینۃ المعاجز: ۱/۵۳۹ حدیث ۳۵۱، مختصر: ۱/۷۱-۷۲، بحار الانوار: ۲۷/۳۳ حدیث ۵، نس الرضی: ۱۱۷-۱۱۹)

مؤلف فرماتے ہیں: سلمان جو ایمان کے دسویں حصے پر فائز ہے۔ وہ بلاؤں اور موت وغیرہ کو جانتا ہے، اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ جب امام صادق علیہ السلام کے پاس اس کا نام لیا جاتا تو آپ اس کے بارے میں فرماتے:

صلوات اللہ علی سلمان

خدا کی رحمت ہو سلمان پر۔

وہ ان تمام اوصاف کے باوجود طاقت نہ رکھتا تھا کہ حضرت کے فضائل اور مناقب کو برداشت اور تحمل کرے، ہم جو ذرہ سے بھی حقیر تر ہیں ہماری کیا مجال ہے کہ آپؑ کے فضائل اور مناقب کو برداشت کر سکیں۔

ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم معرفت کے ان گلیں کی تصدیق کریں اور انہیں قبول کر سکیں۔ ہم شیطانی دوسوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ ناشکری نہ کریں اور کفران نعمت سے بچے رہیں۔



## علیٰ اور صالحؑ نبی

(۱۱۰/۲۸۳) علیؑ کا مقام اور شخصیت صالحؑ نبی کی نسبت سلمان کی حدیث کے ذیل میں بیان ہوا ہے۔ پھر امیر المومنینؑ اٹھے اور ہم نے اچانک ایک جوان کو پہاڑ کے اوپر دیکھا جو دو قبروں کے درمیان کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا: یا امیر المومنین! یہ جوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ صالحؑ نبی ہیں اور یہ دو قبریں ان کے والد اور والدہ کی ہیں، وہ ان دو قبروں کے درمیان عبادت میں مشغول ہیں، صالحؑ نے جب علیؑ کو دیکھا تو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور رونے لگے۔ اور ہاتھ کے ساتھ امیر المومنینؑ کی طرف اشارہ کیا، پھر اس ہاتھ کو سینے پر رکھ کر گریہ کرنے لگے۔ امیر المومنینؑ ان کے پاس کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے ان سے کہا۔ گریہ کیوں کر رہے ہو؟ صالحؑ نے کہا:

ان امیر المومنین کان یمر بی عند کل غداۃ

”امیر المومنینؑ ہر روز صبح آتے تھے میرے پاس بیٹھتے تھے اور میں ان کو دیکھ کر زیادہ عبادت کرتا تھا چونکہ دس دن سے آپ نہیں آئے، اس وجہ سے میں مضطرب اور پریشان ہوں“

ہم صالحؑ کی یہ بات کوسن کر بڑے حیران ہوئے اور تعجب کیا

(مذکورہ مد رک)

## علیؑ پہاڑ پر سوار ہوئے

(۱۱۱/۲۰۴) شیخ مفید نے کتاب اختصاص میں امام باقرؑ سے نقل کیا ہے:

جب رسولؐ خدا غار حراء کی طرف گئے تو علیؑ ابن ابی طالبؑ آپ کے پیچھے پیچھے گئے کہ کہیں مشرکین دھوکے کے ساتھ آپ کو قتل نہ کر دیں، رسولؐ خدا حراء کے اوپر تھے اور علیؑ ان کے سامنے دوسرے پہاڑ بنام (ہمیر) کے اوپر تھے۔ پیغمبر اکرمؐ نے ان کو دیکھا اور فرمایا: یا علیؑ! تجھے کیا ہوا ہے؟

علیؑ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ رسولؐ خدا نے فرمایا: یا علیؑ اپنا ہاتھ مجھے دو، پس پہاڑ ہلنے لگا۔ حضرت علیؑ نے اپنا قدم اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر رکھ دیا، تو پہاڑ پہلے کی طرح اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔  
(الاختصاص: ۳۱۸ بصائر الدرجات: ۳۰۷ حدیث ۹، بحار الانوار: ۱۹/۷۰ حدیث ۲۱، تفسیر برہان: ۲/۱۲۷ حدیث ۹)

## علیؑ اور ثابت بن قیس

(۱۱۲/۲۰۵) امام حسن عسکریؑ کی تفسیر میں حضرت امام حسن عسکریؑ سے نقل ہے:

رسولؐ خدا نے فرمایا: گزشتہ رات تم میں سے کس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک مؤمن کی جان بچائی ہے؟ علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ میں تھا۔ جس نے ثابت بن قیس کی جان کو خطرہ سے بچایا۔ رسولؐ خدا نے فرمایا: اس تمام واقعہ کو اپنے مومن بھائیوں کے لئے ذکر کرو۔ اور جن منافقین نے مکرو حیلہ اور بہانہ کیا تھا ان کے نام سے پردہ نہ اٹھانا۔ بے شک خدا نے تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کو مہلت دی تاکہ وہ توبہ کر لیں شاید کہ ان کو اپنا خیال آئے اور انجام کار کی طرف متوجہ ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں مدینہ سے باہر بنی فلاں کے محلہ میں جا رہا تھا، اور میرے آگے آگے ثابت بن قیس جا رہا تھا، وہ ایک کنویں کے قریب جا پہنچا جو گہرا تھا۔ جس میں اوپر سے لے کر نیچے پانی تک بڑا فاصلہ تھا۔ اس جگہ منافقین کا ایک گروہ چھپا ہوا تھا انہوں نے ثابت بن قیس کو آگے دھکا دیا تاکہ اس کنویں میں پھینک دیں، ثابت نے اپنے آپ کو روک لیا اور بچا لیا۔ ان میں سے ایک شخص نے دوبارہ آگے بڑھ کر ثابت بن قیس کو دھکا دیا، میں دوڑا اور اس کے پاس جا پہنچا، میں منافقین کا چھپچھپ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ثابت بن قیس کنویں میں گر گیا تھا۔ میں نے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اور ثابت بن قیس کے پانی تک پہنچنے سے پہلے میں پہنچ گیا۔ رسولؐ خدا نے فرمایا: تو کیسے اس سے پہلے نہ جاتا کیونکہ تم اس سے وزنی تر ہو۔ اور باوقار تر ہو؟ اگر اس وزن کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہ ہوتا جو اولین اور

آخرین کا علم تیرے پاس ہے جو خدا نے اپنے رسول کو دیا اور اس کے رسولؐ نے تجھے دیا تو پھر بھی تجھ سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہ تھی؟

پھر فرمایا: باقی واقعہ بیان کرو۔ وہاں تیرے اور ثابت کے ساتھ کیا گزری؟

علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جب کنویں کی تہ میں گیا تو وہاں پر کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا اور ثابت جو اوپر سے آ رہا تھا۔ کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے گرنے سے اسے یا مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھا لیا جیسے پھول کی ایک شاخ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔

پھر میں نے اوپر دیکھا تو وہ منافق اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنویں کے کنارے پر کھڑا کہہ رہا ہے، ہم نے ایک کو کنویں میں پھینکا چاہا تھا لیکن یہ تو دو ہو گئے ہیں پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھایا جس کا وزن تقریباً دو سومن ہوگا، اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ میں ڈرا کہ کہیں یہ پتھر ثابت کو نہ لگ جائے، میں نے ثابت کو اپنے نیچے کر لیا اور پتھر میرے سر کے نیچے دالی جگہ پر ایسے لگا جیسے سخت گرمی کے موسم میں کوئی ہاتھ والے پتھکے کے ساتھ ہوا لے رہا ہو۔ پھر وہ ایک اور پتھر لائے جس کا وزن تقریباً تین سومن تھا، اسے بھی کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے پھر ثابت کو اسی طرح بچا لیا اور پتھر میرے سر کے نیچے ایسے لگا جیسے کوئی گرمی کے دنوں میں اپنے بدن پر پانی ڈالے۔ وہ تیسری دفعہ ایک اور پتھر لائے۔ جس کا وزن تقریباً پانچ سومن تھا۔ وہ اس پتھر کو زمین پر الٹاتے پلٹاتے رہے اور بڑی مشکل سے لا کر کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے اس دفعہ بھی ثابت کو بچایا اور پتھر میری پشت پر ایسے لگا جیسے میں نے کوئی نرم لباس پہنا ہو، جب ان لوگوں نے پتھر پھینک لئے تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر ابو طالبؑ اور قیس کا بیٹا ایک لاکھ بھی روح رکھتے ہوں تو ان پتھروں کے گرنے سے ایک بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور خدا نے ان کے شر کو ہم سے دور کر دیا۔ اس وقت خدا نے حکم دیا کہ کنویں کا کنارہ نیچے ہو جائے اور کنویں کی تہ کو حکم دیا کہ اوپر ہو جائے، دونوں برابر سطح پر آ گئے، جو نبی ایسا ہوا ہم بڑے آرام سے باہر نکل گئے۔ رسولؐ



خدا نے فرمایا: اے ابا الحسن! تو نے جو یہ فدا کاری کی ہے اس کے عوض خدا نے تجھے اتنا اجر اور فضیلت عطا کی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ عجب ان علیٰ کہاں ہیں؟ نیک و کار اور صالح لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، قیامت کے میدان میں جس کو بھی چاہتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں لے جاؤ۔ ان لوگوں کے درمیان سب سے کمتر جو شفاعت کرے گا وہ دس لاکھ افراد کو نجات دے گا۔

پھر منادی ندا دے گا مزید و ابستگان علیٰ کہاں ہیں؟ ایک ایسا گروہ کھڑا ہوگا جو اعمال کے لحاظ سے واجبی ہو گئے، ان سے کہا جائے گا تم جو چاہتے ہو، خدا سے تمنا کرو۔ تب وہ اپنی آرزوں کے مطابق باری تعالیٰ سے عرض پرداز ہوں گے خدا ان کو عطا کرے گا اور پھر ان عطا شدہ نعمتوں کو سو گنا کر دے گا۔ تیسری مرتبہ وہ منادی ندا دے گا۔ باقی ماندہ شعیان علیٰ بن ابی طالب کہاں ہیں؟ ایک ایسا گروہ کھڑا ہوگا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور ان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ اس وقت دشمنان علیٰ بن ابی طالب کو حاضر کیا جائے گا، جب کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، کہا جائے گا ہم ان میں سے ہزار آدمیوں کو علیٰ کے دوستوں میں سے ایک پر قربان کرتے ہیں، تاکہ وہ اس طرح سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر خدا تیرے دوستوں کو نجات دے گا اور تیرے دشمنوں کو ان کی قربانی بنائے گا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا:

هَذَا الْفَضْلُ الْكَرِيمُ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ رَسُولِهِ وَمُبْغَضُهُ

مُبْغَضُ اللَّهِ وَمُبْغَضُ رَسُولِهِ هُمْ خِيَارُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

”علیٰ خداوند تعالیٰ کے نزدیک گرامی تر اور افضل تر ہے لہذا جو علیٰ کو

دوست رکھتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ جو علیٰ کا دشمن

ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ علیٰ کے دوست محمدؐ کی امت

میں سے بہترین مخلوق ہیں“

## علیؑ اور بارانِ رحمت

(۱۱۳/۲۰۶) ابن شاذان کتاب ”مائتہ مقبہ“ میں امام صادقؑ سے اور آپؑ نے اپنے اجداد کے ذریعے امام حسینؑ سے نقل کیا ہے:

رسولؐ خدا نے فرمایا: جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی اور میں نور کے حجابوں کے پاس پہنچا تو میرے پروردگار نے میرے ساتھ گفتگو کی۔ اور فرمایا: اے محمدؐ! میری طرف سے علیؑ کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا کہ وہ میرے بندوں پر میری رحمت ہیں، میں اپنی بارانِ رحمت کو اس کے واسطے سے اپنے بندوں پر نازل کرتا ہوں اور اس کے واسطے سے ان سے بدیوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہوں۔ جس دن وہ میرے ساتھ ملاقات کریں گے اس کے ذریعے سے ان پر رحمت قائم کروں گا۔

پس ان پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کریں اور جو وہ حکم دیتا ہے اس پر عمل کریں اور جس سے علیؑ روکے اس سے اجتناب کریں، تاکہ ان لوگوں کو اپنے پاس مقامِ صدق میں جگہ عنایت کروں اور اپنی جنت کو ان کے لئے جائز قرار دوں۔ بصورت دیگر تباہ ہونے والے ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو عبرت ناک عذاب دوں گا۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔

(مائتہ مقبہ: ۵۳، بشارة المصطفیٰ: ۷۹، بحار الانوار: ۱۳۸/۳۸ حدیث ۹۹)

(۱۱۳/۲۰۷) ابن شہر آشوب، ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ آیۃ شریفہ

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (سورۃ الاشفاق: ۱۹)

کا اشارہ معراج کی طرف ہے کہ معراج کی رات رسولؐ خدا ایک آسمان سے دوسرے پر گئے، پھر رسولؐ خدا نے فرمایا: شبِ معراج جب میرا خدا سے دوکمانوں یا اس سے بھی کمتر فاصلہ رہ گیا تو خدا نے فرمایا: اے محمدؐ! میرا تجھ پر سلام ہو۔ علیؑ ابن ابی طالبؑ کو میری طرف سے سلام پہنچانا، اور ان سے کہنا کہ میں اسے اور اس کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں۔ اے محمدؐ! علیؑ سے محبت کی وجہ سے میں نے اپنے ناموں میں سے ایک نام اس کو دیا

ہے، کیونکہ میں علیؑ عظیم ہوں بڑے ہی بلند مرتبہ والا اور وہ علیؑ یعنی بلند مرتبہ ہے۔ میں محمود ہوں اور تو محمدؐ ہے۔ اے محمدؐ اگر کوئی میرا بندہ نو سو پچاس مرتبہ نیکیاں کرے اور چار مرتبہ اتنی ہی مزید کرے اور قیامت کے دن میرے ساتھ ملاقات بھی کرے تو علیؑ کی نیکیوں اور خوبیوں میں سے ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (سورۃ الشقاق: آیت ۲۰)

”ان منافقوں کو کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے“

یعنی کیوں امیر المؤمنینؑ کی اس فضیلت کی تصدیق نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے۔

(تفسیر برہان: ۴/۳۲۳ حدیث ۹، معنیۃ المعاجز: ۲/۳۰۵ حدیث ۶۲۹، حلیۃ الاولیاء: ۲/۱۵۸ حدیث ۴)

## درخت پر علیؑ لکھنا ہے

(۱۱۵/۲۰۸) سید ہاشم بحرانی کتاب مدینۃ المعاجز میں محمد بن شان سے نقل کرتے ہیں

کہ میں امام صادقؑ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت نے مجھے فرمایا: دروازے کے پاس کون ہے؟ میں نے عرض کیا: ایک مرد ہے جو چین سے آیا ہے۔ آپؑ نے فرمایا: اسے راستہ دو۔ جب وہ شخص امام کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو آنحضرتؐ نے اس سے فرمایا: کیا تم ہمیں اس سرزمین پر جانتے ہو؟ اس نے عرض کیا: ہاں میرے آقا و مولا! آپؑ نے فرمایا: کس وسیلے سے ہمیں پہچانتے ہو؟ اس نے عرض کیا: یا بن رسول اللہؐ وہاں ایک درخت ہے جس پر ہر سال پھول لگتے ہیں اور وہ پھول ہر روز دو دفعہ اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ دن کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر لکھا ہوتا ہے (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں“ اور دن کے آخری حصے میں ان پر لکھا ہوتا ہے۔ (لا الہ الا اللہ علی حلیفۃ رسول اللہ) ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور علیؑ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔“

(مدینۃ المعاجز: ۲/۳۰۵ حدیث ۹، الخزانج: ۲/۵۶۹ حدیث ۲۵، بحار الانوار: ۳۲/۱۸۱ حدیث ۴)



## علیؑ اپنے جنازہ کے پاس

(۱۱۶/۲۰۹) بری اہل کوفہ کے محدثین سے نقل کرتے ہیں:

جب امام حسنؑ اور امام حسینؑ نے امیر المومنینؑ کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا اور اس ابدی آرام گاہ کی طرف لے چلے جو پہلے سے نجف میں تیار تھی تو گھوڑے پر ایک سوار کو دیکھا، جس سے پوری فضا معطر ہو رہی تھی۔ اس گھوڑے سوار نے ان دو ہستیوں پر سلام کیا۔ اور امام حسنؑ سے فرمایا: تم حسنؑ بن علیؑ ہو، جو سرچشمہ وحی اور قرآن سے سیراب ہوا ہے، علم و شرف کی گود میں پرورش پائی ہے اور امیر المومنینؑ اور اوصیاء کے سردار کے جانشین ہو؟ حضرت امام حسنؑ نے عرض کیا: ہاں! پھر فرمایا: اور یہ حسینؑ بن علیؑ نبی رحمت کا نواسہ ہے، جس نے باعصمت والدہ کا دودھ پیا، آئمہ اطہار کا باپ اور علم و حکمت کی ندی ہے؟ حضرت امام حسینؑ نے عرض کیا: ہاں!

فرمایا: جنازہ میرے سپرد کر دو اور تم خدا کی پناہ میں چلے جاؤ۔ امام حسنؑ نے عرض کیا: میرے باپ نے وصیت فرمائی ہے کہ جنازے کو جبرائیل اور خضر کے علاوہ کسی کے سپرد نہ کرنا، آپ ان دو میں سے کون ہیں؟ انہوں نے جب نقاب اپنے چہرے سے الٹا تو دیکھا کہ امیر المومنینؑ خود ہیں اس کے بعد امام حسنؑ کو فرمایا:

یا ابا محمد لا تموت نفس الا ویشہدھا العما یشہد جسدہ ؟

”اے ابا محمد! جو شخص ہر مرنے والے کے پاس آتا ہے تو کیا اپنے جسد کے

پاس نہ آئے گا؟“ (بحار الانوار ۳۰۰/۲۲ حدیث ۷۸ مدیۃ المعارج ۶۰/۳ حدیث ۷۲۳)

## علیؑ کا چہرہ اور فرشتے

(۱۱۷/۲۱۰) ابن شاذانؒ کتاب المہ معقبہ میں عمر بن خطابؓ سے نقل کرتے ہیں:

عمر کہتے ہیں: میں نے ابو بکر بن قافہ سے سنا اور انہوں نے پیغمبر اکرمؐ سے سنا:

ان اللہ تعالیٰ خلق من نور وجہ علی ابن ابی طالب ملائکہ یسبحون

وَيَقْدُ سُون وَيَكْتَبُونَ ذَلِكَ لِمَصْبِيهِ وَمَحَبِّي وَلَدُهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ  
 ”خدا تبارک و تعالیٰ نے علیؑ ابن ابی طالبؑ کے چہرے کے نور سے فرشتوں  
 کو خلق کیا ہے جو تسبیح اور تقدیس پروردگار کرتے ہیں اور اس کا ثواب علیؑ اور  
 اولاد علیؑ کے دوستوں کے لئے لکھ دیتے ہیں“

(ملئہ مقبۃ: ۱۲۸ منقبت: ۸۰، بحار الانوار: ۲۷/۱۱۸ حدیث ۹۸)

### فاطمہ بنت اسد کا فرمان

(۱۱۸/۲۱۱) قطب راوندی نے کتاب ”خراج“ میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو طالبؑ نے  
 فاطمہ بنت اسد سے فرمایا:

کہ میں نے علیؑ کو بچپن میں بتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ کہیں  
 قریش کے سرداروں کو پتہ نہ چل جائے۔ فاطمہ بنت اسد نے عرض کیا: میں آپ کو اس سے  
 بھی عجیب تر نہ بتاؤں؟ جب علیؑ ابھی میرے شکم میں تھے، اور کبھی میں بتوں کے قریب سے  
 گذرتی تو علیؑ اپنے پاؤں کو زور زور سے مارتے تاکہ میں اس جگہ سے جلدی جلدی گذر  
 جاؤں، حالانکہ میں خدا کی عبادت کے لئے خدا کے گھر کا طواف کرتی تھی اور بتوں کی طرف  
 اصلاً توجہ نہ ہوتی تھی۔

(الخراج: ۲/۷۴ حدیث ۵۷، بحار الانوار: ۱۸/۳۲ حدیث ۵، مدینۃ العاجز: ۳/۱۲۸ حدیث ۸۰۴)

### اہلبیتؑ کے گھر فرشتے اترتے رہتے ہیں

(۱۱۹/۲۱۲) شرف الدین نجفیؒ نے کتاب تاویل الآیات میں عبد اللہ بن عثمان

سے نقل کیا ہے: میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپؑ نے فرمایا: علیؑ اور فاطمہؑ کا گھر  
 رسولؐ خدا کا حجرہ ہے، ان کے گھر کی چھت عرش پروردگار ہے اور اس گھر کے تہ خانہ میں  
 ایک شکاف ہے جہاں سے عرش الہی نظر آتا ہے۔ فرشتے ہر صبح وشام گروہ درگروہ بلکہ ہر گھڑی  
 وحی الہی کے ساتھ ان پر نازل ہوتے ہیں اور ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ کے لئے آسمانوں کے پردے دور ہٹا دیئے اور ان کی قدرت پینائی میں اضافہ کر دیا تاکہ عرش تک دیکھ سکیں۔ بے شک خدا نے محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ و حسینؑ کی پینائی میں بھی اضافہ فرمایا ہے، اور وہ ہمیشہ عرش کو دیکھتے ہیں ان کے گھر پر عرش کے علاوہ کوئی چھت نہیں ہے۔ پس ان کے گھر پر عرش پروردگار کے ذریعے سایہ کیا گیا ہے، وہاں ملائکہ اور روح کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور یہ گروہ درگروہ آتے ہیں۔ آئمہ طاہرین کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں فرشتے نہ آتے ہوں۔ اس کی دلیل یہ آیت شریفہ ہے۔

تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ

”فرشتے اور روح اذن پروردگار کے ساتھ ہر امر لے کر ان پر نازل ہوتے ہیں“

عبداللہ بن عجلان سے مروی ہے کہ میں نے امامؑ سے عرض کیا: آیۃ میں (من کل امر) ہے۔ امامؑ نے فرمایا: (بکل امر) ہے۔ میں نے عرض کیا۔ کیا یہ تنزیل ہے یعنی اسی طرح نازل ہوا ہے (آپؑ نے فرمایا ہاں۔

(تذیل لآیات: ۲/۸۱۸ حدیث ۴، بحار الانوار: ۲۵/۹۷ حدیث ۷، تفسیر برہان: ۳/۳۸۷ حدیث ۲۵)

## بہشت میں محل

(۱۲۰/۲۱۳) کتاب مسلمات میں بکر بن احنف سے نقل ہے:

حضرت امام رضاؑ کی بیٹی فاطمہؑ نے فاطمی مستورات سے نقل کرتے ہوئے سند کو فاطمہ بنت رسول اللہؐ تک پہنچاتے ہوئے ہمیں خبر دی ہے کہ بی بیؑ نے فرمایا: میں نے اپنے والد بزرگوار کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں آسمانوں کی سیر پر گیا تو بہشت میں داخل ہوا وہاں میں نے ایک محل دیکھا جو سفید مروارید سے تعمیر شدہ تھا جو ندر سے خالی تھا، اس کے ایک دروازے جس پر موتیوں اور یاقوت سے مرصع تاج تھا پر پردہ لٹکا ہوا تھا، میں نے اپنا سر بلند کیا تو دیکھا کہ اس دروازے پر لکھا ہوا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَلِيُّ الْقَوْمِ



”کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور علیؑ لوگوں کے ولی اور صاحب اختیار ہیں“

اس پردے پر یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ”بنح بنح“ من مثل شیعة علیؑ ؟ ”واہ واہ کون ہے علیؑ کے شیعوں کی طرح ؟ آپؐ نے فرمایا: میں اس میں داخل ہوا، وہاں ایک اور محل دیکھا جو اندر سے خالی تھا لیکن سرخ رنگ کے عقیق سے بنا ہوا تھا۔ میں نے آج تک ایسا خوبصورت محل نہ دیکھا تھا اس کا دروازہ سبز رنگ کے زبرجد سے بنا ہوا تھا جسے جو اہرات سے مزین کیا ہوا تھا اور اس پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، میں نے اپنا سر بلند کیا تو اس پر لکھا ہوا تھا۔

شیعة علیؑ هم الفائزون

”شیعیان علیؑ وہ گروہ ہے جو کامیاب ہے“

میں نے جبرائیل سے کہا: اے میرے دوست! یہ محل کس کے لئے ہے ؟ اس نے عرض کی: یا محمدؐ! یہ آپؐ کے چچا زاد اور وصی علیؑ ابن ابی طالب کے لئے ہے قیامت کے دن تمام لوگ ننگے پاؤں اور عریان بدن محشور ہوں گے۔ سوائے علیؑ کے شیعوں کے، سب لوگوں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن علیؑ کے شیعوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔

میں نے جبرائیل سے کہا: اے میرے دوست ایسا کیوں ہے ؟ اس نے عرض کیا: اس کی وجہ یہ ہے کہ علیؑ کے شیعہ انہیں دوست رکھتے ہیں اس لئے وہ حلال زادے ہیں اور دنیا میں پاک پیدا ہوئے ہیں۔ (بحار الانوار: ۶۸/۷۶ حدیث ۱۳۶)

## علیؑ کے شیعوں کی بخشش

(۱۳۱/۲۱۳) شیخ ابوعلیؑ شیخ طوسیؒ کے بیٹے کتاب ”امالی“ میں امام ہادیؑ سے اور

انہوں نے اپنے اباؤ اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسولؐ خدا نے فرمایا: یا علیؑ! خدا تعالیٰ نے تجھے، تیرے شیعوں، تیرے شیعوں کے دوستوں اور ان کے دوستوں کو بخش دیا۔ تجھے مبارک ہو، تو شرک

سے دور ہے اور علم سے مملو ہے۔ (امالی طوسی: ۲۹۳ حدیث ۷، مجلس ۱۱، بحار الانوار: ۶۸/۱۰۱ حدیث ۹)

## تصویر علیؑ

(۱۲۲/۲۱۵) کراچکیؑ نے کتاب کنز الفوائد میں حمران سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام باقر

علیہ السلام سے آیہ شریفہ

ثُمَّ دَنَىٰ فَقَدَلْنِي ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

(سورہ نجم: آیت ۸ اور ۹)

کے بارے میں سوال کیا تو آپؑ نے فرمایا: خدا تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو اپنے اتنا قریب کیا گویا کہ اس کے اور حضرت کے درمیان مروارید کا کچھا تھا۔ اس جگہ سونے کا چمکتا فرش بچھا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک تصویر دیکھی تو کہا گیا:

یا محمد اتعرف هذه الصورة؟ فقال نعم هذه صورة علي ابن ابي

طالب فاوحى الله اليه ان زوجة فاطمة واتخذة وصيا

”اے محمد! کیا جانتے ہو یہ کس کی تصویر ہے؟“ آپؑ نے عرض کیا: ہاں! یہ

علی ابن ابی طالب کی تصویر ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: فاطمہؑ کی علیؑ کے

ساتھ شادی کر دو اور اسے اپنا وصی اور جانشین بناؤ“

(تأویل الآيات: ۲/۲۲۵ حدیث ۸، تفسیر برہان: ۳/۲۵۰ حدیث ۱۱، بحار الانوار: ۱۸/۳۱۰ حدیث ۱۲۲، مختصر: ۱۲۵)

## دشمن علیؑ اور جہنم

(۱۲۳/۲۱۶) شیخ مفید کتاب اختصاص میں امام صادقؑ سے اور حضرت اپنے جد بزرگوار

امیر المومنینؑ سے نقل کرتے ہیں:

ایک دن میں شہر کوفہ سے باہر گیا، قبر میرے ساتھ تھا، میں نے اس سے کہا: کیا جو

میں دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے؟ قبر نے عرض کیا: خدا نے ہر چیز کو آپؑ کے لئے روش اور

واضح کیا ہے، جبکہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ بعد میں آپؑ نے اپنے اصحاب کی

طرف منہ کیا اور ان سے فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم وہ دیکھو گے جو میں دیکھوں گا؟ انہوں نے بھی وہی عرض کیا جو قنبر نے کہا تھا۔

اس وقت میں نے کہا: اس ذات کے حق کی قسم جس نے دانے کو شکافہ کیا اور بشر کو پیدا کیا، تم اسے ایسے ہی دیکھو گے جیسے میں دیکھوں گا، اور اس کی کلام کو ایسے ہی سنو گے جیسے میں سنوں گا۔ تھوڑا وقت نہ گزرا تھا کہ ایک شخص ظاہر ہوا جس کا سر بڑا، قد لمبا اور دو لمبی لمبی آنکھیں تھیں۔ اس نے کہا: یا امیر المؤمنین! آپ پر سلام اور درود ہو۔ میں نے اس سے کہا: اے ملعون! کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا: لوگوں کی طرف سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا: کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا: لوگوں کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا: تو بہت برا بوڑھا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! ایسے کیوں کہتے ہو؟ خدا کی قسم آپ کے لئے ایک حدیث عرض کرتا ہوں، جو میرے اور خدا کے درمیان صورت پذیر ہوئی ہے جبکہ وہاں تیسرا کوئی نہ تھا۔

میں نے کہا: اے لعین! کیا تو خدا سے حدیث نقل کرے گا اور کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہ تھا؟ اس نے عرض کیا: ہاں! جب میں نا فرمانی حکم خدا کی وجہ سے چوتھے آسمان سے نیچے آیا تو میں نے عرض کیا: اے میرے خدا اور اے میرے مولا! میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بد بخت تر بھی آپ نے کسی کو پیدا کیا ہوگا؟ خدا نے پیغام دیا کہ میں نے تجھ سے بد بخت تر بھی پیدا کیا ہے، اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو تو فرشتہ بنام مالک جو دوزخ پر مامور ہے کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں دیکھائے، میں اس کے پاس گیا اور کہا: خدا تجھ پر سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے: مجھے وہ شخص دکھلا جو مجھ سے بھی بے چارہ اور بد بخت تر ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوزخ میں لے گیا۔ جہنم کے اوپر والے طبقے سے ڈھلکا اٹھایا۔ تو اس کے اندر سے سیاہ رنگ کی آگ کے شعلے اتنے زیادہ نکلے کہ میں نے خیال کیا، یہ مجھے اور مالک کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔

مالک نے آگ کو حکم دیا کہ آرام کر۔ وہ آہستہ ہو گئی۔ مجھے جہنم کے دوسرے طبقے میں لے گیا، وہاں آگ کے ایسے شعلے تھے جو پہلے والی آگ سے زیادہ سیاہ اور زیادہ جلانے والے تھے۔ مالک نے اسے حکم دیا، آہستہ ہو جا، وہ آہستہ ہو گئی۔ ہم جہنم کے طبقات یکے بعد



دیگرے طے کرتے ہوئے نیچے ساتویں طبقے تک جا پہنچے ہر ہر طبقے کی آگ پہلے والے طبقے سے سخت تر تھی۔ ساتویں طبقے سے ڈھکنا اٹھایا تو اس سے ایسی آگ نکلی کہ میں نے گمان کیا یہ مجھے مالک اور خدا کی ہر مخلوق کو ختم کر دے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا: اے مالک! اسے حکم دے کہ آہستہ ہو جائے، ورنہ میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ مالک نے کہا: اس وقت تک تجھے معلوم تک نہیں جس کی خدا نے تجھے مہلت دی ہے ختم نہیں ہوگا۔ پھر مالک نے آگ کو حکم دیا کہ آہستہ ہو جا۔ تو وہ آہستہ ہو گئی، وہاں پر میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جن کی گردن میں آگ کے زنجیر ہیں جو اوپر بندے ہوئے ہیں۔ میں نے مالک سے کہا: یہ دو آدمی کون ہیں؟ اس نے کہا: کیا اس سے پہلے تو نے ساق عرش پر نہیں پڑھا کہ وہاں کیا چیز لکھی ہوئی تھی؟ حالانکہ میں نے اس دنیا کو خلق کرنے سے ایک ہزار سال پہلے اس پر لکھا ہوا پڑھا تھا۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ ونصرہ بعلی

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمدؐ اللہ کے رسول ہیں میں نے علیؑ کے ذریعے

سے اس کی تائید اور مدد کی ہے“

مالک نے کہا:

یہ دو آدمی ان کے دشمنوں میں سے یا ان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہیں (یہ تردید راوی کی طرف سے ہے کہ کیا امام نے دشمن فرمایا ہے یا ظالم)

(الاختصاص: ۱۰۵، بحار الانوار: ۸/۳۱۵ حدیث ۹۵، مدینۃ المعاجز: ۱/۱۲۲)

علیؑ کی سورج سے گفتگو

(۱۲۳/۲۱۷) کتاب مناقب المناقب میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں:

میں ایک دن رسولؐ خدا کی خدمت میں موجود تھا کہ علیؑ ابن ابی طالب تشریف لائے، پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: اے ابا الحسن! کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ مقام و مرتبہ دکھاؤں جو خدا کے نزدیک آپ کا ہے۔ علیؑ نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! میرے ماں باپ

آپ پر فدا ہوں۔

آپؐ نے فرمایا: کل میرے ساتھ سورج کی طرف چلنا، وہ آپ کے ساتھ حکم پروردگار سے کلام کرے گا۔ دوسرے دن جب رسولؐ خدا نے صبح کی نماز پڑھی تو علیؑ کا ہاتھ پکڑا مسجد سے باہر آئے۔ اور ایک جگہ پر سورج کے طلوع ہونے کی انتظار میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، رسولؐ خدا نے فرمایا: یا علیؑ اس کے ساتھ کلام کرو، بے شک وہ اس پر مامور ہے کہ آپ کے ساتھ کلام کرے۔

علیؑ نے فرمایا:

السلام عليك ورحمة الله وبركاته ايها الخلق السامع المطيع  
”تجھ پر سلام اور تجھ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے خدا کی سننے والی  
اور فرمانبردار مخلوق“۔

سورج نے جواب دیا

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خير الاوصياء لقد اعطيت  
في الدنيا والاخرة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت  
”آپ پر سلام اور خدا کی رحمتیں و برکتیں ہوں، اے اوصیاء کے سردار بے  
شک دنیا اور آخرت میں آپ کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا  
ہے اور نہ کان نے سنا ہے.....“

علیؑ نے فرمایا: جو مجھے عطا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ سورج نے عرض کیا: مجھے اجازت  
نہیں ہے کہ اسے بیان کروں۔ ہو سکتا ہے لوگ فتنے و فساد میں پڑ جائیں۔ لیکن جو علم اور حکمت  
آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا کیا گیا ہے، وہی آپ کو مبارک ہو۔ آپ ان میں سے ہیں جن  
کے متعلق خدا نے فرمایا ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(سورہ سجدہ: آیہ ۷۶)

”پس کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کے لئے کیا کیا خنکی چشم کا سامان چھپا رکھا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔“

اور آپ ان میں سے ہیں جن کے متعلق خدا فرماتا ہے۔

اَلْقَمَنَ كَانَتْ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَتْ لَافِئَةً لَا يَسْتَوْنَ (سورۃ مجدہ: آیت ۱۸)

”کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں ہرگز برابر نہیں ہیں“

آپ وہ ایمان لانے والے ہیں کہ خدا نے آپ کو ایمان کے ساتھ اختصاص اور

امتياز بخشا ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ سورج نے تین مرتبہ حضرت کے ساتھ گفتگو کی ہے۔

(الاقاب فی المناقب: ۲۵۵ حدیث ۳، مدینۃ المعاجز: ۱۰/۲۲۰ حدیث ۱۳۷، فرائد السمیعین: ۱۸۵/۱)

## علیؑ کا چہرہ

(۱۲۵/۲۱۸) ابن شاذان کتاب المایۃ منقبۃ میں انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ

رسول خداؐ نے فرمایا:

خلق اللہ تعالیٰ من نور وجہ علی بن ابی طالب سبعین الف ملک

یستغفرون له ولمحبیہ الی یوم القیامۃ

”خدا نے علی بن ابی طالب کے چہرے کے نور سے ستر ہزار فرشتے پیدا کئے

ہیں جو قیامت تک آپ کے اور آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے

لئے استغفار کرتے رہیں گے“

اہل سنت کے عالم خواندگی نے اس حدیث کو غیر شیعہ راویوں سے بھی ایسے ہی نقل کیا ہے

(مایۃ منقبۃ: ۲۲ منقبۃ ۱۹، غایۃ الیرام: ۵۸۵ حدیث ۷۵، مدینۃ المعاجز: ۳/۳۶ حدیث ۷۰۰)

اہل بیتؑ کا ذکر بیماریوں کو دور کرتا ہے

(۱۲۶/۲۱۹) برقی کتاب محاسن میں امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا:



ذکرنا اهل البيت شفاء من الوبك والا سقام و وسواس الريب  
وحننا رضى الرب تبارک وتعالى

(المحاسن: ۴۷: حدیث ۱۰۷، بخار الا نوار: ۲/ ۱۳۵: حدیث ۱۱۰ اور ۲۶/ ۲۲۷: حدیث ۲۵)

”ہم اہل بیت کا ذکر بخار اور تمام بدنی و روحی بیماریوں کے لئے شفاء ہے  
اور ہماری محبت خدا تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے“

مؤلف فرماتے ہیں۔ بخار کی حرارت جہنم کی حرارت کی ایک شاخ ہے، جیسے کہ  
حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ جب آتش جہنم مہمان علیٰ کو نہیں جلا سکتی تو بخار کی حرارت جو  
جہنم کی آگ سے ہے بدرجہ اولیٰ ذکر اہل بیت کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور نہ جلا سکے گی۔

### ہر چیز کا ایک سردار ہے

(۱۲۷/۲۲۰) بریٰ ایک مفصل سند کے ساتھ سلمان فارسیؓ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:  
میں رسول خدا کی خدمت میں شرفیاب ہوا، وہاں ایک عربی آیا، اس نے سلام کیا  
اور ہم نے سلام کا جواب دیا، پھر اس نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو چمکتا ہوا چاند اور  
تاریکیوں میں روشن چراغ ہے یعنی خداوند صاحب قدرت و دانائے رسول محمدؐ کون ہے؟ کیا  
وہ خوبصورت چہرہ یہ ہے؟

آپؐ نے فرمایا: ہاں! اے عرب بھائی! بیٹھ جاؤ۔ اس نے عرض کیا: میں آپؐ پر  
ایمان لایا ہوں جب کہ آپؐ کو نہ دیکھا تھا تصدیق کی ایک نئی بات آپؐ کی طرف سے مجھ تک  
پہنچی ہے۔ رسول خداؐ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: آپؐ ہمیں خدا کی وحدانیت اور  
اپنی رسالت کی طرف دعوت دی، ہم نے قبول کیا۔ آپؐ نے فرمایا: نماز پڑھو، اپنے مال سے  
زکوٰۃ دو، روز رکھو، حج کرو، جہاد کرو۔ ہم نے سب قبول کیا لیکن آپؐ اس پر راضی نہیں ہوئے  
اور اب اپنے چچا زاد بھائی علیؓ ابن ابی طالبؓ کی ولایت اور دوستی کی طرف دعوت دی  
ہے۔ کیا یہ کام اپنی طرف سے کیا ہے یا آسمانی حکم ہے اور خدا نے واجب فرمایا ہے؟ پیغمبر اکرمؐ

نے فرمایا: خدا نے اس امر کو اہل آسمان اور زمین پر واجب کیا ہے۔ اس عربی نے جب کلام رسول خدا کو سنا، تو عرض کی۔ سمعاً و طاعتاً ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ آپ نے جو فرمایا: ہم نے قبول کیا۔ اور یہ حق ہے پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: اے میرے عرب بھائی! علیؑ کو پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں، ان پانچ میں سے ایک چیز دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے افضل ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے بیان کروں؟ عربی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ!

آپؐ نے فرمایا: اے عرب بھائی! میں جنگ بدر کے دن بیٹھا ہوا تھا اور جنگ ختم ہو چکی تھی، جبرائیل میرے پاس آئے اور عرض کی، خدا تبارک و تعالیٰ آپؐ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے: اے محمدؐ! میں نے عہد کیا اور قسم کھائی ہے کہ میں جسے بھی پسند کروں گا اس کے دل میں علیؑ کی محبت ڈال دوں گا اور الہام کر دوں گا۔ پس جو مجھے دوست رکھتا ہوگا، الہام کے ذریعے سے علیؑ کی محبت اسے عنایت کر دوں گا اور جس کو میں دشمن رکھتا ہوں، علیؑ کی دشمنی اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر فرمایا: اے عرب بھائی! علیؑ کو جو دوسری چیز عطا ہوئی ہے تیرے لئے بیان کرو؟ اس نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا: جب میں اپنے چچا حمزہ کو جنگ کا ساز و سامان فراہم کر کے بیٹھا، تو جبرائیل آیا۔ اور اس نے عرض کیا: اے محمدؐ! خدا نے آپؐ پر سلام بھیجا اور فرمایا ہے: میں نے نماز واجب کی ہے لیکن کچھ لوگوں کو بعض اوقات میں معافی دی ہے جیسے کہ حیض اور نفاس والی عورت، دیوانے اور بچے۔ پرچ کو واجب کیا لیکن جو قدرت نہ رکھتا ہو اس پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو واجب قرار دیا لیکن جس کے پاس مال نہ ہو اس پر واجب نہیں کی۔

و فرضت حب علی بن ابی طالب علی اہل السماوات والارض

فلم اعط فیہ رخصة

”لیکن میں اہل آسمان اور زمین پر محبت علیؑ کو فرض قرار دیا ہے اور اس

سے کسی کو معاف نہیں کیا اور چھوٹ نہیں دی کہ وہ محبت علیؑ نہ رکھتا ہو“

اس کے بعد فرمایا: اے عرب بھائی! کیا تیرے سامنے خدا کی طرف سے عطا کی

ہوئی تیسری چیز بھی بیان کروں؟ عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ!

آپؐ نے فرمایا: خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کی نوع کے لئے ایک سردار بنایا۔ پرندوں کے درمیان گدھ کو سردار بنایا، گائے چار پایوں کی سردار ہے، شیر درندوں کا سردار ہے، دونوں کا جمعہ کا دن سردار ہے، رمضان مہینوں کا سردار ہے، اسرائیل فرشتوں کا سردار ہے، حضرت آدم آدمیوں کا سردار ہے، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، اور علیؑ تمام اوصیاء کا سردار ہے۔

پھر فرمایا: کیا چوتھی عطا شدہ چیز کے بارے خبر دوں؟ عرض کیا: ہاں میرے آقا! آپؐ نے فرمایا: علیؑ کی محبت اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بہشت میں اور شاخیں دنیا میں ہیں۔ جو بھی ان شاخوں کے ساتھ لٹک گیا تو وہ اسے بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائیں گی اور علیؑ ابن ابی طالبؑ کی دشمنی اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں دوزخ میں اور شاخیں دنیا میں ہیں جو بھی ان شاخوں کے ساتھ لٹک گیا اسے وہ جہنم کی طرف کھینچ لیں گی۔ پھر رسولؐ خدا نے فرمایا: کیا تمہیں خدا کی طرف سے علیؑ کو عطا کی ہوئی پانچویں چیز بتاؤں؟ اس نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ!

آپؐ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے لئے عرش کی دائیں طرف ایک منبر لگایا جائے، اس کے بعد ابراہیم کے لئے ایک اور منبر میرے منبر کے سامنے اسی طرف لگایا جائے گا، پھر ان دو منبروں کے درمیان ایک بلند و بالا اور چمکتا ہوا ایک تخت رکھیں گے جو تخت کرامت کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ میں اور ابراہیم اپنے اپنے منبر پر ہوں گے اور علیؑ ابن ابی طالبؑ اس تخت کرامت پر ہوں گے اور کیا اچھا ہوگا کہ ایک دوست دو دوستوں کے درمیان ہوگا، ایسا خوبصورت منظر کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا۔

پھر فرمایا: اے اعرابی! علیؑ کو دوست رکھو، علیؑ کی دوستی حق اور ثابت ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے دوست کو دوست رکھتا ہے۔ اور علیؑ میرے ہمراہ ایک محل میں ہوگا۔ اس وقت عربی نے کہا:



سمعاً و طاعة الله و لرسوله و لا بن عمك

”میں خدا اس کے رسول اور آپ کے چچا زاد بھائی کا فرمانبردار ہوں“

(الفصل: ۱۳۷، الروضة: ۲۷۷ بحار الانوار: ۴۰/۳۶ حدیث ۸۳، مسند المعاجز: ۲/۳۶۳ حدیث ۶۰۸)

## علیٰ اور نوروز

(۱۲۸/۲۲۱) علامہ حلیؒ کتاب ”کشف الیقین“ میں ابوسعید خدری سے نقل کرتے ہیں۔

ایک دن رسول خداؐ اٹح کی زمین جو کہ ریتیلی ہے پر تشریف فرما تھے آپ کے پاس اصحاب کی ایک جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی، رسولؐ خدا ان سے ایک حدیث فرما رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر مبارک ہوا کے ایک گولے پر پڑی جو اوپر کواٹھ رہا تھا اور گرد و غبار اڑا رہا تھا، وہ گولہ آہستہ آہستہ پیغمبر اکرمؐ کے سامنے آگیا، اس کے اندر ایک شخص تھا جس نے رسولؐ خدا کو سلام کیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں اس جماعت کی طرف سے سفیر ہوں جس نے آپ کی پناہ حاصل کی ہے۔ ہمیں پناہ دیجئے اور ایک آدمی اپنی طرف سے اس جمعیت کی طرف بھیجیں تاکہ قریب جا کر ہمارے حالات سے آگاہ ہو سکے، کیونکہ ان میں سے ایک گروہ نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کیا ہے۔ آپ کا نمائندہ ہمارے اور ان کے درمیان حکم خدا اور قرآن کے ساتھ فیصلہ کرے میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ اسے کل بالکل سالم آپ کے پاس پہنچا دوں گا، مگر یہ کہ کوئی اچانک حادثہ خدا کی طرف سے پیش نہ آجائے۔ پیغمبر اکرمؐ نے اس سے فرمایا: تو کون ہے اور کس گروہ سے تیرا تعلق ہے؟ اس نے عرض کیا: میں عرفطہ بن شمران ہوں اور قبیلہ بنی کاخ سے میرا تعلق ہے، وہ سب موئنین خبات ہیں لوگوں سے ہم پہلے دوسرے چھپ کر اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے ساتھ مل کر باتیں سناتے تھے، پھر ہمیں اس سے روک دیا گیا۔ خدا نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے، آپ کی بات کی تصدیق کی اور اسے قبول کیا۔ ایک گروہ ہم میں سے ہمارے مخالف ہو گیا اور اپنے پرانے طریقے پر ڈٹے رہے، لہذا

ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیونکہ وہ تعداد اور طاقت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ ہیں، انہوں نے ہمارے پانی اور چراگا ہوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا اور ہمارے مال مویشیوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اب آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ روانہ کیجئے تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔

پیغمبر اکرمؐ نے اس سے فرمایا: اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ تاکہ ہم تیری اصلی شکل دیکھ سکیں۔ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے کو ظاہر کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کے لمبے لمبے بہت زیادہ بال، لمبا سر دہلی آ نکھیں لیکن آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیلے اور منہ میں دانت ایسے جیسے درندوں کے ہوں۔

رسولؐ خدا نے اس سے وعدہ لیا کہ کل جس شخص کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے اسے واپس لے کر آئے گا، اس کے بعد آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کی طرف رخ کیا اور فرمایا: ہمارے اس بھائی عرفطہ کے ساتھ جاؤ ان کا قریب سے جائزہ لو، ان کے معاملہ میں غور و فکر کرو، اور پھر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپؐ نے فرمایا: زمین کے نیچے، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: میں زمین کے نیچے جا کر ان کے درمیان کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ جب کہ نہ تو مجھے ان کی زبان آتی ہے اور نہ ہی میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے جواب دے دیا تو آپؐ حضرت عمرؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تو اس کے ساتھ جا۔ انہوں نے بھی اپنے ساتھی والا جواب دیا۔ پھر رسولؐ خدا نے علیؓ سے فرمایا: یا علیؓ! آپؐ ہمارے بھائی عرفطہ کے ساتھ جائیں اور اس کی قوم کا قریب سے جائزہ لے کر غور و فکر کے بعد ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔

علیؓ فوراً اٹھے، اپنی تلوار اپنے ساتھ لٹکائی اور عرفطہ کے ساتھ چل پڑے۔ ابو سعید خدریؓ اور سلمان فارسیؓ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک درہ تک جا پہنچے، اس درہ کے درمیان میں علیؓ نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا: خدا آپ کو جزائے خیر دے، یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ ہم اس جگہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ

زمین پھٹی اور وہ اندر داخل ہو گئے، پھر زمین اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئی۔ ہم نے علیؑ کے حال پر افسوس کیا اور پریشانی کے عالم میں واپس پلٹ آئے۔ دوسرے دن صبح رسولؐ خدا نے نماز صبح لوگوں کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد صفا پر آ کر بیٹھ گئے، اصحاب بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، دن چڑھ آیا کافی وقت ہو گیا، سب کی آنکھیں علیؑ کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے دیر کر دی تھی۔ منافقین کی ایک جماعت آپس میں چہرے گویاں کرنے لگی اور کہنے لگے، عرفہ جن نے رسولؐ خدا کو دھوکا دیا اور ابو تراب سے ہماری جان چھوڑائی ہے اب پیغمبرؐ کبھی بھی اپنے چچا زاد بھائی کے ذریعے ہمارے اوپر فخر نہیں کر سکیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، رسولؐ خدا نے نماز ظہر باجماعت ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر صفا کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، اصحاب آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نماز عصر کی فضیلت کا وقت آن پہنچا۔ رسولؐ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ سب ناامیدی کا شکار ہو گئے سورج غروب ہونے کے نزدیک جا پہنچا، منافقین نے کھلے عام طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ علیؑ کو آنے میں اس قدر دیر ہو گئی کہ سب کو یقین ہو گیا کہ علیؑ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔

اسی دوران اچانک زمین پھٹی اور دل رہا جمال علیؑ ظاہر ہوا، آپ کے ہاتھ میں جو تکواری تھی اسی سے خون فکھ رہا تھا اور عرفہ آپ کے ہمراہ تھا۔

پیغمبر اکرمؐ علیؑ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے، علیؑ کو گلے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا: کیا ہوا تھا کہ اتنی دیر کر دی؟ علیؑ نے عرض کیا: مجھے بہت بڑی جماعت کا مقابلہ کرنا پڑا جنہوں نے عرفہ اور اس کے ساتھیوں پر ظلم کیا اور انہیں ان کے حق سے محروم کر رکھا تھا۔ میں نے اس گروہ کو تین چیزوں کی طرف دعوت دی لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا: خدا اور اس کے پیغمبر اکرمؐ کی رسالت پر ایمان لے آؤ، انہوں نے قبول نہ کیا۔ میں نے کہا: جزیہ ادا کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا: عرفہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ صلح کر لو، اور کچھ پانی اور چراگاہ ان کے حوالے کر دو، انہوں نے



قبول نہ کیا۔ میں نے تلوار نکالی اور ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ ایک بہت بڑی تعداد جو تقریباً اسی ہزار نفر ہوں گے میں نے قتل کئے، باقی ماندہ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو امان طلب کی اور صلح کی درخواست کی، بالآخر وہ ایمان لے آئے اس طرح سے ان کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے۔ اور بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اب تک میں ان کے ہمراہ اور ان کے کام اور معاملات سلجھا رہا ہوں۔

عرفہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! خدا آپ کو اور علیؑ کو جزائے خیر دے، پھر وہ خوشی خوشی واپس پلٹ گیا۔ (اور وہ دن نوروز کا تھا)

(البتین فی امرہ امیر المؤمنین: ۶۸۔ ۷۰ باب ۹۰، بحار الانوار: ۳۹/۱۶۸ حدیث ۹، عیون المعجزات: ۳۷۷-۳۹)

## علیؑ شریک نبوت ہوئے

(۱۲۹/۲۲۲) ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں:

ایام صادق جعفر بن محمدؑ سے روایت ہوئی ہے کہ آپؑ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ کے رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے علیؑ حضورؐ کے ساتھ ایک نور دیکھتے تھے اور ایک آواز سننے لگتی تھی جبکہ دوسرے لوگ اس کو سننے سے عاجز تھے۔ (شرح نہج البلاغہ: ۳/۳۷۵)

رسول خداؐ نے علیؑ سے فرمایا: اگر تقدیر میں یہ نہ ہوتا کہ میں آخری پیغمبر ہوں تو تو میرے ساتھ نبوت میں شریک ہوتا۔ اب اگرچہ تو پیغمبر نہیں ہے لیکن پیغمبر کے وصی اور اس کے وارت ہو، بلکہ تمام اوصیاء کے سردار اور تمام پرہیزگاروں کے پیشوا ہو۔ (شرح نہج البلاغہ: ۱۳/۲۱۰)

## علیؑ اور روز قیامت

(۱۳۰/۲۲۳) اہل سنت کے عالم خوارزمی کتاب فضائل میں انس سے نقل کرتے ہیں:

رسول خداؐ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو علیؑ ابن ابی طالبؑ کو مران سات صفوں اور ناموں سے ندا دی جائے گی۔ اے صدیق، اے راہنما، اے عبادت گزار، اے ہدایت کرنے والے، اے ہدایت یافتہ، اے جوانمرد اور اے علیؑ! تو اور تیرے شیعہ حساب

کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ (مائتہ مقبہ: ۵۰، مناقب خوارزمی: ۳۱۹، غایۃ المرام: ۵۸۷)  
حدیث ۸۸ مشارق الانوار: ۶۸)

## آدمؑ سے پہلے علیؑ کی خلقت

(۱۳۱/۲۲۳) سید ہاشم بحرانی نے تفسیر برہان میں روایت کی ہے کہ ابن مہران نے عبد اللہ

بن عباس سے خدا کے فرمان

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (سورہ صافات: آیت ۱۶۵ اور ۱۶۶)

کی تفسیر کے متعلق سوال کیا۔ تو ابن عباس نے کہا: ہم رسولؐ خدا کی خدمت میں موجود تھے۔ کہ علیؑ ابن ابی طالب آگئے۔ جیسے ہی پیغمبر اکرمؐ کی نگاہ علیؑ پر پڑی، تو آپ مسکرانے لگے اور فرمایا:-

مرحبا بمن خلقه الله قبل آدم اربعين الف عام

”خوش آمدید اے وہ جس کو خدا نے آدمؑ سے چالیس ہزار سال پہلے پیدا کیا“

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ! کیا کوئی بیٹا باپ سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں! خدا نے مجھے اور علیؑ کو آدمؑ سے اتنی مدت پہلے پیدا کیا جو ذکر ہو چکی ہے۔ اس طرح کہ خدا نے ایک نور پیدا کیا۔ اور اسے دو حصوں میں برابر تقسیم کر دیا، آدھے حصے سے مجھے اور آدھے حصے سے علیؑ کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، پھر کائنات کو بنایا اور مخلوقات کو پیدا کیا۔ میرے اور علیؑ کے نور کے ذریعے سے ظلمت اور تاریکی کو دور کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں عرش کے دو سیدھی طرفوں میں قرار دیا، پھر فرشتوں کو پیدا کیا۔ ہم خدا کی تسبیح کرتے تھے تو وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ ہم نے تحلیل کی یعنی خدا کی وحدانیت کا اعتراف کیا۔ تو انہوں نے تہلیل کہی۔ ہم نے تکبیر کہی تو انہوں نے تکبیر کہی۔ فرشتوں نے یہ سب کچھ مجھ اور علیؑ سے سیکھا۔ ابتداء ہی سے خدا کے علم ازلی میں یہ تھا کہ میرے اور علیؑ کے دوستوں کو جہنم میں نہ ڈالے گا جبکہ میرے اور علیؑ کے دشمنوں کو بہشت میں جبکہ نہ دے گا۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے لوہوں گے میں جو فردوس برین کے آب حیات سے پر ہوں گے۔ علیؑ ابن ابی طالبؑ کے شیعوں میں سے ہر ایک کے والدین جو پاکدامن اور پرہیزگار ہیں اور خدا کی توفیق ان کے شامل حال ہے جس وقت ان میں سے کسی کا باپ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو ان فرشتوں میں سے جن کے ہاتھ میں جنت کے آفتابے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے، وہ مؤمن باپ جس برتن سے پانی پینا چاہتا ہے اس میں بہشتی پانی ڈال دیتا ہے، اس کے اثر سے اس کے دل میں ایمان کے ایسے شگوفے پھوٹتے ہیں۔ جیسے زمین میں کوئی فصل اگتی ہو اور بڑھتی ہو۔

اور وہ اپنے پروردگار، اس کے رسولؐ، وہی پیغمبر، میری بیٹی زہراءؑ، حسنؑ، حسینؑ اور امام حسینؑ کی اولاد سے دوسرے آئمہ اطہار کی طرف سے ایک روشِ دلیل اور برہان رکھتے ہیں۔ ابن عباس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اماموں سے آپ کی مراد کون ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا:

احد عشر منی و ابوہم علی ابن ابی طالب  
 ”وہ گیارہ نفر مجھ سے ہیں اور ان کا باپ علیؑ ابن ابی طالبؑ ہے“  
 پھر آپؐ نے فرمایا:

الحمد و للہ الذی جعل محبة علی و الایمان سبباً  
 یعنی

سبباً لو حول الجنة و سبباً للفرز من النار  
 ”تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لئے جس نے علیؑ کے ساتھ محبت اور ان پر ایمان کو دو وسیلے بنایا۔ یعنی ایک جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ اور ایک آتش جہنم سے بچنے کا وسیلہ“



(تفسیر برہان: ۳/۳۹ حدیث ۳، حلیۃ الارباب: ۲/۱۱ حدیث ۳، بحار الانوار: ۲۳/۸۸ حدیث ۴)

## علیؑ اور آداب سلام

(۱۳۲/۲۲۵) کتاب قرب الاسناد میں امام صادقؑ سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے والد

بزرگوار امام باقرؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

رسول خدا نے علیؑ کو ایک جنگ کے لئے بھیجا، پھر حضور کو ایک ایسا کام پیش آیا،

جس کے لئے علیؑ کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا۔ مقدار کو ان کی طرف روانہ کیا اور فرمایا:

خیال رکھنا کہ علیؑ کو پیچھے یا دائیں بائیں طرف سے آواز نہ دینا، بلکہ ان سے تھوڑا سا آگے جا

کر واپس پلٹنا اور ان کی طرف منہ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا، رسول خدا نے یہ

فرمایا ہے۔ (قرب الاسناد: ۱۲۳، بحار الانوار: ۶۷/۲۲۳ حدیث ۱۳ اور ۳۲۵ صفحہ حدیث ۲)

مؤلف فرماتے ہیں: اس روایت سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جب یہ اعتقاد ہو کہ ان کی

حیات اور موت کے بعد والے ایام میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ان پر سوائے سامنے کی طرف

سے سلام کرنا کراہت رکھتا ہے۔ مگر وہ مقام جہاں خود ان کی طرف سے کوئی روایت وارد ہوئی

ہو کہ فلاں طرف سے سلام کیا جاسکتا ہے۔

## علیؑ جب اللہ ہیں

(۱۳۳/۲۲۶) شیخ صدوق امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں اور آپ حضرت امیر المومنینؑ

سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

انا علم الله وانا قلب الله الواعی ولسان الله الناطق وعین الله

الناظرة وانا جنب الله وانا ید الله

(التوحید: ۱۶۳ حدیث ۱، بحار الانوار: ۲۳/۱۹۸ حدیث ۲۵)

”میں خدا کے علم کو ظاہر کرنے والا ہوں، میں خدا کا وہ دل ہوں جس میں

اس نے رازوں کو رکھا ہوا ہے، میں خدا کی بولتی ہوئی زبان ہوں، میں اس

کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوں، میں جب اللہ ہوں کہ جس کی طرف تمام مخلوق کو توجہ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ خدا کا قرب میرے بغیر کسی کو حاصل نہ ہوگا اور میں خدا کا طاقتور ہاتھ ہوں“

مؤلف فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں جو نسبتیں ذکر ہوئی ہیں ان میں احترام کا پہلو پایا جاتا ہے، وگرنہ ذات مقدس پروردگار اعضاء اور اجزاء سے منزہ اور پاک ہے۔

## شیعیان علیؑ کے لیے فرشتوں کا استغفار کرنا

(۱۳۳/۲۲۷) ابن شاذان کتاب المایۃ منقہۃ میں ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں:

رسولؐ خدا نے فرمایا: خدا نے چوتھے آسمان پر ایک لاکھ فرشتے اور پانچویں آسمان پر تیس لاکھ فرشتے پیدا کئے، جبکہ ساتویں آسمان پر ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا سر عرش خدا کے نیچے اور پاؤں زمین کے نیچے ہیں۔ نیز خدا نے ایسے فرشتے بھی پیدا کئے ہیں کہ جن کی تعداد عرب کے دو بڑے قبیلے ربیعہ اور مضر کے افراد کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ ان کا کھانا پینا صرف یہ ہے کہ وہ امیر المومنینؑ اور ان کے دوستوں پر درود بھیجتے ہیں علیؑ کے گنہگار شیعوں اور موالیوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

(المایۃ منقہۃ: ۱۶۳ منقبت ۸۸، بحار الانوار: ۲۶۰/۱۳۹ حدیث ۲۲، غایۃ المرام: ۱۹ حدیث ۲۱)

## جنت عدن اور شیعیان علیؑ

(۱۳۵/۲۲۸) ابن شاذان حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے اور آپ نے اپنے اباؤ اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسولؐ خدا نے فرمایا:

جب خدا نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اسے حکم دیا، اپنے آپ کو زینت دو اور آراستہ کرو۔ اس نے اپنے آپ کو مزین کیا اور اپنے اوپر ناز کرنے لگی اور غرور و تکبر کا شکار ہو گئی۔ خداوند رحمان نے اس سے فرمایا: آرام کر، میری عزت و جلالت کی قسم، میں نے تجھے مومنوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ پس تو اور تجھ میں رہنے والے خوش قسمت ہیں۔ پھر فرمایا: یا علیؑ!

میں جنت عدن کو صرف تیرے اور تیرے شیعوں کے لئے پیدا کیا ہے۔

(ماہ منقہ: ۱۶۵/منقبت، ۹۰، غایۃ الہرام: ۵۸۷: حدیث ۹۰)

(۱۳۶/۲۲۹) خوارزمی نے کتاب مناقب میں ابن عباس سے نقل کیا ہے:

رسول خداؐ نے فرمایا: جو کوئی بھی علیؑ کے ساتھ مصافحہ کرے گویا کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے اور جس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا گویا کہ اس نے عرش کے ارکان کے ساتھ مصافحہ کیا اور جو بھی علیؑ کو گلے ملے گویا کہ وہ مجھ سے گلے ملا اور جس نے مجھے گلے لگایا گویا اس نے تمام انبیاء کو گلے لگایا ہے۔ جو کوئی محبان علیؑ میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت اور لطف کے ساتھ مصافحہ کرے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور حساب کے بغیر اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔

(مناقب خوارزمی: ۳۱۶ حدیث ۳۱۷، غایۃ الہرام: ۵۸۳ حدیث ۳۷، ماہ منقہ: ۶۹: منقبت ۳۹)

## لوح و قلم

(۱۳۷/۲۳۰) شیخ صدوق کتاب امالی میں امام رضاؑ سے اور آپ اپنے اباؤ اجداد سے اور وہ رسول خداؐ سے اور انہوں نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے میکائیل سے، اس نے اسرافیل سے، اس نے لوح سے اور لوح نے قلم سے نقل کیا ہے کہ خدا تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ولایۃ علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من ناری  
”علیؑ ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے جو کوئی بھی اس میں داخل ہو گیا  
وہ میری آگ سے محفوظ ہو گیا“

(امالی صدوق: ۱۹۵ حدیث ۹ مجالس: ۳۱، جامع الاخبار: ۱۱۵، عیون اخبار الرضاؑ: ۱۳۵/۲ حدیث ۱)

## ولایت علیؑ اور دوزخ

(۱۳۸/۳۱) اسی کتاب میں ابن عباس کی روایت رسول خداؐ سے نقل ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا:



لوا اجتماع الناس كلهم على ولاية على لما خلقت النار

(امانی صدوق: ۵۲۳ حدیث ۷، مجلس ۹۴، بحار الانوار: ۳۹/۲۵۴۷ حدیث ۴)

”اگر تمام لوگ علیؑ کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو میں دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا“

مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے سمجھا جاتا ہے کہ عذاب اور آگ صرف امیر المومنین اور آئمہ اطہار کے دشمنوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ ہم ولایت کی نعمت پر جو خدا نے ہمیں عنایت فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے اور ولایت کے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔

### محبت علیؑ

(۱۳۹/۲۳۲) ابن شہر آشوبؒ ”کتاب فضائل میں اہل سنت کی طرف سے ابن عباسؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں:

میں نے پیغمبر اکرمؐ سے عرض کیا: کیا آگ سے گزرنے کے لئے کسی سندی ضرورت ہوگی؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں! میں نے سوال کیا، وہ سندی کیسی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: حب علی ابن ابی طالبؑ ”وہ علی ابن ابی طالبؑ کی محبت ہے“

(مناقب ابن شہر آشوبؒ: ۱۵۶/۲، بحار الانوار: ۳۹/۲۰۲)

### سخاوت کا انوکھا انداز

(۱۴۰/۲۳۳) علامہ مجلسیؒ بحار الانوار میں فرماتے ہیں:

امیر المومنین ایک مشرک کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اس نے جنگ کی حالت میں حضرت سے تلوار مانگ لی۔ علیؑ نے فوراً تلوار اسے دے دی۔ اس مشرک آدمی نے بڑا تعجب کیا اور عرض کرنے لگا: اے ابو طالبؑ کے بیٹے! اس حال میں کہ جنگ ہو رہی ہے اور آپ مجھے تلوار دے رہے ہیں؟ آپؑ نے فرمایا: اے فلاں! تو نے میری طرف دست سوال بڑھایا، اور کریمی اس کو نہیں کہتے کہ سائل کے ہاتھ کو خالی پلٹا دیا جائے۔ کافر نے جب اس صورت حال

کا مشاہدہ کیا تو اپنے آپ کو حضرت کے سامنے زمین پر گرا دیا اور کہا: یہ طریقہ کار اہل دیانت اور دیندار لوگوں کا ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا۔

(مناقب ابن شہر اشوب: ۲/۸۷، بحار الانوار: ۳۱/۶۹)

### گناہ نقصان نہیں دیتا

(۱۳۱/۲۳۳) خوارزمی انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا:

حب علی ابن ابی طالب حسنة لا تضر معها سيئة ويغضه سيئة لا

تنفع معها حسنة. (مناقب خوارزمی: ۵۷ حدیث ۷۵، مصباح الانوار: ۱۲۷، بیاض المودة: ۹۱)

”علی ابن ابی طالب کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کی دشمنی ایسی بدی اور گناہ ہے جس کی موجودگی میں کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی“

### ہمسائیگی خدا

(۱۳۲/۲۳۵) شیخ طوسی کتاب امالی میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ

رسول خدا نے فرمایا:

جو کوئی چاہتا ہے کہ خدا اس کا ہمسایہ ہو اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہے تو اسے

چاہیے کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے اور ان کی ولایت کو قبول کرے۔

(امالی طوسی: ۲۹۵ حدیث ۲۷، مجلس ۱۱، بحار الانوار: ۳۹/۲۳۷ حدیث ۶، بشارۃ المصطفیٰ: ۱۸۷)

### رازِ خوشی

(۱۳۳/۲۳۶) شیخ صدوق کتاب امالی میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

رسول خدا نے فرمایا: جو کوئی خوش ہونا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمام خوبیاں اور نیکیاں

اس کے لئے فراہم کر دے، تو اسے چاہیے کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت اور سر

پرستی کو قبول کرے۔ اس کے دوستوں کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں کو دشمن رکھے۔

(امالی صدوق: ۵۶۰ حدیث ۷ مجلس ۷۲، بحار الانوار: ۲۷/۵۵ حدیث ۹، بشارۃ المصطفیٰ: ۱۱۵۰ اور ۱۷۶)

## کنارۂ جہنم

(۱۳۴/۲۳۷) شیخ طوسی کتاب امالی میں صالح بن میثم قمار سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: میں نے میثمؑ کی کتاب میں یہ حدیث پڑھی کہ وہ کہتا ہے! ایک رات میں امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا: کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دل کا خدا نے ایمان کے لئے امتحان نہ لیا ہو، مگر یہ کہ اپنے دل میں ہماری دوستی رکھتا ہو، اور اس کا احساس کرتا ہو اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پر خدا غضبناک نہ ہوا ہو مگر یہ کہ وہ ہماری دشمنی اپنے دل میں رکھتا ہو۔ ہم اپنے دوستوں کی دوستی کے ساتھ خوشنود ہوتے ہیں اور دشمن کی دشمنی کو جانتے ہیں۔ ہمارے دوست ہماری دوستی کی وجہ سے خدا کی اس رحمت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جس کا وہ ہر روز انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے اپنی بنیاد ایسے کمزور ستونوں پر رکھی ہوئی ہے جو نہر کے ایسے کناروں پر ہیں، جن کو پانی نے کھوکھلا کر دیا ہے گویا یہ کنارہ جہنم کی آگ میں گر چکا ہے۔

گویا خدا کی رحمت کے دروازے اہل رحمت کے لئے کھل چکے ہیں، رحمت پروردگار ان کو مبارک ہو۔ اہل جہنم کتنے بد قسمت اور بد حال ہیں اس بری جگہ کی وجہ سے جو ان کو نصیب ہوئی ہے۔ بے شک خدا کے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ہماری محبت میں کوتاہی کی ہو یہ سب کچھ اس نیکی کی وجہ سے ہے جو خدا نے اس کے دل میں قرار دی ہو، اور جو ہمارے دشمن کو دوست رکھتا ہو وہ ہرگز ہمارے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں ہیں جیسے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے۔

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (سورۃ الزاب: آیت ۴)

”خدا نے کسی مرد میں دو دل نہیں بنائے“

جو کوئی ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کی محبت ہمارے ساتھ اس طرح خالص ہوتی



ہے۔ جیسے خالص سونا ہو جس میں کسی قسم کی آلودگی اور ملاوٹ نہ ہو۔

ہم ایک بخشے والی اور بزرگوار قوم ہیں۔ ہماری اولاد پیغمبروں کی اولاد ہے میں خدا کے اوصیاء کا وصی ہوں، ان کے تمام امور میرے سپرد ہیں، میں خدا اور رسولؐ کا گروہ ہوں ظلم و ستم کرنے والا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔

جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دل میں ہماری محبت کے حال کو جانے تو وہ اپنے دل کا امتحان کرے، اگر اس دل میں ان کی دوستی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو جمع کیا ہے تو سمجھ لے کہ خدا جبرائیل اور میکائیل اس کے دشمن ہیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ: آیت ۹۸)

”بے شک خدا کافروں کا دشمن ہے“

(امالی طوسی: ۱۲۸: حدیث ۵۶، بحار الانوار: ۲۷/۸۳: حدیث ۲۳، تاویل لآیات: ۲/۳۳۶: حدیث ۱)

### سفید چہرے والے

(۱۳۳/۲۳۸) ابن شاذان کتاب المیۃ منہجۃ میں اہل سنت کی طرف سے ابوذرؓ سے نقل

کرتے ہیں:

پیغمبر اکرمؐ نے امیر المؤمنینؓ کی طرف نگاہ کی اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:-

هذا خير الاولين من اهل السموات والارضين هذا سيد الوصيين

وام المتقين وقائد الغر المحجلين

”یہ شخص آسمانوں اور زمینوں میں سے جو پہلے گذر چکے ہیں، ان سب سے

بہتر و افضل ہے، سچ بولنے والوں کا سردار ہے، اوصیاء کا سردار ہے، متقی

لوگوں کا امام ہے اور سفید چہرے والوں کا رہبر ہے“

جب قیامت برپا ہوگی تو علیؓ ایک بہشتی اونٹ پر سوار میدان محشر میں وارد ہوں گے

اور قیامت کے میدان کو اپنے نور کے ساتھ نورانی کر دیں گے، ان کے سر مبارک پر ایک تاج

ہوگا جو زبرد اور یا قوت کے ساتھ آراستہ اور مزین ہوگا۔

فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے، یہ مقرب فرشتوں میں سے کوئی ہے۔ پیغمبر کہیں گے یہ پیغمبر مرسل لگتا ہے، عرش کے اندر سے ندا آئے گی۔

هذا الصديق الاكبر هو اوصى حبيب الله هذا علي ابن ابي طالب  
”یہ صدیق اکبر اور اللہ کے حبیب کا وصی ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے،  
پس علی جہنم کے اوپر کھڑے ہو جائیں“

اپنے دوستوں کو اس سے نکالتے جائیں گے اور دشمنوں کو اس میں داخل کرتے جائیں گے، اس کے بعد بہشت کے کنارے پر آئیں گے، جن لوگوں نے اس کی ولایت کو قبول کیا ہوگا ان کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔

(ملک مقبہ: ۸۸، منقبت: ۵۵، بحار الانوار: ۲۷/۳۱۵ حدیث ۱۳)

## وہ صراط مستقیم ہے

(۱۳۶/۲۳۹) شیخ صدوق کتاب امالی میں حضرت امام باقرؑ سے اور حضرت اپنے آباؤ اجداد سے نقل کرتے ہیں:

رسولؐ خدا نے فرمایا: جو کوئی چاہتا ہے کہ پل صراط سے تیز ہوا کی طرح عبور کرے، اور حساب کے بغیر بہشت میں داخل ہو، اسے چاہیے میرے ولی، مددگار اور تمام امت پر میرے جانشین یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرے اور جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ اس سے تعلق ختم کر لے اور اس کی ولایت کو ترک کر دے۔

مجھے اپنے رب کی عزت اور جلالت کی قسم، علیؑ خدا کی رحمت کا دروازہ ہے، جس سے داخل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ ہدایت کا صراط مستقیم ہے، وہ ایسی شخصیت ہے جس کی ولایت کے بارے میں خدا قیامت کے دن سوال کرے گا“

(امالی صدوق: ۳۶۳ حدیث ۴، مجلس: ۴۸، بحار الانوار: ۳۸/۹۷ حدیث ۱۶)

## دوست اور دشمن

(۱۳۷/۲۴۰) ابن شاذان کتاب مایۃ مہذبہ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

رسول خدا نے علیؑ سے فرمایا: یا علیؑ جبرائیل تیرے متعلق ایسی خبر لایا ہے جس نے میری آنکھ کو روشن اور دل کو شاد کر دیا ہے۔ اس نے میرے لئے نقل کیا کہ خدا نے فرمایا ہے: میری طرف سے محمد کو سلام دو اور انہیں خبر دو کہ علیؑ امام ہدایت ہے، تاریکی میں چمکتا ہوا چراغ اور اہل دنیا پر حجت خدا ہے، وہ صدیق اکبر اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ جو کوئی بھی اس کی اور اس کے بعد والے جانشینوں کی ولایت کو قبول کرے اور اس کے حکم کی اطاعت کرے، میں اسے دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالوں گا اور جو کوئی اس کی ولایت کو چھوڑ دے، اس کے اور اس کے بعد والے جانشینوں کے حکم کی اطاعت نہ کرے اسے بہشت میں داخل نہ کروں گا۔ اور یہ میرا اہل فیصلہ ہے کہ جہنم کے تمام طبقوں کو اس کے دشمنوں سے اور بہشت کو اس کے دوستوں سے پر کروں۔

(مایۃ مہذبہ: ۵۷۷ منقبت ۳۱، بحار الانوار: ۱۱۳/۲۷۷ حدیث ۸۸، غایۃ المرام: ۳۵ حدیث ۵۲ اور ۱۶۶ حدیث ۵۳)

## جانشین امت

(۱۳۸/۲۴۱) ابوالحسن بن شاذان کتاب مایۃ مہذبہ میں امیر المومنینؑ سے نقل کرتے ہیں:

آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم، رسول خداؐ نے مجھے اپنی امت میں اپنا جانشین بتایا ہے۔ لہذا میں ان کے بعد امت رسولؐ پر خدا کی حجت ہوں، بے شک میری ولایت تمام اہل آسمان پر ایسے واجب کی گئی ہے، جیسے اہل زمین پر فاجب کی گئی ہے، فرشتے ہمارا ذکر کرتے ہیں جو خدا کے نزدیک ان کی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ اے لوگو! میری پیروی کرو تا کہ تمہیں ایسے راستے کی راہنمائی کروں جس میں تمہارے لئے رشد اور کمال ہے۔ میں تمہارے پیغمبر کا وصی ہوں، میں مومنوں کا پیشوا ان کا حاکم اور ان کا صاحب اختیار ہوں، میں اپنے شیعوں کو بہشت کی طرف راہنمائی کروں گا اور دشمنوں کو آگ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ میں رسول خداؐ کے حوض اور



پرچم کا صاحب ہوں، اور ان کے مقام شفاعت کا مالک ہوں۔

انا والحسن والحسين وتسعة من ولدالحسين خلفاء الله في ارضه

وحجج الله على بريته

”میں حسن، حسین اور حسین کی اولاد سے نو بیٹے اللہ کی زمین میں اس کے

خلفاء اور اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہیں“

(ملیہ مہذبہ: ۵۹: منقبت ۳۲، غلیہ المرام: ۱۸: حدیث ۱۱۲ اور ۲۵: حدیث ۵۳)

## عقیق کے دو پہاڑ

(۱۲۹/۲۳۲) اسی کتاب میں اہل سنت کی ایک روایت سلمان فارسی اور ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں رسول خداؐ نے فرمایا:

میں خدا کے اتنا قریب ہوا کہ فاصلہ دو کمانوں کے برابر یا کمتر ہو گیا، خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، وہ عقیق کے دو پہاڑ تھے۔ خدا نے فرمایا: اے احمد! میں نے تجھے اور علیؑ کو اپنے نور سے پیدا کیا اور ان دو پہاڑوں کو علیؑ ابن ابی طالب کے نور جمال سے پیدا کیا ہے، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، میں نے ان دونوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بندوں کے درمیان علامت اور نشانی بنیں۔ اور اس کے ساتھ مؤمن پہچانیں جائیں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ جو کوئی عقیق پہنے گا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ علیؑ ابن ابی طالب کی ولایت رکھتا ہو۔ (ملیہ مہذبہ: ۶۸: منقبت ۹۳، غلیہ المرام: ۷: حدیث ۱۳)

## قاضی سماعہ

(۱۵۰/۲۳۳) شیخ صدوق کتاب امالی میں حسن بن یحییٰ دھقان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

میں بغداد کے قاضی سماعہ کے پاس موجود تھا، اہل بغداد کے بزرگوں میں سے ایک مرد اس کے پاس آیا، اس نے کہا: خدا قاضی کے معاملہ کی اصلاح کرے، میں گزشتہ سالوں

میں حج پر مشرف ہوا تھا، واپس لوٹتے وقت میرا گذر کوفہ سے ہوا، میں اس شہر کی مسجد میں داخل ہوا، وہاں کھڑا تھا۔ کہ نماز پڑھوں، اچانک میرے سامنے عرب کی ایک دیہاتی عورت کھلے بال اور لمبا قمیض پہنے ہوئے آگئی اور اونچی آواز کے ساتھ اس نے کہا، اے وہ ہستی! جو آسمانوں میں مشہور، زمین میں معروف، آخرت میں بلند آواز، اور دنیا میں بھی مشہور ہو۔ ظالموں، شنگروں اور بادشاہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ تیرے نور کو بجھا دیں اور تیرے ذکر کو بند کر دیں، لیکن خدا نے تیرے ذکر اور آواز کو بلند کیا اور تیرے نور کو اس سے زیادہ روشنی اور کمال عطا کیا، اگرچہ مشرکین کو یہ ناپسند تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا: اے کثیر خدا! کس کو ان اوصاف کے ساتھ یاد کر رہی ہو؟ اس نے کہا میری مراد امیر المومنین ہیں، میں نے کہا: تیری نظر میں کون سے امیر المومنین ہیں؟ اس نے کہا:

علی ابن ابی طالب الذی لا یجوز التوحید الا بہ وبولولایتہ  
 ”علی ابن ابی طالب“ وہ جس کو مانے بغیر اور اس کی ولایت کا اعتراف کئے  
 بغیر توحید حاصل نہیں ہوتی“

راوی کہتا ہے، اس گفتگو کے بعد میں اس کی طرف متوجہ ہوا، تاکہ اسے دیکھوں،  
 لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔

(امالی صدوق: ۴۹۳ حدیث ۱۳، مجلس ۶۳، بحار الانوار: ۳۹/۱۶۳ حدیث ۲، روضۃ الواعظین: ۱۲۰)

## سات پل صراط

(۱۵۱/۴۴۳) کرم چکی کتاب کنز الفوائد میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

رسول خدا نے فرمایا: جب قیامت پر پابوگی تو خدا، مالک فرشتہ جو دوزخ پر موکل ہے کو حکم دے گا کہ جہنم کے سات طبقوں کی آگ کو روشن کرے، رضوان فرشتہ جو بہشت پر مہین ہے حکم فرمائے گا کہ آٹھ جنتوں کو آراستہ اور مزین کرے میکائیل کو حکم فرمائے گا کہ جہنم پر پل صراط تیار کرے، جبرائیل کو حکم دے گا کہ عرش کے نیچے عدالت کا ترازو لگائے اور حضرت محمدؐ سے

فرمائے گا کہ اپنی امت کو حجاب کے لئے تیار کرے۔ اور ان کو نزدیک کرے، پھر خدا تعالیٰ حکم دے گا کہ صراط کے سات پل بنائے جائیں۔ جن میں سے ہر ایک کی لمبائی سترہ ہزار فرسخ ہو ان میں سے ہر ایک پل پر ستر ہزار فرشتے بیٹھیں ہوں گے جو اس امت کے مردوں اور عورتوں سے اس پل صراط پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ کی ولایت اور محمدؐ کی اہل بیتؑ کی محبت کے بارے میں سوال کریں گے، جس نے صحیح جواب دے دیا وہ بجلی کی طرح اس سے عبور کر جائے گا اور جس کے پاس اہل بیتؑ محمدؐ کی محبت نہ ہوگی وہ سر کے بل جہنم میں گر جائے گا اگرچہ ستر صدیقیوں کے برابر ہی اس کے اچھے اعمال کیوں نہ ہوں۔

(تاویل الآیات: ۴۹۳/۲، حدیث ۴، بحار الانوار: ۱/۳۳۱، حدیث ۱۲، تفسیر برہان: ۴/۱۷۱ حدیث ۶)

(۱۵۲/۲۳۵) محمد بن علی حکیم ترمذی جو اہل سنت کے ایک مایہ ناز عالم ہیں، رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

ما رآنی فی هذه الدنيا علی الحقيقة التي خلقتنی لله علیها غیر علی

ابن ابی طالب

”سوائے علیؑ ابن ابی طالبؑ کے اس دنیا میں میری حقیقت سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہے“

## شناخت علیؑ

(۱۵۳/۲۳۶) شرف الدین غنّیؒ کتاب تاویل الآیات میں حسن بن سلمان سے منتخب

البصائر میں اور برسی کتاب مشارق الانوار میں رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا:

یا علی ما عرف الله الا انا وانت وما عرضفی الا الله وانت وما

عرفک الا الله وانا

”یا علی! خدا کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور مجھے خدا کے اور



آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور آپ کو خدا اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا“

(تاویل الآیات: ۱/۲۲۱ حدیث ۱۵، مختصر البصائر: ۱۲۵ مشارق الانوار: ۱۱۲، حنفی: ۱۶۵)

## نورانی پیشانیاں

(۱۵۴/۲۳۷) محمد بن العباس، جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں:  
میں پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچانک علی ابن ابی طالب آ گئے، رسولؐ  
خدا نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور جو کچرا آپؐ نے پہنا ہوا تھا اس سے ان کا چہرہ صاف کیا  
اور فرمایا:

اے ابوالحسن! کیا تجھے وہ خوش خبری دوں جو جبرائیل نے آ کر مجھے دی ہے؟ عرض  
کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا:

ان فی الجنة عینا یقال لها "تسنم" یمخرج منها نهران، لو ان بہما  
سفن الدنیا لجرت

”بے شک جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، اس سے دو نہریں  
نکلتی ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ اگر دنیا کی تمام کشتیاں ان میں ڈال دی جائیں تو  
چل سکتی ہیں۔ تسنیم کے ساحل اور کنارے پر ایسے درخت ہیں، جن کی  
شاخیں تازہ مروارید اور مرجان کی ہیں۔ ان کے پتے زعفران کے ہیں۔ اور  
ان درختوں کے نزدیک نور کے تخت بچھے ہوئے ہیں جن پر ایسے لوگ بیٹھے  
ہوئے ہیں جن کی پیشانیوں پر نور سے لکھا ہوا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالبؑ  
کے دوست اور محبت ہیں“

(ملک: ۵۵: منقبت ۲۹، تفسیر برہان: ۳/۳۴۰ حدیث ۱۰، غایۃ المرام: ۵۸۶ حدیث ۷۸)

## ولایت امیر المومنین

(۱۵۵/۲۳۸) عیاشیؒ اپنی تفسیر میں آیہ شریفہ

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (سورة الرحمن: آیت ۳۹)

”پس اس دن انسانوں اور جنوں کے گناہوں کے متعلق سوال نہ ہوگا“

کی تفسیر میں کہتے ہیں، جو کوئی ولایت امیر المومنینؑ کو قبول کرے، آپ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرے، ان کے حلال کو حلال جانے اور ان کے حرام کو حرام سمجھے، ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ سہوایا عدا گناہوں کا مرتکب ہو اور ان گناہوں سے توبہ نہ کی ہو تو وہ عالم برزخ میں عذاب میں گرفتار ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلے گا تو کوئی گناہ اس کا باقی نہ رہے گا تاکہ اس سے سوال کیا جائے۔

(تفسیر فی: ۲/۳۳۵، بحار الانوار: ۶/۲۳۶، حدیث ۷۷۷ تفسیر برہان: ۳/۲۶۸، حدیث ۱)

## قضاوت علیؑ

(۱۵۶/۳۹) شیخ عباس قمیؒ کتاب سفیدہ البحار میں شرح قاضی سے نقل نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

میں عمر بن خطاب کی طرف سے قاضی مقرر تھا ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور کہتا ہے اے ابوامیہ! ایک مرد نے میرے پاس دو عورتیں بطور امانت رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک آزاد اور دوسری کنیز تھی۔ انہیں میں نے ایک کمرے میں ٹھہرایا ہوا تھا، آج ان کے ہاں ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوئی ہے، دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ بچہ میرا ہے جبکہ بچی کا دونوں انکار کر رہی ہیں۔ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔

وہ کہتا ہے میں ان کے درمیان قضاوت نہ کر سکا اور اس مشکل کو حل نہ کر سکا، لہذا عمر کے پاس آیا اور واقعہ کو بیان کیا۔ عمر نے کہا: تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا: اگر مجھے معلوم ہوتا تو آپ کے پاس نہ آتا۔ عمر نے تمام اصحاب پیغمبر جو وہاں موجود تھے کو حاضر کیا، میں نے یہ قصہ ان کے سامنے بیان کیا، ان سب نے عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کیا اور اس مسئلے کا حل میرے اور عمر کے حوالے کر دیا۔ عمر نے کہا: لیکن میں جانتا ہوں کہ اس مشکل کا حل کس کے پاس ہے، سب نے کہا: گویا علیؑ ابن ابی طالبؑ آپ کی نظر میں ہیں؟ عمر نے کہا: ہاں! انہیں

کہاں تلاش کیا جاسکتا ہے؟ سب نے کہا: کسی کو ان کی طرف بلانے کے لئے بھیجو تاکہ بلا کر لے آئے۔ عمر نے کہا: علی ہاشمی نسب اور بلند مرتبہ و مقام کا مالک ہے۔ علم و حکمت کے تمام آثار اور ذخائر علی ان کے پاس ہیں، اس لئے ہمیں ان کی خدمت میں جانا چاہیے، سب اٹھو اور میرے ساتھ ان کی طرف چلیں، ہم امیر المومنین کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں ایک باغ میں تلاش کر لیا، جہاں وہ اپنے بیچے کے ساتھ زمین کھود رہے تھے۔ اور اس آیت کریمہ۔

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى (سورہ قیامت: آیت ۳۶)

”کیا انسان کا خیال ہے اس کو بیکار پیدا کیا گیا ہے اور اس کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے“

کی تلاوت کر رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے، کچھ دیر سب نے انتظار کیا، آپ کا گریہ ختم ہوا تو ان لوگوں نے اجازت مانگی، حضرت ان کے قریب آئے اور جو قمیض پہنا ہوا تھا اس کی آستینیں اوپر کی ہوئی تھیں، عمر کو مخاطب کیا اور فرمایا: اے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے والے! یہاں کیوں آئے ہو؟ عمر نے عرض کیا: ایک کام سے آیا ہوں اور پھر مجھے کہا کہ مقدمہ حضرت کے سامنے بیان کرو۔ میں نے تمام واقعہ بیان کیا، حضرت نے فرمایا: تو نے اس بارے میں کیا فیصلہ صادر کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے حکم معلوم نہیں تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جب ایسا کہا تو علی نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور فرمایا:

الحکم فیہا ہون من ہذا

”اس مسئلہ میں حکم کرنا اس چیز کے اٹھانے سے آسان تر ہے“

پھر حکم دیا کہ دونوں عورتوں کو حاضر کرو، ان دونوں میں سے ایک عورت کو ایک برتن دیا اور فرمایا: اس برتن میں اپنا دودھ نہچڑے، جب اس نے اپنا دودھ اس میں نکالا تو اس کا وزن کیا گیا، پھر ایک برتن دوسری عورت کو دیا اور فرمایا: اب تو اپنا دودھ اس میں نکال، جب اس نے دودھ نکالا تو اس کا بھی وزن کیا گیا۔ جس عورت کا دودھ ہلکا تھا اس سے کہا: اپنی بچی کو پکڑ لے اور جس کا دودھ وزنی تھا اس کو فرمایا بچہ تو اٹھالے۔ پھر عمر کی طرف منہ کیا اور فرمایا:



اما علمت ان الله تعالى حط المرأة عن الرجل فجعل عقلها و  
ميراثها دون عقله وميراثه وكذلك لبنها دون لبنه  
”کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے عورت کا مرتبہ مرد سے کمتر قرار دیا ہے جس  
طرح اس کی عقل اور میراث مرد کی عقل اور میراث سے کمتر بنائی ہے اسی  
طرح اس کا دودھ مرد کے دودھ سے ہلکا بنایا ہے“

عمر نے کہا: اے ابا الحسن! خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ آپ لوگوں کے حاکم ہوں لیکن  
ملت نے قبول نہ کیا، علیؑ نے فرمایا: اے ابا حفص خاموش ہو جاؤ۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔  
إِنَّ يَوْمَ الْفَيْصِلِ كَانَ مِيقَاتًا (سورہ نباہ: آیت ۱۷)

”فیصلے کا دن لوگوں کی وعدہ گاہ ہے“ (سفید البحار: ۲/۳۳۵)

(۱۵۷/۲۵۰) شیخ صدوق ”کتاب امالی میں ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں:

ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں شریاب ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! فلاں شخص  
سمندری سفر کے ذریعے بہت کم سرمایہ کے ساتھ چین کے ملک گیا اور بہت جلد زیادہ منافع کما  
کر واپس آ گیا ہے۔ اب اس کے رشتہ دار اس سے حسد کرنے لگے ہیں۔ رسول خداؐ نے فرمایا:  
دنیا کی دولت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی سوائے مصیبت کے صاحب دولت کے لئے اور  
کچھ نہ لائے گی۔ جن کے پاس مال و دولت ہے ان پر رشک نہ کرو، مگر جو اپنی دولت کو راہ خدا  
میں خرچ کرتے ہیں۔

کیا تمہیں اس شخص سے مطلع نہ کروں جس کے پاس تمہارے ساتھی کے سرمایہ سے  
کتر سرمایہ تھا۔ لیکن وہ اس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ اور منافع بھی اس سے زیادہ تھا۔ اور وہ  
جو خدا نے اسے جو نیکیاں اور خوبیاں عطا کیں وہ خدا کے خزانوں میں محفوظ ہے؟

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں بھی اس کے متعلق خبر دیں؟

آپؐ نے فرمایا: یہ جو شخص آرہا ہے اس کی طرف دیکھو، جب ہم نے دیکھا تو انصار  
میں سے ایک شخص تھا جس کے بدن پر پرانا لباس تھا اور اس کا قیافہ اور شکل و صورت اتنی

پرکشش نہ تھی، رسولؐ خدا نے فرمایا: یہ خدا کا بندہ آج جس نیکی اور خوبی پر فائز ہوا ہے، اگر اسے تمام اہل آسمان و زمین پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے لئے کمتر حصہ جو آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔

تمام اصحاب نے بڑا تعجب کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے کون سا کام کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: اسی سے دریافت کرو اس نے جو کام کیا ہے خود بیان کرے گا۔ اس وقت سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے۔ اے خدا کے بندے جو کچھ آپ کے بارے میں رسولؐ خدا نے فرمایا ہے تمہیں مبارک ہو۔ آج تم نے کون سا عمل انجام دیا ہے کہ تجھے اتنا ثواب اور اجر عطا ہوا ہے۔

اس نے کہا: میرے خیال میں تو میں نے کوئی خاص ایسا کام نہیں کیا، مگر یہ کہ اپنے گھر سے کام کے لئے نکلا، چونکہ کام کرنے میں دیر ہو چکی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اب کام پر تو نہیں جاسکا ہوں لہذا بہتر ہے کہ اس کی بجائے علیؑ ابن ابی طالبؑ کے چہرہ مبارک کی زیارت کروں، کیونکہ میں نے رسولؐ خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”النظر الی وجہ علی عبادۃ“ (علیؑ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے) اس شخص کی اس بات کو سن کر رسولؐ خدا نے فرمایا:

ای واللہ عبادۃ وای عبادۃ

”ہاں خدا کی قسم عبادت ہے اور کیا خوب عبادت ہے“

اے خدا کے بندے! اپنے گھر سے اس لئے نکلا تا کہ چند دینار اپنے اہل و عیال کے لئے حاصل کرے، وہ تو حاصل نہ کر سکا اور اس بات کو ترجیح دی کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ کی زیارت کرتا ہوں، اس کام کا سبب یہ ہے کہ تو علیؑ کو دوست رکھتا ہے، اس کے فضائل کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے پاس دنیا کے برابر سونا ہو جسے تو راہ خدا میں خرچ کر دے، تجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے راستے میں تو نے جتنے سانس لئے ہیں، ہر سانس کے بدلے میں ہزار آدمیوں کی شفاعت کر سکتا ہے، اور خدا تیری شفاعت کے ذریعے سے ان کو دوزخ کی آگ سے نجات دے گا۔

(امالی صدوق: ۳۳۳ حدیث مجلس ۵۸، بحار الانوار: ۳۸/۱۹۷ حدیث ۵، بشارۃ المصطفیٰ: ۵۷)

مؤلف فرماتے ہیں: ہمارے بعض قابل احترام اساتذہ نے اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیا ہے کہ حضرت کے چہرہ مقدس کی طرف دیکھنا مستحب ہے۔ جیسا کہ روایت نمبر ۱۲۲ کے ذیل میں گذر چکا ہے۔

## علیٰ اور بتولؑ کے فضائل

(۱۵۸/۲۵۱) شیخ فقیہ ابو الفضل شاذان بن جبرائیل قمیؒ کتاب فضائل میں نقل کرتے ہیں: کہ امیر المومنینؑ ایک دن حضرت زہراءؑ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، ان کے درمیان ایک بہترین اور قابل ذکر گفتگو ہوئی، جس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: اے فاطمہؑ! پیغمبر اکرمؐ مجھے تجھ سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ فاطمہؑ نے کہا: کیسے وہ آپؐ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جب کہ میں ان کے دل کا میوہ اور ان کی ایک شاخ ہوں۔ اور میں ان کی ایک ہی بیٹی ہوں؟

علیؑ نے فرمایا: اے فاطمہؑ! اگر میری بات قبول نہیں ہے اور اس کی تصدیق کرنا چاہتی ہو تو آئیں ہم دونوں رسولؐ خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں رسولؐ خدا کی خدمت میں آئے، صدیقہ کبریٰؑ نے بات شروع کی اور رسولؐ خدا کی خدمت میں عرض کی۔ ہم دونوں میں سے کس کو آپؐ زیادہ پسند کرتے ہیں اور دوست رکھتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا:

انت احب وعلی اعز منک

”تو میرے نزدیک محبوب تر ہے اور علیؑ عزیز تر ہے“

اس وقت ہمارے مولا و آقاؑ علیؑ نے فرمایا: کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میں

فاطمہ صاحبہؑ تقویٰ خاتون کا بیٹا ہوں؟

فاطمہؑ نے کہا: میں خدیجہ کبریٰؑ کی بیٹی ہوں۔



علیؑ نے فرمایا: میں صفا کا بیٹا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں سدرۃ المنتہیٰ جو جنت کا بلند ترین مکان ہے کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں تمام جہانوں کا افتخار ہوں۔

فاطمہؑ نے فرمایا: میں اس کی بیٹی ہوں جو خدا سے اتنا قریب ہوا کہ دونوں میں دو

کمانوں یا دو سے بھی کمتر فاصلہ رہ گیا۔

علیؑ نے فرمایا: میں پاکدامن عورتوں کا بیٹا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں نیک اور مومنہ عورتوں کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: جبرائیل میرا خدمت گزار ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میرا خطبہ نکاح آسمان پر راحیل نے پڑھا ہے اور فرشتے گروہ در

گروہ یکے بعد دیگرے میری خدمت کرتے ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: میں اس مکان میں پیدا ہوا ہوں جو بلند مرتبہ ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: رفیع اعلیٰ میں میری شادی ہوئی ہے اور آسمان میں میرا عقد ہوا ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میرے کندھوں پر لواء حمہ ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس کی بیٹی ہوں جسے آسمانوں پر لے جایا گیا۔

علیؑ نے فرمایا: میں اس مرد کا بیٹا ہوں جو نیکو کار اور باکردار مومنوں میں سے ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں خاتم المرسلین کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں ظاہر قرآن کے اور اس کے فرمان کے مطابق تلوار کو کھینچنے والا

اور کافروں کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں باطن قرآن کے علوم رکھنے والی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ درخت ہوں جو طور سینا سے نکلا ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ شجرہ طیبہ ہوں جو ہمیشہ خوش ذائقہ پھل دیتا ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ ہوں جس نے اژدہا کے ساتھ گفتگو کی۔

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ درخت ہوں جس کا پھل حسنؑ اور حسینؑ ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: میں مثنیٰ یعنی سورہ حمد اور قرآن حکیم ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں کریمؑ اور بزرگوار پیغمبر اکرمؐ کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں نباء عظیم یعنی بڑی خبر ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں صادقؑ اور امین پیغمبرؐ کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں خدا کی مضبوط رسی ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس کی بیٹی ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر اور برتر ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میں جنگوں کا شجاع شیر ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ ہوں جس کے ذریعے سے خدا گناہ گاروں کے گناہ معاف کرے گا۔

علیؑ نے فرمایا: میں انگوٹھی راہ خدا میں دینے والا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں تمام جہانوں کے سردار کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں ہاشم کے بیٹوں کا بڑا اور ان کا سردار ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں محمدؐ کی بیٹی ہوں، جس کو خدا نے لوگوں میں سے چن لیا ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ راہنما ہوں جس سے خدا خوشنود ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں رسولوں کے سردار اور خدا کے پیغمبرؐ کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں اوصیاء کا سردار اور رسولوں کا جانشین ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس رسول عربیؐ کی بیٹی ہوں جو عرب سے بلند ہوا۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ دلیر مرد ہوں جس نے شجاع کفار کو ہلاک کیا ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس احمدؑ کی بیٹی ہوں جو خدا کا پیغمبر ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میں متقی اور پرہیزگار مرد میدان ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس کی بیٹی ہوں جو خدا کے نزدیک شفاعت کرے گا اور اس کی

شفاعت قبول ہوگی۔

علیؑ نے فرمایا: میں جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس محمدؐ کی بیٹی ہوں جس کو خدا نے رسالت کے لئے منتخب کیا ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میں سرکش جنوں کو قتل کرنے والا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس کائنات کے حاکم خدا کے رسولؐ کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں مہربان خدا کا چنا ہوا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں بہترین عورتوں کی سردار ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں اصحابِ رقیم کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس کی بیٹی ہوں جو خدا کی رحمت ہے، جسے اہل ایمان کے لئے

بھیجا گیا اور جو ان کے ساتھ مہربان تھا۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ ہوں جس کو خدا نے اپنے قرآن میں نفسِ محمدؐ قرار دیا ہے

اور فرمایا ہے۔ (وَإِنفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ) (سورہ آل عمران: آیت ۶۱)

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ ہوں جس کے متعلق اسی آیت میں خدا فرماتا ہے۔

وَلِسَاءَ نَا وَلِسَاءَ كُمْ وَابْنَاءَ نَا وَابْنَاءَ كُمْ (سورہ آل عمران: آیت ۶۱)

نِسَاءَ نَا سے مراد میں ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں نے اپنے شیعوں کو قرآن پڑھایا ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ ہوں جس کے چاہنے والوں کو خدا آگ سے بچائے گا۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ ہوں جس کے شیعہ علم کے ساتھ لکھتے ہیں۔

فاطمہؑ نے فرمایا: میں وہ ہوں جس کے علم کے سمندر سے تشنگانِ معرفت چلو بھرتے ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: میرا نام خدا نے اپنے نام پر رکھا ہے، وہ عالی ہے میں علیؑ ہوں۔

فاطمہؑ نے فرمایا: میرا نام بھی خدا نے اپنے نام سے رکھا ہے۔ وہ فاطمہؑ ہے میں

فاطمہ ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں اہل عرفان و معرفت کی زندگی اور سرمایہ حیات ہوں۔



فاطمہؑ نے کہا: میں ان کے لئے راہ نجات ہوں، جو اچھائیوں اور معنویات کی طرف مائل ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: میں بے نیاز خزانہ ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں نیک کلمہ اور اچھائیوں کا مجموعہ ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں (حوامیم) ہوں یعنی وہ سورتیں جا حادیم سے شروع ہوتی ہیں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں طواسین کی بیٹی ہوں۔ یعنی وہ سورتیں جو طواسین سے شروع ہوتی ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ ہوں جس کے وسیلہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔

فاطمہؑ نے کہا: مجھے بھی آدم نے واسطہ قرار دیا ہے، اور اس کی خدا نے توبہ قبول کی۔

علیؑ نے فرمایا: میں نوح کی کشتی کی مانند ہوں، جو بھی اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔

فاطمہؑ نے کہا میں بھی آپ کے اس دعویٰ میں شریک ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ شدید طوفان ہوں جو غرق اور ہلاک ہونے کا باعث ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ غصہ ہوں جو سمندر میں تلاطم اور مد و جزر پیدا کرتا ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ نسیم ہوں جو کشتی کی حفاظت کے لئے بھیجی گئی ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں جنت میں شہد، شراب، دودھ، اور پانی کی نہروں کا شرچشمہ ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ کوہ طور یعنی جبل سینا ہوں جس پر خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام

کی۔ جس کی وجہ سے اسے ایک خاص رفعت و عظمت میسر آئی۔

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ کتاب مسطور ہوں جس کو خدا نے اپنے دست قدرت سے

لکھا ہے۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ کھلا ہوا صحیفہ ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں بیت المعمور ہوں جو اہل آسمان کا کعبہ ہے۔ اور فرشتے جس کے

گرد طواف کرتے ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: میں سقف مرفوع یعنی وہ آسمان ہوں جو عظمت اور بلند مرتبہ ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں آگ اگلنے والا سمندر ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا علم رکھنے والا ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: ابتدائے خلقت سے جتنے رسول بھیجے گئے ہیں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں وہ کنواں ہوں جس کو ترک کر دیا گیا ہے اور وہ محل ہوں جو

مضبوط بلند و بالا ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: شبر و شبیر یعنی حسن و حسینؑ مجھ سے ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: میں رسول خدا کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں نیکو کار اور صاحب تقویٰ ہوں۔

اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے فاطمہؑ سے فرمایا: علیؑ کے ساتھ گفتگو نہ کرو اس کے پاس

محکم دلیل اور واضح برہان ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں اس کی بیٹی ہوں جس پر قرآن نازل ہوا۔

علیؑ نے فرمایا: میں علم سے پر اور شرک سے بری ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں وہ ستارہ ہوں جو چمکتا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: علی قیامت کے دن شفاعت کا مرتبہ رکھتا ہے۔

فاطمہؑ نے کہا: میں قیامت کے دن بلند مرتبہ خاتون ہوں۔ پھر فاطمہؑ نے رسولؐ

خدا سے عرض کیا: آپ اپنے چچا زاد بیٹے کی حمایت نہ کریں۔ ہم دونوں کو تنہا چھوڑ دیں۔

علیؑ نے فرمایا: میں محمدؐ کے بیٹوں کا باپ ہوں اور ان کا منتخب شدہ ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں ان کا گوشت اور خون ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں آسمانی صحیفوں کا مجموعہ ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں شرافت اور بزرگواری کا مجموعہ ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں اپنے پروردگار کا ولی ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا: میں کمزور جسم نیکو کار ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: میں نور خلقت اور اس کی روشنائی ہوں۔

فاطمہؑ نے کہا میں فاطمہ زہراء ہوں۔

اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے فاطمہؑ سے فرمایا: اے فاطمہ! اٹھو! اور میرے چچا زاد کے سر کا بوسہ لو۔ اس جگہ خدا کے چار مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل چار ہزار فرشتوں کے ساتھ علیؑ کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ میرا بھائی راجیل اور درائیل دوسرے چار ہزار فرشتوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے مناظرہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں۔ رسولؐ خدا کے فرمان کے بعد حضرت فاطمہؑ زہراءؑ انھیں اور پیغمبر اکرمؐ کے سامنے امیر المومنینؑ کے سر کو چوما اور کہا۔

یا ابا الحسن! بحق رسولؐ خدا میں بارگاہ پروردگار، آپ کے مقدس مقام اور آپ کے چچا زاد سے عذر خواہ ہوں۔ امام نے عذر کو قبول کیا۔ اور آخر میں فاطمہؑ نے اپنے والد بزرگوار کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ (فرائد: ابن شاذان: ۸۰)

مؤلف اس باب کے آخر میں چند فائدے اور مطالب ذکر کرتے ہیں۔

(۱) محدث نوری کتاب دارالسلام میں سید نعمت اللہ جزائری سے نقل کرتے ہیں:

میں نے ایک مجتہد کو خواب میں دیکھا۔ جو ایک خوبصورت شکل و قیافہ کے ساتھ امام کی قبر کی زیارت کر کے نکل رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا: کس عمل نے آپ کو اس مقام و مرتبہ تک پہنچایا ہے، میری بھی راہنمائی فرمائیں، تاکہ میں بھی اس عمل کو انجام دوں؟

اس مجتہد نے فرمایا: ہمارے وہ اعمال جس کا آپ مشاہدہ کیا کرتے تھے، ان کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جس چیز نے ہمیں فائدہ پہنچایا اور اس مقام تک پہنچایا جس کا آپ نے اب مشاہدہ کیا ہے وہ اس قبر والے آقا امیر المومنین کی محبت اور معرفت ہے۔



(۲) شافعی سے کسی نے امیر المؤمنینؑ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا: میں اس عالی مرتبت مرد کے بارے میں کیا کہوں، جن کے فضائل و کمالات ان کے دوستوں نے ڈر اور خوف اور دشمنوں نے بغض و کینہ کی وجہ سے چھپائے اس کے باوجود ان کے فضائل مشرق و مغرب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ (مشارق الانوار: ۱۱۱)

سید تاج الدین عالمی اس مطلب کو اشعار میں بیان کرتے ہیں۔

اشعار کا ترجمہ:

فضائل آل محمدؐ دوستوں نے خوف کی وجہ سے اور دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپائے۔

اور ان دو سے جو تھوڑے سے بچ گئے تھے خدا نے اسی کم مقدار سے آسمانوں اور زمین کو بھر دیا۔

(۳) توماس کاریل ایک نصرانی فلسفی کتاب ”الابطال“ میں علیؑ کی فضیلت اور برتری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے:

علیؑ کے ساتھ دوستی اور عشق رکھنا مجبوری بن گیا ہے، بے شک وہ ایک ایسا با شرافت اور بلند مرتبہ جو ائمہ دین ہے کہ جس کے پاک و جدان سے رحمت و مہربانی اور نیکی و بھلائی کی روشنی نے ہر طرف کو منور کیا ہوا ہے اور جن کے جوش مارتے ہوئے دل سے دلبری، مردانگی اور جنگ کے شعلے بلند ہوئے ہیں۔ وہ صحرا اور جنگل کے شیر سے بھی شجاع تر تھے، لیکن ان کی شجاعت نرمی اطاعت و مہربانی اور وقار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ صلیبی جنگوں میں مسیحی بہادروں کو ایسے ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کہ انہیں بزدلانہ طور پر مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ اور اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کرنا قبول کر لیا، ان کی ملکوتی روح پاک بدن سے نکلنے سے پہلے جب ان سے ان کے قاتل کے بارے میں بات ہوئی تو فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو میرے اختیار میں ہوگا کہ کیسا سلوک کرنا ہے اور اگر دنیا سے چلا گیا تو اختیار تمہارے پاس ہے، اگر چاہو تو اس سے قصاص لے لو اور اس کی ایک ضرب کے بدلے میں اسے صرف ایک ہی ضرب مارنا اور اگر اسے

معاف کر دو تو تقویٰ سے قریب تر ہے۔

(۴) خلیل نحوی سے کہا گیا کہ کیا دلیل ہے کہ علیؑ تمام زبانوں میں سب کا پیشوا ہے۔ اس نے جواب دیا۔

احتیاج الكل اليه واستغناؤه عن الكل  
”بہترین دلیل یہ ہے کہ سب اس کی طرف محتاج ہیں اور وہ سب سے بے  
نیاز ہیں“

(۵) اس معجزہ کے بیان میں جس کو میری اطلاعات کے مطابق کسی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا اور جس کی بازگشت حضرت کے وجود مبارک کی طرف ہے۔  
شیخ مفید کتاب ”اختصاص“ میں بعض اصحاب سے نقل کرتے ہیں:

حضرت کی ذات مقدس میں ستر خصلتیں جمع تھیں، ان میں ایک سے ان زخموں کا ظاہر نہ ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک حضرت کے جسم اطہر پر لگے تھے۔ تقریباً ایک ہزار زخم تھے جو راہ خدا میں آپ نے برداشت کئے۔ (الاختصاص: ۱۴۰، بحار الانوار: ۴۰/۹۹ حدیث ۱۱۷)

اس مطلب کو ذکر کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام غزوات اور زخم سبب نہ بنے کہ حضرت کے بدن مبارک میں کوئی نقص یا عیب پیدا ہو، بخلاف دوسرے اصحاب کے، کیونکہ ان میں سے کچھ کے تو پہلی جنگ میں ہی بدن میں نقص اور عیب پیدا ہو گیا اور کچھ دوسری جنگ میں عیب اور نقص میں مبتلا ہو گئے، لیکن حضرت باوجودیکہ تمام جنگوں چاہے پیغمبر اکرمؐ اس میں موجود تھے یا نہ میں سب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے اور سب سے زیادہ زخم بدن پر جھیلے، لیکن بدن کے کسی حصے میں کسی قسم کا عیب یا نقص پیدا نہیں ہوا۔

(۶) وہ نصیحت جو حضرتؑ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسنؑ مجتبیٰ کو اپنی عمر کے آخری وقت میں کی، اسے اربلی کتاب ”کشف الغمہ“ میں اس طرح نقل کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا:

میں اپنے باپ کے پاس اس وقت آیا جب حضرت ابن ملجم ملعون کی تلوار کی

ضربت سے تڑپ رہے تھے، آپ کو دیکھ کر مجھ میں طاقت نہ رہی اور غم سے  
 ٹڈھال ہو گیا، آپ نے مجھ سے فرمایا: کیا بے تاب ہو گئے ہو؟ میں نے عرض کیا:  
 کیسے بے تاب نہ ہوں جبکہ آپ کو میں اس درد اور مصیبت میں مبتلا دیکھ رہا ہوں؟  
 آپ نے فرمایا: چاہتے ہو چار ایسی صفات تمہیں یاد دلاؤں۔

اگر ان کا خیال رکھو گے تو دائمی نجات اور سعادت پاؤ گے اور اگر ان کو بھلا دیا تو دار  
 دنیا اور آخرت کی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے! عقل و دانش  
 سے بڑھ کر کوئی دولت و ثروت نہیں ہے، فقر، جہالت کی مانند نہیں ہے۔ وہ خوف  
 جو لوگوں سے علیحدہ رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے غرور و تکبر سے سخت نہیں ہے اور  
 جو شخص خوش اخلاق ہے اس کی طرح کوئی زندگی سے لذت حاصل نہیں کرتا۔

(کشف الغمۃ: ۵۷۲/۱، بحار الانوار: ۷۸/۱۱۱ حدیث ۶)

(۷) مجھے بعض پاکستانی دوستوں نے بتایا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ اس شعر کا تکرار کرتا رہتا تھا۔

سرمد اگر معاملہ حشر با علی است  
 من ضامنم کہ تا بتوانی گناہ کن۔

سرمد اگر معاملہ حشر علیؑ کے ساتھ ہے تو میں ضامن ہوں کہ جتنے گناہ کر سکتے ہو  
 کرو۔ ایک با عظمت اور بزرگ شخص اس کے پاس ظاہر ہوا اور اسے حکم دیا کہ دوسرے مصرع  
 کو تبدیل کر کے اس طرح پڑھو۔

سرمد اگر معاملہ حشر با علیؑ است  
 شرم از رخ علیؑ کن و کمتر گناہ کن

سرمد اگر معاملہ حشر علیؑ کے ساتھ ہے تو علیؑ کے رخ مبارک سے شرم کھاؤ اور گناہ کم  
 کرو۔ وہ بزرگ شخص یہ کہہ کر فوراً نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اسکو سمجھ آئی کہ وہ شخص یا تو خود  
 امیر المومنینؑ تھے یا امام مختصر حضرت مہدیؑ۔

(۸) لفظ علیؑ بہت سے عربی اور فارسی کے ناموں کے ساتھ عدد اور حروف حجابیہ کے لحاظ



سے باقی ہے۔ یعنی سب کا جمع عدد ۱۱۰ ہی نکلتا ہے۔

ان لفظوں میں سے ایک یمنین ہے۔ اس لئے کہ حضرت کے اصحاب، اصحاب یمنین ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمَنِ ۖ فَلَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

(سورۃ واقعہ: آیت ۹۰ اور ۹۱)

”اور اگر اصحاب یمنین میں سے ہے، تو اصحاب یمنین کی طرف تمہارے لیے سلام ہو۔“

لفظ طاق ہے جس کا معنی فرد ہے کیونکہ وہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔

لفظ ”يَسْبَحُ“ ”سبح“ کرتا ہے“ کے معنی میں ہے، کیونکہ حضرت حقیقت ذکر اور تسبیح ہیں۔

لفظ حق ہے، کیونکہ وہ حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ ہے، جہاں وہ ہوں، حق ان

کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔

کلمہ ”نائب مناب“ ایک فارسی لفظ ہے جو ”علی ابن ابی طالب“ کے مطابق ہے کیونکہ وہ پیغمبر اکرمؐ کے نائب اور جانشین ہیں۔

لفظ عطوف کیونکہ وہ اپنے شیعوں اور دوستوں کے ساتھ مہربان ہے۔

کلمہ ”دین الاسلام“، ”حب علی ابن ابی طالب“ کے مطابق ہے۔

کلمہ ”فرقہ“ لفظ ”شیعہ“ کے مطابق ہے اور یہ اشارہ فرقہ ناجیہ کی طرف ہے جو

حدیث پیغمبرؐ میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا:

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي بَعْدِي ثَلَاثًا وَسَمْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةُ نَاجِيَةٍ وَالباقی فی النار

(بخاری الاوار: ۲۸/۲ باب ۱)

”عنقریب میرے بعد میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک فرقہ

جنتی ہے اور باقی جہنم میں ہوں گے۔“

کلمہ ”نجف الاشرف“ ”لفظ“ جنت سرا کے مطابق ہے جو فارسی کا کلمہ ہے۔

اور اس سے عجیب تر یہ کہ قرآن کی سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعہ ہیں اگر ان کے تکراری حروف نکال دیں تو یہ جملہ بنتا ہے۔ ”علی صراط حق نمسکہ“ ”علی راہ حق ہے اور ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔“ (سورہ بقرہ: آیت ۲۳۸)

(۹) امام صادقؑ آیہ شریفہ:

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوَاتِ وَالصَّلٰوَةِ الْوُسْطٰی وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِینَ (سورہ بقرہ

آیہ ۲۳۸)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس صلوٰت کی خدا نے محافظت کا حکم دیا وہ محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ ہیں جبکہ صلوٰۃ وسطیٰ یعنی وسطی نماز سے مراد امیر المومنینؑ ہیں۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا ہے۔ ”وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِینَ“ خدا کے لئے قیام کرو، فرمانبرداری کی حالت میں، جبکہ فرمانبرداری سے آئمہ معصومینؑ کی فرمانبرداری ہے۔

(۱۰) شعراً نے جو خوبصورت اور نورانی اشعار حضرت کے متعلق کہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہم تھوڑے سے ذکر کرتے ہیں۔

ان میں سے کچھ اشعار ہمارے بزرگ آیہ اللہ علامہ حاجی میرزا اسماعیل شیرازی جو حضرت آیہ میرزا شیرازی کبیر کے چچا زاد ہیں نے حضرت کی ولادت باسعادت کے بارے میں کہے ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے۔

❁ زندگی کو راحت و آرام مل گیا، پس اس کی راحت کو اور زیادہ کر بہترین اور خالص ترین شراب کے ذریعے سے جو میری بیماری کے لئے شفا ہے۔

❁ دوست کے ساتھ ملاقات کا شوق مجھے وجد و طرب میں لایا ہے۔ اور زندگی رقیب کی دوری کی وجہ سے خوش مزہ ہو چکی ہے۔

❁ میرے ہننے کی خوشیوں اور مسرتوں پیالوں میں نھر کر مجھے پلا دو۔ دو دو کر کے نہ کے ایک ایک کر کے۔

❁ مکمل مزا دو کے پینے میں ہے۔

مجھے ایسی شراب دو جو پکھلی ہوئی آگ ہو اور جس کا بلند یوں کو چھونے والے شعلوں نے احاطہ کیا ہوا ہو۔

مجھے اور میرے تمام ہم مشربوں کو پلاؤ۔ میری جان کی قسم، جو پیاس کو بجھانے والے ہیں اس دل کے لئے جس کو اشتیاق کی آگ نے بھڑکایا ہوا ہے۔

کس قدر باعث خوشی ہے اس حسین و جمیل ہاتھ سے جام لینا جو زندگی ہے، راحت ہے، آرام و خوشی پیدا کرنے والا ہے۔

پس اس کو صبح و شام اپر کرو اور گھماؤ اس سورج کی طرح جو مکہ کے پہاڑ صرخد پر چڑھ کر ہوتا ہے۔ اور جسے ایسے بلبلوں نے مزین کیا ہے جو ستارے کی مثل ہیں۔

وہ اوقات جو آرام اور شادمانی کے آتے ہیں کتنے خوش آئند ہیں۔ اور دل جس کی خواہش کرتا ہے اس تک پہنچ جائے۔

کمالات اور فضیلتوں کی ماں نے جو کچھ اٹھایا ہوا تھا اسے زمین پر رکھا ہے، اس کی اصل پاک اور فرع بلند مرتبہ ہے۔ وہ ولایت کے بھاری وزن کو اٹھائے ہوئے اور امت کا حاکم ہیں۔

میری جان نے کعبہ میں ایسے نور کا مشاہدہ کیا۔ جو اس آگ کی مانند تھا جو موسیٰؑ نے کوہ طور پر دیکھی تھی۔

جس دن ملکوت اعلیٰ اور بلند آسمانوں کو خوشی نے پر کر رکھا تھا تو میرے کان میں ایسی ندا گونجی جیسی ندا صحرا طویٰ کے کنارہ سے مکہ معظمہ سے آئی ہو۔

سورج نے دنیا کو ایک پورا چاند دیا اور ہم سے سیاہی اور تاریکیوں کو دور کر دیا وہ آواز دے رہا ہے کہ۔ تمہیں ایسے بچے کی خوش خبری دیتا ہوں جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے جیسا ہے اور اس کے نور کی چمک سے تاریکیوں میں راستہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

یہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جو خدا نما مکمل آئینہ لے آئیں ہیں۔



خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرنے والوں کے درمیان اسے سجدہ کرو، اس کے لئے سجدہ کرنے والے فرشتے زمین پر گر گئے ہیں۔

حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے اور پروردگار جہاں کا جمال ظاہر ہو چکا ہے، اہل یقین کے چراغ کی روشنی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور ہدایت کے سورج کے چمکنے کا مقام روشن ہو چکا ہے۔

تاریکی اور ظلمت کی رات ختم ہو چکی ہے۔

کیا فضیلتوں اور خوبیوں کی ماں کو معلوم ہے وہ کیا دنیا میں لائی ہے کیا عقل و دانش کے پستان جانتے ہیں کہ وہ کس کو دودھ پلا رہے ہیں؟

کیا ہدایت کے ہاتھوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس کو بلند کیا ہے کیا وہ صاحب عقل جانتی ہے کہ اس نے کس کو پیدا کیا ہے؟

وہ لیک لسی حقیقت برتر بلندی ہے جو فہم و تفہم میں نہیں آسکتی نہ ابھی نہیں معلوم نہیں ہے ایسا آقا جو از نظر کمالات تمام لوگوں پر برتری حاصل کر چکا ہے، وہ تھا اور کوئی مخلوق نہ تھی اور وہ امام و پیشوا تھا۔

خدا نے اس کے ذریعے سے اپنے گھر کو شرافت بخشی۔ جب اس کا گھر اس کی ولادت گاہ بنا اور اپنے مبارک قدم اس زمین پر رکھے۔

اگر فرض کر لیں کہ خدا کے لئے بیٹا ہے۔ جب کہ وہ اس سے پاک و منور ہے: تو جو اس کے گھر میں آیا ہے سزاوارتر ہے کہ صاحب خانہ کے لئے بیٹا ہو۔ نہ یہ کہ عزیر اور نہ مریم کا بیٹا جیسا کہ یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں۔

وہ محمد مصطفیٰ کے بعد عرش سے لے کر فرش تک خدا کی بہترین مخلوق ہیں۔

اس کے مقام و مرتبہ نے ام القرئی یعنی مکہ معظمہ کو لباس عزت و شرف دیا جو بھی اس میں داخل ہو احرام کے بغیر داخل نہ ہو۔

اس نے تمام کائنات سے وجود میں سبقت لی ہے۔ اور تمام عالم ظاہر اور پوشیدہ کو

آپ مشغول نہ ہوئے یہاں تک کہ علی آگئے۔

پیغمبر اکرمؐ جانتے تھے کہ اگر علیؑ نہ ہوتے تو کوئی بھی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا نہ ہوتا۔

پس علیؑ وہ ہیں جن کی وجہ سے نبوت قائم ہوئی اور نبوت کی بنیاد ان کے وجود کی وجہ سے محکم ہوئی۔

زمین اور آسمان کو ان کے نور اور ہدایت نے محصور دیا وہ تو زمین و آسمان کی روشنی ہیں۔ سورہ نور کو پڑھیں اور جان لیں کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔

اس آیت کا لفظ خدا سے متعلق ہے لیکن اس سے معنی غیر خدا کا ارادہ ہوا ہے۔

کائنات کا مرکز علیؑ ہے، وہ خلقت کی بنیاد اور تمام کرات کی گردش کا مدار ہے۔

جو علم انجام پا چکا ہے یا آئندہ انجام پائے گا وہ سب آپ سے ہے۔ ابتدائے خلقت سے انتہاء خلقت تک سب کو جانتا ہے۔

کیونکہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے اور خدا اس کے علاوہ کسی غیر کو دروازہ شہر علم بنانے پر راضی نہیں ہوا۔

وہ خدا کا پہلو اور اس کا چہرہ ہے، لوگوں کو اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور

وہ ایسا رکن ہے جس کو چومنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا چاہیے۔

اور وہ خدا کی ایسی بولتی زبان ہے جو اس کے بارے میں خبر دیتی ہے ایسی حکمتوں کو

جن کی حکماء بیان کرنے سے عاجز ہیں۔

قرآن کی مانند آیات کسی کے منہ سے خارج نہیں ہوئی اور صاحبانِ بلاغت اس

کے مرتبہ بلاغت تک نہیں پہنچ سکے۔

وہ ان تمام خصوصیات کا مرقع ہیں جو بعض نبیوں میں علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں۔

بے شک پروردگار کہ جس کا مرتبہ بلند ہے کے اوصاف میں سے بعض صفات ان

کے ساتھ اختصاص رکھتی ہیں نہ کہ کسی دوسرے کے ساتھ۔

اسی وجہ سے ان کے علاوہ کسی غیر کو ان اوصاف کے ساتھ متصف نہیں کرتے، صرف خدا کو ان اوصاف کے ساتھ متصف کرتے ہیں۔

خدا نے اپنے گھر کو علیؑ کا زچہ خانہ قرار دیا، یہ ایک ایسا بلند مرتبہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔

اس کرامت میں کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ سردار انبیاء اور نہ ہی دوسرے انبیاء۔

مکہ نے اس ولادت کی وجہ سے لباسِ فخر پہن لیا، اسی طرح مشعر الحرام، عرفات اور ان کے بعد منیٰ نے۔

بلکہ تمام کرہ زمین کو برتری حاصل ہو گئی جب وہ زمین پر آئے اور آسمانی مخلوق کے لئے مقام طواف بن گئی۔

کیا تم ستاروں کو نہیں دیکھتے ہو کہ دن رات گھر کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں۔

غدير کے دن جب رسولؐ خدا خطبہ پڑھ رہے تھے تو ستر ہزار لوگ موجود تھے۔ رسولؐ خدا نے چند فرمان مکمل بلاغت کے ساتھ ارشاد فرمائے اور سب نے آپؐ کی بات کو سنا۔

آپؐ نے فرمایا: بے شک آپؐ کا ولی اور سرپرست خدا ہے اور وہ تمام مطلب جو ذکر کرتے ہیں۔

تمام وہ لوگ جو وہاں موجود تھے سب نے بیعت کی ایسی بیعت کہ جس کی وجہ سے دشمنوں کی ناک زمین پر لگ گئی۔

مسلمانوں نے بیعت کرنے میں ایک دوسرے سے پہل کی۔ اس دن کچھ شقی اور پست لوگوں نے مبارک باد تھی اور بعد میں انکار کر گئے۔

سورہ ”ہل انی“، ”ن“ اور ”ص“ سے پوچھو اسی طرح ”ذاریات“ اور طہ سے



سوال کرو۔

ان سورتوں سے سوال کرو جو ”حا“ اور ”میم“ سے شروع ہوتی ہیں۔ اور ان سورتوں سے پوچھو جن کی ابتداء ”طا“ اور ”سین“ سے ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ سورہ ”فاطر“ اور ”سبا“ سے پوچھو۔

تم دیکھو گے کہ سب علیؑ کی مداحی کرتی ہیں۔ جیسے کہ سورہ ”والشمس وضحاہ“ علیؑ کی مدح سرائی کرتی ہے۔

کسی بھی ایسی آیت کو مت چھوڑو جو ان پر بطور نص وارد ہوئی ہے، کتاب الہی کی محکم آیات میں سے سب کو پڑھ۔ (الغدير: ۶/۲۹)

اشعار میں سے کچھ وہ ہیں جن کو سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب ۔ الغرر والدرر میں اسماعیل بن ابی الحسن عباد بن عباس طالقانی جو صاحب کے نام سے مشہور اور ایک فاضل شیعہ اور علم کلام کے عالم ہیں سے نقل کئے ہیں اور ابن بابویہ نے اپنی کتاب ”عیون الاخبار“ انہی کے لئے ترتیب دی تھی۔

### اشعار کا ترجمہ

اگر میرے دل کو چیرو اور اس میں تلاش کرو تو یقیناً اس کے درمیان سے تم دو ایسی سطریں دیکھو گے جو خود مسطور ہیں۔

اس کی ایک طرف توحید اور عدل الہی ہے اور دوسری طرف اہل بیتؑ کی دوستی ہے۔ (امالی سید مرتضیٰ: ۱/۴۰۰)

ان کے اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی ہے۔

آنا وجميع من فوق التراب

لقداء تراب نعل ابی تراب

(دیوان صاحب بن الامام علی بن ابی طالب: ۹۴)

ایک فارسی شاعر نے اسی مطلب کو فارسی میں یوں نظم کیا ہے۔

من و ہر کس کہ بہ روی ترا بم  
فدای خاک پای بو ترا بم

ہم سبھی مٹی سے ہیں، ابو تراب کی جوتی کی خاک پر فدا ہیں۔

اب کچھ اشعار کا ترجمہ ابن ابی الحدید کے ایک طولانی قصیدے سے پیش کیا جاتا ہے۔  
اے آسمان بجلی! اگر تیرا گذر سر زمین نجف سے ہو تو اس سے کہنا: کیا تجھے معلوم ہے  
کہ تیرے اندر کوئی شخصیت بطور امانت رکھی گئی ہے؟

تیرے اندر موسیٰؑ، کلیم عمران کا بیٹا، عیسیٰؑ، مسیح اور ان کے بعد احمدؑ قرار رہتے ہیں۔  
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل بلکہ تمام عالم ملکوت اور تمام فرشتے اس میں رہتے ہیں۔  
بلکہ خدا عظیم الشان کا نور تیرے اندر مقطر ہے، یہ ایسا نور ہے جو ایسے لوگوں کے  
لئے چمکتا اور جو چشم بہاؤ رکھتے ہیں۔

تیرے اندر وہ امام ہے جس سے خدا خوش ہے، جو وحی اور چنا ہوا ہے اور وہ جس کا  
سینہ علم سے سرشار اور شرک کو ختم کرنے والا ہے۔

وہ جو جنگوں میں زہر پہن کر بہادری کے سر پر تلوار مارتا تھا اور شجاع اور دلیرا  
شخص کو خوف و ہراس میں غرق کئے رکھتا تھا۔

وہ جس کا مضبوط نیزہ کبھی سیدھا اور کبھی ٹیڑھا ہو جاتا تھا گویا کہ پسی کی ہڈیوں میں  
سے ایک ہڈی ہے۔

وہ جس نے حوض کو پانی سے پر کر دیا، جب کہ وہاں نہ پانی کی کوئی نہر تھی اور نہ کوئی  
کنواں کہ جس سے پانی کھینچتے۔

وہ پہلوانوں کو جو اسلام کے خلاف جمع ہوتے تتر بتر کر دیتا اور مخالف گروہوں کے  
اجتماع کو درہم برہم کر دیتا۔

وہ ایسا عالم تھا جو لوگوں کو خشوع اور خضوع کی نصیحت فرماتا اور وہ پاک دل میں

اس طرح سے اثر کرتا گویا وہ پھٹ جاتے۔

جب جنگ بھڑکتی تو کافروں کے خون کا اتنا پیاسا تھا کہ جتنے بھی زمین پر گرانا اس کی پیاس ختم نہ ہوتی۔

اور خون میں ایسے لت پت ہو جاتا گویا سرخ لباس پہنا ہوا ہے اور چہرے پر گرد غبار کی کثرت کی وجہ سے ایسے لگتے جیسے کوئی نقاب ڈالا ہو۔

وہ عالم خلقت کا راز ہے جبکہ وجود کا راز اس کے وجود میں امانت رکھی گئی ہے، وہ وہی نور خدا ہے جس کا عکس آدم کی پیشانی سے ظاہر ہوا اور چمکا۔

وہ وہی آتش موسیٰؑ ہے جو رات کی تاریکی میں شعلہ ور ہوئی، جس کی روشنی اوپر گئی اور شعاعیں پھیلیں۔

اے وہ جس کی خاطر سورج آسمان کے اوپر واپس آیا، یہ کرامت سوائے یوشع کے اور کسی کے لئے حاصل نہ ہوئی۔

اے وہ جو میدان جنگ میں گروہوں کو تتر بتر کر دیتا تھا، تو نے ایسے بہادروں کو بھی پشت نہیں دکھائی جو زرہ پوش اور اسلحہ سے لیس ہوتے تھے۔

اے وہ جس نے قلعہ خیبر کے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا جسے چوالیس آدمی بھی نہ اکھیڑ سکے تھے۔

اگر تجھے اس دنیا سے جانا نہ ہوتا تو میں کہتا: تو وہی ہے جو جسموں میں روح پھونکتا ہے اور جان قبض کرتا ہے۔

اگر موت تیرے لئے نہ ہوتی تو میں کہتا: تو ہی روزی دینے والا ہے اور اس کی کمی یا زیادتی کو معین کرنے والا ہے۔

عالم ملکوت وہی تو ہے جس خاک پاک میں آپ کا بدن شریف آرام فرما رہا ہے۔

زمانہ تو تیرا زر خرید غلام ہے جو حکم پروردگار سے تیرے فرمان کو مخلوق کے بارے



میں جاری کرتا ہے۔

میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ تیری مدح و ثنا کر سکے، اگرچہ میں با فصاحت و بلاغت اور ایک زبردست خطیب ہوں۔

کیا آپ کے لئے یہ کہوں کہ تو ایک آقا! دلیر اور بزرگوار ہے، ہرگز یہ تیرے اوصاف نہیں ہو سکتے۔

تو ہی تو وہ ہے جو قیامت کے دن مخلوقات کے درمیان حکم کرے گا۔ اور تو ہی شفاعت کرے گا اور تیری شفاعت قبول ہوگی۔

باوجود اس کے کہ میں ایک ذہین ترین عالم ہوں یہ سمجھ نہ سکا کہ تیرا مضبوط ارادہ زیادہ کاٹنے والا ہے یا تیری تلوار۔

میں نے تو اپنی پہچان ہی کھو دی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرا علم زیادہ پھیلا ہوا ہے یا تیری سخاوت۔

میرا آپ کے بارے میں ایک اعتقاد ہے بہت جلد اس سے پردہ اٹھا دوں گا۔ اور صاحبان عقل کو وہ سننا چاہیے اور اس کی طرف کان دھرنے چاہیے۔

اور یہ وہ آہ ہے جو میرے درد ناک سینے سے باہر آتی ہے اس کی ٹھنڈک میرے عشق کی آگ کو بجھا دیتی ہے اور دوسرے مجھے بلائیں یا چھوڑ دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کی قسم، اگر حیدر نہ ہوتے تو دنیا کا نام و نشان نہ ہوتا اور اس کی کوئی خبر نہ ہوتی۔

اس کی خاطر زمانہ پیدا کیا گیا، ستارے روشن ہوئے اور تاریک رات چھائی اور اس کے پیچھے صبح نمودار ہوئی۔

اس کی طرف علم غیب کی نسبت دینے میں کسی قسم کا انکار نہیں ہے، جیسے کوئی صبح کی چمکتی ہوئی روشنی کا منکر نہیں ہے۔

قیامت کے دن ہمارے حساب کی وہ برسی کریں گے اور وہ کل قیامت کے دن

سب کے لئے پناہ گاہ ہے۔

یہ میرا عقیدہ ہے جس سے میں نے پردہ اٹھا دیا ہے چاہے یہ مجھے فائدہ دے یا نقصان فرق نہیں پڑتا۔

اے وہ جس نے میرے دل کی سرزمین پر گھر بنایا ہے یہ وسیع چراگاہ اور بہترین مقام آپ کی محبت کے لئے ہے۔

میں آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ سے عشق کرتا ہوں اس حد تک کہ آپ کی محبت کی آگ نے میری جان اور خون میں شعلہ بھڑکا دیا ہے اور تمام کا تمام میرا وجود اس میں جل رہا ہے۔

قریب ہے میری جان آپ کی محبت اور عشق کی وجہ سے پھل جائے۔ جو عشق میری طبیعت میں ہے وہ میری خلقت میں لپکا ہے۔ اس کی طرح کہ جو اسے اپنے اوپر سوار کرتے ہیں اور عاشقی کا اظہار کرتے ہیں۔

میں معتزلی ہوں اور دین اصول کو اختیار کیا ہے۔ لیکن حیرتی وجہ سے تمام شیعوں اور جو تیری پیروی کرتے ہیں سے عشق رکھتا ہوں۔

میں جانتا ہوں کہ یقینی طور آپ کا مہدی ظہور فرمائے گا اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلدی آئے۔

خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر اس کی مدد کرے گا اور ایک جوش مارتے ہوئے سمندر کی طرح آئیں گے اور تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔

میں خاندان ابی الحدید سے بھی امید رکھتا ہوں کہ کاٹنے والی تلواروں اور مضبوط نیزوں کے ساتھ اس میدان میں حاضر ہوں اور تیار رہیں۔

وہ لوگ جو موت کے لئے آمادہ اور میدان جنگ میں آگے آگے رہتے ہیں، وہ شجاع ہیروں کی طرح کبھی ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں۔

یہ میری آرزوئیں ہیں جب تک یہ پوری نہ ہوں میرا نفس میرے ساتھ حالت

جنگ میں ہے اور میرے شوق کا پرندہ محو پرواز ہے۔

بے شک میں نے سر زمین طف (کربلا) میں اولاد پیغمبرؐ کے قتل ہونے پر ایسا گریہ کیا ہے ایسے رویا ہوں، گویا میرے تمام اعضاء آنکھ کی مانند روتے رہے۔  
اب ہم ان اشعار کا ذکر کرتے ہیں جو شاعر ادیب شیخ صفی الدین حلی نے مدح علیؑ میں کہے ہیں۔

اے علیؑ آپ کے اندر ہمہ جہت صفات موجود ہیں چنانچہ آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے۔  
زہد، حکومت، بردباری، شجاعت، قدرت، مہادمت، فقر اور سخاوت، یہ وہ صفات ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور بشر میں یک وقت جمع نہیں۔

ایسا حسن خلق کہ بادشیم جس کی لطافت کے سامنے شرمندہ ہے۔ اور ایسی دلیری اور قوت کہ جس کی ہیبت سے پتھر پانی ہو جائے۔

آپ سے اس قدر کرامتیں اور فضیلتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ آپ کی برتری کا حاسدوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔

اگر دشمن ان فضیلتوں کو جھٹلا دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قوم لوط اور عاد نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔

اے علیؑ! آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بلند تر ہے کہ شعر میں سما سکے اور سخنور آپ کی صفات کو شمار کر سکیں۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ شیخ صفی الدین نے یہ جو جملہ فرمایا ہے کہ آپ کے اندر متضاد صفتیں جمع ہیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سید رضی نے نہج البلاغہ کے مقدمہ میں کیا ہے۔

### علیؑ متضاد صفات کا مجموعہ

کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے وہ عجائبات جو بے مثل و بے نظیر ہیں، ان میں کوئی



بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آپ سے بہت سے ایسے کلمات منقول ہیں جو زہد و تقویٰ، وعظ و نصیحت اور گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے بارے میں ہیں۔

جب کوئی صاحب فکر و نظریک سوئی اور تعصب سے ہٹ کر غور و فکر کرے اور دل سے یہ نکال دے کہ اس شخصیت کے کلمات ہیں جس کا اوڑھنا بچھونا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کے سوا کچھ نہ تھا، جس نے اپنے آپ کو حد درجہ مخفی رکھا اور گوشہ نشینی اختیار کی ہو یا پہاڑ کے دامن میں پناہ لی ہے جہاں وہ اپنی آواز کے علاوہ کسی کی آواز نہ سنتا ہو، اور اپنے سوا کسی کو نہ دیکھتا ہو، تو اس وقت انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جو نامی گرامی پہلوانوں کی گردنیں اڑاتا تھا۔ قوی ہیکل جنگجوؤں کو زمین بوس کرتا تھا اور جب میدان جنگ سے واپس لوٹتا تھا تو اس کے پاس بدن سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہوتے تھے۔ وہ ان تمام صفات کے باوجود سب سے زیادہ زاہد تھا، تمام نیکیوں سے نیک تر تھا۔ فضائل، امتیازات اور خصوصیات اسی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس نے اپنی متضاد صفات جمع کر رکھی ہیں اور بکھرے ہو لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کی ہے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے دوستوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو وہ تعجب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ واقعاً یہ مقام عبرت ہے۔

## انتخاب رسول

❖ وہ مدح امیر المومنین میں کہتے ہیں۔

❖ خدا کی قسم خدا تعالیٰ نے اس وقت تک محمد کو اپنا حبیب نہیں بنایا جب تک عالمین کے درمیان اس کے لئے اس جیسا نہ بنایا۔

❖ اسی طرح پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کو اپنا وصی نہیں بنایا۔ اور اپنی بیٹی کے لئے شوہر نہیں کیا۔

اس نے تمام مخلوق کے درمیان میں سے اپنا بھائی دل سوز اور مددگار قرار نہیں دیا جب تک از نظر فضیلت اور برتری اپنے جیسا کوئی اور نہ ملا۔

❖ ہر کسی کی عقل پر شاید اس کی اختیار اور انتخاب کردہ خوبی اور اچھائی ہے۔ پس اس کا

حال کیسا ہوگا جسے خدا اور اس کے رسولؐ نے اختیار اور انتخاب کیا ہو۔

اور وہ اشعار جو فارسی شعراء نے امیر المومنینؑ کی مدح سرائی میں کہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ان کو جمع کیا جاسکے۔ ہم کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔

نبی کمالات کا سورج ہیں اور ولی چاند، محمدؐ اسلام ہیں تو ہیں علیؑ۔

اگر اس مطلب کے لئے گواہی چاہتا ہے تو اس پر واضح ترین دلیل اس کا اسم اسم جلی ہے دوسرا شاعر کہتا ہے۔

اگر حقیقت جو مرد ہو تو راستے کی روشنی میں غور و فکر، علیؑ کی نشانیوں کے بارے جان سے غور و فکر کر۔

اگر ان کے قائم ہونے پر دلیل چاہتا ہے تو اللہ کے حروف کی دلیل میں غور و فکر کر۔ ایک اور شاعر کہتا ہے۔

شان علیؑ میں بہت سی آیات آئی ہیں، ہا رب کس نے سیں ہیں اور کون خبر لے کر آیا ہے۔

وہ کہ جس نے سنا اور علیؑ کے حروف کی ملاکہ کو دیکھا جیسے خدا کے حروف مقطعات ہوں۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے۔ اگر تیرے پاس دیکھنے اور معرفت رکھنے والی آنکھ ہے تو ہر چیز میں علیؑ نظر آتا ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے۔

اے وہ کہ جس کا چہرہ آیات الہی کا صحیفہ ہے، اے وہ جس کے بال اہل ولایت کا زنجیر ہیں۔

دل چیتنے والے تیرے ہونٹ زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ اور تیرے ابرو با معرفت لوگوں کی نماز کے لئے محراب ہیں۔

تیرے ابرو اہل وفا کے لئے قبلہ ہیں اور تیرے دیدار سے عاشقوں کی دونوں آنکھوں کا نور ہے۔

❖ دل گمراہ ہو کر جہاں بھی پھرتا رہے۔ آخر کار تیری طرف ہی واپس آتا ہے۔

❖ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے۔

❖ اس جنگل میں اسد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور علیؑ کے سوا کسی کی سوچ و فکر نہیں ہے۔

❖ ایک اور مداح کہتا ہے۔

❖ اسد اللہ وجود میں آیا ہے پس پردہ جو تھا وجود میں آ گیا۔

## علیؑ کے وجود سے کائنات کا آغاز

عالم ادیب حاجی سید محمد علی جندقی جو ”فخرا“ کے نام سے مشہور تھے ولادت امیر المومنینؑ کے موقع پر کہتے ہیں۔

❖ آج کی رات شیر خدا کی ولادت کی رات ہے جناب شاہ لافقی کا میلاد ہے۔

❖ شاہ نجف، امیر حق، مومنوں کا امیر وہ شیعوں کا مولا علیؑ مرتضیٰ ہے۔

❖ جو حکم خدا سے رسول کا چچا زاد ہے۔ اور جہان میں خیر النساء فاطمہ زہراءؑ کا شوہر ہے۔

❖ نور خدا ہے جو فاطمہ بنت اسد کے ہاں ظاہر ہوا ہے اس کعبہ میں جو بادشاہ اور گدا گر کا

قبلہ ہے۔

❖ اسی وجہ سے تمام پر کعبہ کا طواف واجب ہوا۔ کیونکہ وہ شیر خدا کا زچہ خانہ اور جائے

ولادت ہے۔

❖ جو حرم کی جان یعنی کعبہ ہے جس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ جو جہان کی ہے اور

اہل آسمان و زمین کے لئے کعبہ ہے۔

❖ جب نور قدیم حرم مقدس میں قدم رکھا تو اس کے آنے سے کیسی قیامت برپا ہو چکی ہے۔

❖ فاطمہ بنت اسد کو ندا آتی اس کا نام علیؑ رکھو۔ جو ہمارے نام سے علیحدہ کیا گیا ہے

لیکن وہ جدا کب ہے۔

❖ اے دوست اگر دل کی آنکھ سے علیؑ کا مشاہدہ کرے تو وہ مکہ ہے، کعبہ ہے، زمزم



ہے، صفا و مروہ ہے۔

اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو کوہ صفا کے لئے صفا نہ تھی۔ اسی کے عشق کی وجہ سے دیو حرم کی خواہش ہے۔

شمع کے پروانے کی قیام گاہ حرم میں ہے، کبھی مدینہ میں کبھی نجف میں اور کبھی کربلا میں۔ جہاں بھی عشق خیمہ زن ہے وہاں علیؑ کا جذبہ ہے، کیونکہ وہ دلنواز اور دلربا ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو علیؑ کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ خدا کی طرف سے خدا کی قسم ناخدا ہے۔

النما ولیکم اللہ کی آیت کی تلاوت کرو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ خدا کسی کے سوا سب کا ولی ہے ”فخراً“ شاہ لایت کی مدح سراہی کرو، کیونکہ اس کی مدح کرنے والا خدا ہے اور اس کی مدح کرنا سزاوار ہے۔

زیارت جامعہ میں یہ جملہ ہے۔

بکم فتح اللہ وبکم لیختم

”آپؐ کے وجود کے ذریعے سے خدا نے خلقت کا آغاز کیا اور آپ ہی کے وجود سے اختتام پذیر ہوگی“

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیض کا وسیلہ تھے اور ہیں۔ پروردگار کی طرف سے آپ کے واسطے سے ہی خلقت وجود کا فیض تمام کائنات کے شامل حال ہوا ہے۔ اور جب آپ اس کائنات سے قدم باہر لے جائیں گے تو پھر فیض باقی نہ رہے گا۔ کائنات کا نام و نشان نہ رہے گا۔



## تیسرا حصہ

وحی اور قرآن کے دامن میں پرورش پانے والی اور علم و عرفان کے وسیلہ سے  
 دودھ پینے والی پاک پیشواؤں کی ماں، کائنات کی عورتوں کی سردار حضرت  
 فاطمہ زہراءؑ علیا صلوات المصلین کے پر افتخار اعجازات و کمالات کے بحر  
 بیکراں سے ایک قطرہ۔

## بخار کے اترنے کی دعا

(۲۱/۲۷۲) علامہ مجلسیؒ بخار الانوار میں نقل کرتے ہیں:

حضرت امام باقر علیہ السلام جب بھی بخار میں مبتلا ہوتے تھے تو ٹھنڈا پانی کم لیتے تھے اور اپنی آواز مبارک اتنی بلند کرتے کہ گھر کے دروازے تک سنی جا سکتی تھی۔ اور فرماتے: یا فاطمہ بنت محمد!

## بتولؑ کی دعا

(۲۲/۲۷۳) شیخ صدوقؒ کتاب علل الشرائع میں روایت کرتے ہیں:

حضرت فاطمہؑ جب بھی دعا کیا کرتی تھیں تو تمام مومنین کے لئے دعا کرتی تھیں اپنے لئے دعا نہ کرتی تھیں۔

سیدہ سے عرض کیا گیا: اے بنت رسولؐ آپ لوگوں کے لئے تو دعا فرماتی ہیں لیکن اپنے لئے دعا نہیں کرتیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

الحجار ثم الدار

پہلے ہمسایہ اور پھر اہل خانہ

(علل الشرائع: ۱/۱۸۲ حدیث ۲، بخار الانوار: ۸۲/۴۳ حدیث ۴)

## عبادت ہو تو زہراءؑ جیسی

(۲۳/۲۷۴) حسن بصری کہتے ہیں: امت کے درمیان کوئی بھی فاطمہ زہراءؑ کی طرح

عبادت گزار نہیں تھا، خدا کی عبادت کے لئے اس قدر کھڑی ہوئیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔

پیغمبر اکرمؐ نے سیدہ سے سوال کیا کہ عورت کے لئے کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے عرض کیا:

ان لا تری رجلا ولا یراھا رجل



”وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے“

رسول خدا نے سینے سے لگا لیا اور فرمایا:

ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (سورہ آل عمران آیت ۳۳)

”یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے۔“

(۲۳/۲۷۵) کتاب خصائص الفاطمیۃ میں جابر جعفی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت

نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لولاک لما خلقت الا فلاک ولو لا علی لما خلقتک ولولا

فاطمۃ لما خلقتکما

### فاطمہ غرض خلقت ٹھہریں

”اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا اور اگر علی نہ ہوتے

تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اور اگر فاطمہ نہ ہوتیں تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا“

(جنتہ العاصمہ: ۲۸)

### بتوں کی خدا سے ہمکلامی

(۲۵/۲۷۶) کراچکی کتاب کنز الفوائد میں ابو ذر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ

میں نے دیکھا، سلمان اور بلال پیغمبر اکرمؐ کی طرف آرہے ہیں، سلمان جب حضرتؐ کے قریب ہوا تو اپنے آپ کو حضور کے قدموں پر گرادیا اور بوسہ دیا۔ رسول خدا نے سختی سے اسے اس کام سے منع کیا اور فرمایا:

میرے ساتھ ایسے نہ کرو جیسے فارس کے رہنے والے اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، جو لوگوں کی طرح کھاتا ہوں اور لوگوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔

سلمان نے عرض کیا: اے میرے مولا! خدا کے واسطے مجھے فاطمہؑ کے ان فضائل

کے متعلق بتائیں جو قیامت کے دن ہوں گے۔

رسول خدا خوش ہوئے اور خوشی سے اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا:

اس ذات کی قسم! جس کے اختیار میں میری جان ہے، فاطمہؑ ہی تنہا عورت ہے جو قیامت کے دن سوار ہو کر گزرے گی۔ وہ ایسی ناقہ پر بیٹھی ہوں گی جس کا سر خوف خدا کا جلوہ جس کی دو آنکھیں نور خدا، جس کی لجام حق تعالیٰ کی بڑائی اور جلالت، جس کی گردن الہی حسن و نورانیت، جس کا اوپر والا حصہ خوشنودی خدا، نچلے والا حصہ پاکیزگی اور اس کے چاروں پاؤں عزت خدا سے ہوں گے۔ جب وہ چلے گی تو خدا کی تسبیح کرے گی، جب آواز نکالے گی تو خدا کی تقدیس کرے گی۔

اس پر ایک نور کا کجاہ ہوگا، جو خاتون اس میں بیٹھی ہوگی وہ انسانی شکل میں حور ہوگی۔ وہ بے نظیر وجود جو جمع ہوا ہے اور پیدا ہوا ہے۔ اور ترکیب پایا ہے اور ظاہر ہوا ہے تین طرح کا ہے۔

(اول) خوشبو دار مشک سے ہے، اس کا درمیان ایسے سیاہ رنگ عنبر سے ہوگا جس پر سفیدی غالب ہوگی اور اس کا آخر ایسے سرخ زعفران سے ہوگا جو آب حیات سے مخلوط ہوگا۔ اگر سات ایسے سمندروں میں جن کا پانی کڑوا ہو، وہ اپنا لعاب دہن ڈالے تو کبھی میٹھے ہو جائیں گے، اگر چھوٹی انگلی کے ناخن کو دنیا میں ظاہر کرے تو سورج اور چاند ماند پڑ جائیں گے۔

جبرائیل اس کے دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف اور علیؑ آگے آگے اور امام حسنؑ و حسینؑ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ اس کا محافظ ہوگا، پس وہ اس شان و شوکت کے ساتھ قیامت کے میدان میں داخل ہوگی کہ اچانک خدا کی طرف سے ایک ندا آئے گی۔

معاشر الخلاق غضو ابصارکم ونکسوا رؤسکم هذه فاطمة بنت

محمد نبیکم وزوجة علی امامکم ام الحسن والحسین

”اے لوگو اپنی آنکھیں بند کرلو اور سر نیچے کرلو کیونکہ تمہارے نبی محمدؐ کی بیٹی

تمہارے امام علیؑ کی زوجہ اور حسنؑ و حسینؑ کی والدہ فاطمہؑ الزہراء علیہا السلام گذر رہی ہیں“

فاطمہؑ پل صراط سے اس حال میں گذریں گی کہ دوسفید چادریں پہنی ہوگی جب جنت میں داخل ہوں گی اور ان نعمتوں اور عنایات خداوندی کو دیکھیں گی جو خدا نے انہیں عطا کی ہوں گی تو اس آیت کی تلاوت کریں گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ غَمَّ الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  
الَّذِي أَحَلَّنَا فَاكِهُ الْمَقْلَعَةَ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

(سورہ فاطر: آیت ۱۳۳ اور ۱۳۵)

”شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے ہم سے غم و اندوہ کو برطرف کیا ہے، بے شک ہمارا خدا گناہ گاروں کو بخشنے والا اور نیک لوگوں کو جزا دینے والے ہے۔ وہ جس نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے ہمیشہ رہنے والے گھر میں داخل فرمایا ایسا گھر جس میں نہ کوئی رنج اور نہ کوئی درد ہم تک پہنچے گا۔ اور تھکاوٹ رنج و غم اور کمتری ہرگز ہمارے پاس نہ آئے گی“

اس حدیث کو جاری رکھتے ہوئے رسولؐ خدا نے فرمایا: اس کے بعد خدا فاطمہؑ کو

پیغام دے گا۔

یا فاطمہؑ سلینی اعطک وتمنی علی ارضک

”اے فاطمہؑ جو چاہتی ہو مجھ سے مانگو تا کہ تجھے عطا کروں اور جو آرزو ہو

کرو اسے پورا کروں تا کہ تو راضی و خشنود ہو جائے“

اس وقت فاطمہؑ عرض کریں گی:

الہی انت المنی و فوق المنی اسالک ان لا تعذب محبی و محبی

عترتی بالنار



”پروردگار! تو میری آرزو سے بھی بلند تر ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے اور میری اولاد کے محبوبوں کو جہنم کا جلانے والا عذاب نہ دے“  
تب بارگاہ ایزدی سے ندا آئے گی۔

یا فاطمة وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لقد آلیت علی نفسی من قبل ان اخلق السماوات والارض بالقی عام ان لا اعذب محبیک  
و محبی عترتک بالنار

”اے فاطمہ! مجھے میری عزت و جلالت اور بلند مقام و مرتبہ کی قسم، میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے قسم کھائی ہے کہ تیرے اور تیرے محبوبوں کو عذاب جہنم سے دور رکھوں گا“

(تاویل الآیات: ۲/۳۸۳ حدیث ۱۲، بحار الانوار: ۲۷/۱۳۹ حدیث ۱۳۳)

## دو دریاں سے مراد کون؟

(۲۶/۲۷۷) فرات اپنی تفسیر میں ابوذر، ابن عباس، امام صادقؑ اور حضرت رضاؑ سے آیہ شریفہ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (سورہ الرحمن: آیت ۱۹)

کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ان دو دریاؤں سے مراد علی اور فاطمہ ہیں اور (بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ) میں برزخ سے مراد رسول خدا ہیں اور (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ) میں لؤلؤ اور مرجان سے مراد امام حسنؑ اور امام حسینؑ ہیں، جو اس کائنات کے دو قیمتی گوہر ہیں اور نبوت و امامت کی پیوند کا شمرہ ہیں۔ (تفسیر فرات: ۳۵۹ حدیث ۵۹۹-۶۰۲)

## دو گہرے سمندر

شیخ صدوق کتاب خصال میں امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

ان علیا و فاطمة بحران من العلم عمیقان

”بے شک علیؑ اور فاطمہؑ علم کے دو گہرے سمندر ہیں“

(الخصال: ۱/۶۵ حدیث ۹۶، تفسیر برہان: ۳/۲۶۵ حدیث ۲، بحار الانوار: ۲۳/۹۸ حدیث ۵)

### سمندر نبوت

ایک دوسری روایت میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ علیؑ علم کا سمندر اور فاطمہ نبوت کا سمندر ہے اور پیغمبر اکرمؐ ان دو کے درمیان فاصلہ ہیں علیؑ کو روکتے ہیں اس لئے کہ وہ دنیا کے مصائب سے غمگین نہ ہوں۔

(مناقب ابن شہر آشوب: ۳/۳۱۹، تفسیر برہان: ۳/۲۶۶ حدیث ۱۰)

### فاطمہؑ دینِ قیم ہیں

(۲۷/۲۷۸) جابر امام باقرؑ سے آیہ شریفہ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (سورہ بقرہ: آیت ۵)

”یہ ہے دینِ محکم“

کی تاویل میں نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: اس سے مراد فاطمہؑ ہیں۔

(تاویل الآیات: ۲/۸۲۹ حدیث ۱، تفسیر برہان: ۳/۳۸۹ حدیث ۱)

### فاطمہؑ منصورہ ہیں

(۲۸/۲۷۹) امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ جبرائیلؑ نے فرمایا:

ان فاطمة مسماة في السماء بمنصورة

”بے شک آسمانوں میں فاطمہؑ کا نام منصورہ ہے“

اور آیہ شریفہ

وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ (سورہ روم: آیت ۴)

”اور اس دن مؤمنین خدا کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے“

خدا کی مدد سے مراد فاطمہؑ کے محبوبوں کی مدد ہے۔

(معانی الاخبار: ۳۷۷ حدیث ۵۳، تفسیر برہان: ۳/۲۵۸ حدیث ۶، تفسیر فرات: ۳۲۱ حدیث ۳۳۵، بحار الانوار: ۳/۱۸ حدیث ۱۷)

## فاطمہؑ کا ہمسر

(۲۸/۲۸۰) شیخ صدوق کتاب عیون اخبار الرضاؑ میں امیر المومنین اور آپ رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ خدا سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَوْلَمْ اخْلُقْ عَلِيًّا لَمَا كَانَ لِفَاطِمَةَ الْهَيْتُكَ كَفُوَ عَلَيَّ وَجْهَ الْاَرْضِ مِنْ  
آدَمَ فَمِنْ دُونِهِ

”اگر میں علیؑ کو پیدا نہ کرتا تو تیری بیٹی فاطمہؑ کے لئے زمین کے اوپر اولین و آخرین میں سے کوئی کفو نہ ہوتا“

(عیون اخبار الرضاؑ: ۱/۷۷۷ حدیث ۱۳۱۳، بحار الانوار: ۳۳/۳۲۲ ح ۳)

## فاطمہؑ حور ہیں

طبری دلائل الائمة میں اس جیسی ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کے اول میں اضافہ کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

ان فاطمة خلقت حورية في صورة الانسية وان بنات الانبياء لا يحضن

(دلائل الائمة: ۱۳۶ حدیث ۵۲، بحار الانوار: ۸۱/۱۱۳ حدیث ۳۷)

اس کے بعد گزشتہ روایت نقل کی ہے۔

”بے شک فاطمہؑ انسانوں کی شکل میں حور بنائی گئی ہیں۔ متقی انبیاء کی بیٹیوں کو حیض نہیں آتا، اگر علیؑ نہ ہوتے تو زمین کے اوپر آدم اور غیر آدم سے فاطمہ کے لئے کوئی ہمسر نہ ہوتا“

## نور فاطمہؑ

(۳۰/۲۸۱) علامہ مجلسی بحار الانوار میں نقل کرتے ہیں:

ایک دن رسول خدا اٹح کی رحلی زمین پر بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت علی عمار بن یاسر، منذر بن ضحاح، ابو بکر اور عمر حاضر تھے،



امیر المؤمنین فرماتے ہیں: پیغمبر اکرم کا معمول یہ تھا کہ جب افطاری کا وقت ہوتا تو مجھے فرماتے: دروازہ کھول دو تا کہ جو آنا چاہتا ہے آجائے، لیکن آج رات مجھ سے فرمایا: دروازہ بند کر دو، کیونکہ اس غذا کو میرے علاوہ کسی کے لئے کھانا حرام ہے۔

علیؑ فرماتے ہیں: میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، پیغمبر اکرمؐ اکیلے کھانے کے پاس رہ گئے، آپؐ نے طشت کے اوپر سے رومال اٹھایا، اس میں ایک تازہ کھجور کا گچھا اور ایک انگور کا گچھا تھا، رسول خداؐ نے اس سے کھایا اور اس کے بعد پانی پی کر سیراب ہو گئے۔ پھر آپؐ نے ہاتھ دھونے کا ارادہ کیا تو جبرائیلؑ نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، میکائیلؑ نے ان کو دھویا اور اسرافیلؑ نے تولیے کے ساتھ صاف کیے۔ پھر باقی ماندہ غذا کو برتن کے ساتھ آسمان کی طرف لے گئے۔

رسول خداؐ نماز پڑھنے کے لئے اٹھے، جبرائیلؑ آئے اور عرض کی: ابھی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ انھیں اور خدیجہ کے گھر کی طرف جائیں اور ان کے ساتھ شب بسر کریں کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آج رات آپؐ کی صلب سے ایک پاک بچی پیدا کرے۔ رسول خداؐ اس حکم کے بعد فوراً خدیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔

خدیجہؓ کہتی ہیں: میں اس مدت کے دوران تنہائی میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی، جیسے ہی رات ہوتی، اپنے سر کو ڈھانپ لیتی، پردہ نیچے گرا دیتی، گھر کے دروازے کو بند کر دیتی، اپنی نماز اور دعا پڑھتی اور پھر چراغ بند کر کے اپنے بستر پر آرام کیا کرتی۔

اس رات میں ابھی اچھی طرح سوئی نہیں تھی کہ کسی نے دروازے کا کھٹکا کھٹکایا، میں نے آواز دی، کون ہے جو دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس دروازے کو سوائے محمدؐ کے کھٹکھٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ پیغمبر اکرمؐ نے اپنی دلنشین کلام اور میٹھے لہجے کے ساتھ فرمایا: اے خدیجہ! دروازہ کھولو، میں محمدؐ ہوں۔ خدیجہؓ کہتی ہیں کہ میں خوشی خوشی اٹھی اور دروازہ کھولا، رسول خداؐ گھر میں داخل ہوئے، آپؐ کا معمول یہ تھا کہ جب آپؐ گھر آتے تو پانی کا برتن منگواتے وضو کیا کرتے اور دو رکعت مختصر سی نماز پڑھتے۔ پھر اپنے بستر پر آتے تھے۔ لیکن آج

رات پانی کا برتن طلب نہ کیا اور نماز کے لئے تیاری نہ کی، بلکہ مجھے بلایا اور میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ اس خدا کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا اور چشموں کو روانی بخشی، رسولؐ خدا مجھ سے جدا نہ ہوئے مگر یہ کہ میں نے فاطمہؑ کے نور کو اپنے اندر محسوس کیا: (بحار الانوار: ۱۶/۷۸)

مؤلف فرماتے ہیں۔ جس چیز نے مجھے فاطمہؑ کی جلالت و عظمت پر حیران اور متعجب کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔

(۱) جیسے اوپر والی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ سیدہ کا نور پیغمبر اکرمؐ کے خدیجہ سے چالیس دن اور رات دور رہنے کے بعد خدیجہ کی طرف منتقل ہوا تھا، حضرت کا اس طرح دور رہنا اور جنتی میوؤں کے ساتھ روزہ کا افطار کرنا درحقیقت اس تحفہ اور ہدیہ کی تیاری تھی جو پروردگار عالم نے فاطمہؑ کی نورانی شکل میں عطا کیا، جیسا کہ آپ کی زیارت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

فاطمہ بنت رسول اللہ وبضعة لحمه وصميم قلبه وقلدة كبده  
والنحية منك له والتحفه.

”فاطمہؑ رسولؐ خدا کی بیٹی آپ کے تن کا ٹکڑا، دل کا سہارا، جگر کا پارہ ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبرؐ کیلئے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ (بحار الانوار: ۱۰۰/۲۰۰ ص ۱۵)

رسولؐ خدا کا خدیجہ سے دور رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہؑ سیدۃ النساء العالمین کی عظمت اور مقام کتنا بلند تھا۔ ایسی عظمت جس کو قلم لکھنے سے عاجز ہے۔

(۲) اور خدا تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہوا کہ فاطمہؑ اپنے شوہر علیؑ ابن ابی طالبؑ کی ظاہری حکومت کے زمانے تک باقی رہیں، کیونکہ خدا کی نظر میں سیدہ کی وہ شرافت ملحوظ خاطر تھی جو پیغمبر اکرمؐ اور علیؑ کے بعد ان کو حاصل تھی۔ جیسے کہ امام حسینؑ کی وہ گفتگو جو حضرت زینبؑ کے ساتھ عاشورہ کے دن واقع ہوئی، اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت امام حسینؑ نے اپنے حملات کے ضمن میں اپنی بہن کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا:

وامی کانت خیر منی

”میری ماں جو مجھ سے بہتر تھی اس دنیا سے چلی گئی“  
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ولہا	جلال	لیس	فوق	جلالہ
الا	جلال	اللہ	جل	جلالہ
ولہا	نوال	لیس	فوق	نوالہ
الا	نوال	اللہ	عم	نوالہ

”زہراءؑ علیہا السلام کے لئے وہ بلند مقام اور عظمت ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقام بلند و بالا اور پر عظمت نہیں ہے مگر عظمت خداوندی کہ جو بلند تر مرتبہ ہے۔ اور سیدہ کے لئے عطا اور بخشش ہے کہ جس کے اوپر کوئی عطا نہیں ہے مگر خدا کی بخشش جو ہمیشہ رہنے والی ہے“

### رسولؐ اور بتولؑ کی محبت کا ایک انداز

(۳۱/۲۸۲) شیخ طوسی کتاب امالی میں عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں:

مارایت من الناس احد اشبه کلاما وحديثا برسول الله من فاطمة  
”لوگوں کے درمیان میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو فاطمہؑ سے زیادہ رسولؐ  
خدا کے ساتھ بات اور کلام میں مشابہت رکھتا ہو“

جب فاطمہؑ رسولؐ خدا کے پاس آئیں تو حضورؐ اسے خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے۔ اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جب رسولؐ خدا فاطمہ کے پاس جاتے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھتیں، پیغمبر اکرمؐ کو خوش آمدید کہتیں اور آپ کے دست نازنین کا بوسہ لیتیں۔

(امالی طوسی: ۴۰۰ حدیث ۴۰، مجلس ۱۲، بحار الانوار: ۳۳/۲۵ حدیث ۱۲۲ اور ص ۴۰ حدیث ۴۱)

### عظمت زہراءؑ

(۳۲/۲۸۳) امام صادقؑ فرماتے ہیں۔



”میری ماں جو مجھ سے بہتر تھی اس دنیا سے چلی گئی“  
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ولہا	جلال	لیس	فوق	جلالہ
الا	جلال	اللہ	جل	جلالہ
ولہا	نوال	لیس	فوق	نوالہ
الا	نوال	اللہ	عم	نوالہ

”زہراءؑ علیہا السلام کے لئے وہ بلند مقام اور عظمت ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقام بلند و بالا اور پر عظمت نہیں ہے مگر عظمت خداوندی کہ جو بلند تر مرتبہ ہے۔ اور سیدہ کے لئے عطا اور بخشش ہے کہ جس کے اوپر کوئی عطا نہیں ہے مگر خدا کی بخشش جو ہمیشہ رہنے والی ہے“

### رسولؐ اور بتوںؑ کی محبت کا ایک انداز

(۳۱/۲۸۲) شیخ طوسی کتاب امالی میں عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں:

مارایت من الناس احد اشبه کلاما وحديثا برسول الله من فاطمة  
”لوگوں کے درمیان میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو فاطمہؑ سے زیادہ رسولؐ  
خدا کے ساتھ بات اور کلام میں مشابہت رکھتا ہو“

جب فاطمہؑ رسولؐ خدا کے پاس آئیں تو حضورؐ اسے خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے۔ اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جب رسولؐ خدا فاطمہ کے پاس جاتے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھتیں، پیغمبر اکرمؐ کو خوش آمدید کہتیں اور آپ کے دست نازنین کا بوسہ لیتیں۔

(امالی طوسی: ۴۰۰ حدیث ۴۰، مجلس ۱۴، بحار الانوار: ۲۳/۲۵ حدیث ۱۲۲ اور ص ۴۰ حدیث ۴۱)

### عظمت زہراءؑ

(۳۲/۲۸۳) امام صادقؑ فرماتے ہیں۔

كان النبي لا ينام ليلة حتى يضع وجهه بين يدي فاطمة  
 ”رسول خرم! اس وقت تک رات کو نہ سوتے جب تک فاطمہ کے سینے کے  
 درمیان اپنا منہ نہ رکھ لیتے تھے“

یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ بہشت کی خوشبو سونگھا کرتے تھے۔

(مناقب ابن شہر آشوب: ۳/۳۳۲، بحار الانوار: ۳۳/۳۲۲)

## خیر العمل سے مراد ولایت

(۳۳/۲۸۴) محدث نوری کتاب ”مستدرک“ میں روایت کرتے ہیں کہ امام صادق سے

پوچھا گیا: حَتَّى عَلَيَّ خَيْرِ الْعَمَلِ کا معنی کیا ہے تو آپؑ نے فرمایا:

خَيْرِ الْعَمَلِ الْوَلَايَةُ

خیر العمل سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔

ایک دوسری روایت میں فرمایا:

بِرِ فَاطِمَةَ وَوَلَدِهَا

”بہترین عمل فاطمہ اور ان کی اولاد کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے“

(مستدرک ۲/۷۰، معانی الاخبار: ۳۸، حدیث ۱، التوحید: ۲۳۱، حدیث ۲)

## زہراء اور طواف

(۳۳/۲۸۵) کلینی ”کافی میں موسیٰ بن قاسم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جواد

الائمہ سے عرض کیا:

میں نے آپ کی طرف سے اور آپ کے والد بزرگوار کی طرف سے طواف کرنا چاہا

تو مجھے لوگوں نے کہا اوصیاء کی طرف سے طواف نہیں کرنا چاہیے۔

امامؑ نے فرمایا:

جفتے چاہتے ہو، طواف کرو، یہ جائز ہے۔

تین سال کے بعد میں نے حضرت سے عرض کیا: میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ آپ کی اور آپ کے والد کی طرف سے طواف کر لوں، تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی تھی۔ اور میں نے اتنی مقدار میں طواف کیے جن کی تعداد خدا جانتا ہے، پھر میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور میں نے اس پر عمل کیا۔

امامؑ نے فرمایا: تیرے دل میں کس چیز کا خیال آیا؟

میں نے عرض کیا: میں نے یہ سوچا ایک دن رسول خدا کی طرف، حضرت نے تین مرتبہ آپ پر درود بھیجا۔ دوسرے دن امیر المومنین کی طرف سے، تیسرے دن امام حسنؑ کی طرف سے، چوتھے امام حسینؑ کی طرف سے، پانچویں امام سجادؑ کی طرف سے، چھٹے دن امام باقرؑ کی طرف سے، ساتویں دن جعفر بن محمدؑ کی طرف سے، آٹھویں دن آپ کے جد حضرت موسیٰ بن جعفرؑ کی طرف سے، نویں دن آپ کے والد حضرت رضاؑ کی طرف سے، اور دسویں دن خود آپ کی طرف سے طواف بجا لاؤں۔ جن کا نام لیا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ولایت کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت جواد الائمہ نے فرمایا:

اِذَا وَاللّٰهُ تَرَيْنَ اللّٰهَ بِالْاَدْيَانِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ

”خدا کی قسم، ایسے دین کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہو خدا اس دین کے

علاوہ بندوں سے کوئی دین قبول نہ کرے گا“

راوی کہتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا: کبھی کبھی میں آپ کی جدہ فاطمہؑ کی طرف

سے طواف بجالاتا ہوں اور بعض اوقات نہیں بجالاتا ہوں:

اَسْتَكْثَرُ مِنْ هٰذَا فَالَهِ الْفَضْلُ مَا اَنْتَ عَامِلُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

”اس طواف کو زیادہ کرو کیونکہ یہ کام جو تو نے انجام دیا ہے اس کی فضیلت

باقی سے زیادہ ہے“ (الکافی ۳/۳۱۴، بحار الانوار: ۱۰۱/۵۰، حدیث ۱۵)





## چوتھا حصہ

وحی و قرآن کے دامن میں پرورش پانے والے اور علم و شرافت کے مجسمے  
حضرت امام حسن مجتبیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کے افتخارات و کمالات کے سمندر سے  
ایک قطرہ۔

## یہ سارے جنتی ہیں

(۱/۲۸۶) برسی کتاب مشارق میں خذیفہ بن یمان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: میں نے

رسول خدا کو دیکھا، آپ نے امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں:

ایہا الناس هذا ابن علی فاعرفوه والذی نفس محمد بیدہ انہ لفی

الجنة ومحبہ فی الجنة ومحب محبیہ فی الجنة

”اے لوگو! یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، اسے پہچان لو۔ اس ذات کی قسم

جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ خود بھی جنتی ہے اور اس کا

محب بھی جنتی ہے اور اس کے محبان کا محب بھی جنتی ہے“ (مشارق الانوار: ۵۳)

## حسین کی عظمت

(۲/۲۸۷) طریحی کتاب ”مجمع البحرین“ میں فرماتے ہیں:

اہل سنت اور شیعہ کی متفقہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اور امیر المومنینؑ دونوں امام

حسنؑ اور امام حسینؑ سے فرماتے تھے۔

بابی انت وامی

”تمھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں“ (مجمع البحرین: ۱/۳۳)

## امام حسن کا معجزہ

(۳/۲۸۸) محمد بن جریر طبری کتاب ”نوادیر الحجرات“ میں زید بن ارقم سے نقل کرتے ہیں:

میں مکہ مکرمہ میں ایک گروہ کیساتھ موجود تھا، وہاں امام حسن مجتبیٰؑ بھی تشریف

فرماتے تھے، ہم نے امام حسنؑ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دیکھائیں، جسے ہم شہر

کوفہ میں اپنے دوستوں کے لئے بیان کریں۔ جب ہم نے یہ کہا تو ہم نے دیکھا حضرت نے

چند کلمات ارشاد فرمائے۔

اچانک خانہ کعبہ اوپر چلا گیا، یہاں تک کہ ہوا میں معلق ہو گیا، مکہ والوں کو اس کی کوئی خبر نہ تھی، وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، جو لوگ اس واقعہ اور معجزہ کے گواہ تھے، ان میں سے کچھ کہنے لگے: یہ جادو ہے، کچھ نہ کہا: یہ کام عجیب اور خارق العادہ ہے۔ بہت سے لوگ خانہ کعبہ کے نیچے سے گذر رہے تھے اور وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا، پھر امامؑ اسے اپنی اصلی حالت پر لے آئے۔

(نوار المعجزات: ۱۰۳ احادیث، ۱۰، دلائل الایمان: ۱۶۹ احادیث، ۱۱۵ مدنیہ المعارج: ۳/۲۳۸ احادیث، ۲۱)

### حسینؑ جنت کی زینت

(۳/۲۸۹) کتاب فضائل امیر المومنین میں حمید بن علی بن بجلی سے نقل کرتے ہیں کہ رسولؐ خدا نے فرمایا: جب اہل بہشت کو بہشت کی طرف بھیجا جائے گا تو بہشت عرض کرے گی:

یا رب الیس قد وعدتہ ان تزینتہ ہر کنین؟  
 ”اے خدا! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ مجھے دو رکتوں سے مزین فرمائے گا؟“  
 اس وقت ندا آئے گی۔

الیس قد زینتک بالحسن والحسین  
 ”کیا میں نے تجھے حسنؑ اور حسینؑ کے ذریعے سے زینت نہیں دی؟“

(بحار الانوار: ۳/۲۷۶ اور ۲۹۳ اور ۳۰۴)

### امام حسنؑ ہوا میں

(۵/۲۸۰) محمد بن جریر طبریؒ جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں:

میں نے امام حسن مجتبیٰؑ کو دیکھا کہ ہوا میں اوپر چلے گئے ہیں اور آسمان میں چھپ گئے ہیں، اور تین دن تک وہاں رہے، جب تین روز کے بعد واپس آئے تو آپ میں



ایک خاص قسم کا سکون اور آرام تھا۔ آپ نے فرمایا:

ہروح آبائی نلت مانلت

”مجھے اپنے آباؤ اجداد کی قسم، میں جو چاہتا تھا میں نے وہ پالیا“

(توادر الحجرات: ۱۰۰ حدیث ۳، دلائل الامتہ: ۱۶۶ حدیث ۷، مدنیۃ المعاجز: ۳/۲۳۳ حدیث ۱۳)

مؤلف فرماتے ہیں: اگر کہا جائے کہ کیسے ممکن ہے اپنے جسم کے ساتھ اوپر جائے اور حدیث غمرتین کے مطابق کیسے ممکن ہے خانہ کعبہ اوپر جائے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ اس اعتراض کا جواب پہلے حصے کی حدیث نمبر ۲۷ میں گذر چکا ہے وہاں رجوع کریں۔

### امام حسنؑ اور مچھلی

(۶/۲۹۱) سید ہاشم بحرانی کتاب ”مدنیۃ المعاجز“ میں ابن جریر سے نقل کرتے ہیں:

میں نے امام حسن مجتبیٰؑ سے عرض کیا: مجھے کوئی خاص معجزہ دکھلائیں، تاکہ دوسروں کے سامنے بیان کروں، جب میں نے یہ درخواست کی تو میں نے امامؑ کو دیکھا کہ آپ اپنی جائے نماز سے زمین کے اندر چلے گئے اور چھپ گئے، پھر جب واپس لوٹے تو اپنے ساتھ ایک بڑی مچھلی لائے اور فرمایا:

جنتک بہ من البحور السبع

”میں اس کو سات سمندروں سے لایا ہوں“

ابن جریر کہتے ہیں: میں نے مچھلی امامؑ سے لے لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اور بہت سے دوستوں کو اس کے ساتھ کھانا کھلایا۔ (مدنیۃ المعاجز: ۳/۲۳۷ حدیث ۲۰)

### آسمانی دروازے

(۷/۲۹۲) محمد بن جریر طبری ”محمد بن حجارہ سے نقل کرتے ہیں:

میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جب کہ ہرنوں کا ایک گروہ آپ کے پاس سے گذر رہا تھا، امامؑ نے انہیں آواز دی، سب نے جواب دیا، اور آپ کے سامنے حاضر

ہو گئے۔ ہم نے حضرت سے عرض کیا: یا بن رسول اللہ یہ حیوان وحشی ہیں، ہمیں کوئی آسانی معجزہ دیکھائیں، امامؑ نے آسمان کی طرف دیکھا گویا اس کے دروازے کھل گئے، ایک نور نیچے آیا اور مدینے کے تمام گھروں کا اس نور نے احاطہ کر لیا اور پھر اچانک سب گھر ایسے لرزنے لگے جیسے گرنے والے ہوں۔ ہم نے عرض کیا: یا بن رسول اللہ اس کو واپس پلٹا دیں۔  
امام علیہ السلام نے فرمایا:

نحن الاولون والاخرون ونحن الامرون ونحن النور ننور  
الروحانيين ننور بنور الله ونروح بروحه فينا مسكنه والينا معدنه  
الاخر منا كلاول والاو منا كلاخر

”ہم وہ اول ہیں جن سے خلقت کا آغاز ہوا، ہم وہ آخر ہیں جن سے کائنات کا اختتام ہوگا، ہم ایسے امر کرنے والے ہیں جن کے حکم کی ہر چیز اطاعت کرتی ہے، ہم وہ نور ہیں جو فرشتوں کو نور بخشتا ہے، خدا کے نور کیساتھ ان کو منور کرتے ہیں اور الہی بشارت کے ذریعے سے ہم انہیں مسرور کرتے ہیں، خدا کے نور کا ٹھکانہ اور کان ہم ہیں اور ہمارا پہلا آخری کی طرح ہے اور ہمارا آخری اول کی طرح ہے“

(نوادیر المعجزات: ۱۰۳ حدیث ۸، دلائل الامامة: ۱۶۸ حدیث ۱۳، معینہ الحاجز: ۴/۲۳۶ حدیث ۱۹)

### شہر بقیہ

(۸/۲۹۳) طبریؒ سعد بن مہد سے نقل کرتے ہیں۔

امام حسن مجتبیٰؑ کو میں نے مکہ میں دیکھا کہ آپ نے چند کلمات اپنی زبان پر جاری کئے اور خانہ کعبہ کو اوپر لے گئے۔ یا اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کر دیا۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، ہم نے اس معجزہ کو دوسروں کے لئے بیان کیا، لیکن وہ ہماری بات ماننے کے لئے تیار نہ تھے کہ ہم نے حضرت کے ساتھ مسجد کوفہ میں ملاقات کی، اور

آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا بن رسول اللہ! کیا آپ نے اس طرح نہیں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا:

لو شئت لحولت مسجدکم الی لم بقہ وهو ملتقى النهرین نہر الفرات ونہر الاعلیٰ.

”اگر میں چاہوں تو تمہاری اس مسجد کو شہر بقیہ کی طرف منتقل کر دوں جو شہر نہر فرات اور نہر اعلیٰ کے سنگم میں ہے“

جب امامؑ نے یہ فرمایا تو ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ ایسا کر کے دکھائیں، آپ نے ایسا کیا اور پھر مسجد کو واپس اپنی اصلی جگہ پر لے آئے، اس کے بعد ہم حضرت کے معجزات کی کوفہ میں تصدیق کیا کرتے تھے۔

(نوادر المسجرات: ۱۰۴۰ حدیث ۱۱، دلائل الامامہ: ۱۶۹ حدیث ۱۶، امینۃ العاجز: ۳/۲۳۸ حدیث ۲۲)

## جنت میں

(۹/۲۹۴) کتاب جامع ترمذی ”فضائل احمد شرف المصطفیٰ، فضائل سعانی، امالی ابن شریح، اور امالی ابیہ بن بلہ میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے امام حسن اور امام حسینؑ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے۔

من احبنی واحب ہذین وابا ہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنة یوم القیامۃ

”جس نے بھی مجھے ان دو بچوں کے ساتھ ان کے باپ اور ماں کو دوست رکھا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں ہوگا“

ابوالحسن نے کتاب الاخبار میں اس حدیث کو نظم کی شکل میں ذکر کیا ہے۔

وصنوه

یدالحسین

اخذالبنی

مجمع

فی

وصحبه

وقال

یوما



من ودنی یا قوم او هذین او  
ابویهما فالخلد مسکنه معی

(مناقب ابن شراثوب ۳/۲۸۲، سفینۃ البحار ۱/۶۱۱)

”پیغمبر اکرمؐ نے ایک دن حسین اور ان کے بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جب کہ وہاں سب اصحاب جمع تھے اور فرمایا: اے لوگو! جو کوئی بھی مجھے، ان دو بچوں اور ان کے باپ اور ماں کو دوست رکھتا ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا“

### کوئی مجھے دیکھ رہا ہے

(۱۰/۲۹۵) روایت ہوئی ہے کہ حضرت امام حسنؑ رسولؐ خدا کی محفل میں حاضر ہوتے تھے جب کہ ابھی آپ سات سال سے اوپر نہ تھے، خدا کی وحی کو پیغمبر اکرمؐ کے مبارک لبوں سے سنتے تھے، اسے حفظ کرتے تھے اور جب گھر واپس آتے تو جو یاد کیا ہوتا، سب کچھ اپنی والدہ کو بیان کرتے، جب علیؑ حضرت زہراءؑ کے پاس آتے تو قرآن اور وحی کے تازہ کلمات ان سے سنتے اور حضرت زہراءؑ سے سوال کرتے، یہ کلمات کہاں سے نقل کئے ہیں؟

سیدہ عرض کرتی: اپنے بیٹے حسن سے ایک دن علیؑ اپنے گھر میں چپ گئے، امام حسنؑ گھر میں آئے اور چاہتے تھے کہ وہ نورانی کلمات جو وحی الہی کے سننے سے بیان کریں، لیکن بیان نہ کر سکے، کاہنے لگے اور کلمات صحیح طرح زبان سے نہ نکل سکے۔

حضرت امام حسنؑ کی والدہ حضرت زہراءؑ نے بڑا تعجب کیا، امام حسنؑ جہنمی نے عرض کیا:

لا تعجبین یا اماہ فان کبیرا یسمعنی واستماعہ قد اوقفتنی

”اے امی جان! تعجب نہ کریں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا شخص میری

باتوں کو سن رہا ہے اور اس کا میری باتوں کو سنتا مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے“

اس وقت علیؑ باہر آ گئے اور اپنے پیارے بیٹے کو بوسہ دیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام حسنؑ نے عرض کیا:

یا اماء قل بیانی وکل لسانی لعل سید یروانی

”اے امی جان! میرا بیان کم ہو گیا ہے اور میری زبان میں طاقت نہیں رہی

ایسے ہے جیسے کوئی آقا مجھے دیکھ رہا ہے“

(مناقب ابن شہر آشوب: ۳/۸، بحار الانوار: ۳۳/۳۸۸، حدیث ۱۱، معالی السطین: ۹)

## اسم حسنؑ

(۱۱/۲۹۶) شیخ صدوقؒ کتاب ”معانی الاخبار“ میں امام صادقؑ سے اور آپ اپنے والد

بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ:

جبرائیل نے امام حسنؑ کا نام مبارک جب کہ بہشت کے ریشمی کپڑے کے درمیان

تھا رسول خدا کو ہدیہ کیا اور امام حسینؑ کا نام حسن سے لیا گیا ہے۔

(معانی الاخبار: ۵۵، حدیث ۸، مغل الشرائع: ۱/۱۳۹، حدیث ۹، بحار الانوار: ۳۳/۲۳۱، ۱۱۲)

## جنت میں دو درخت

عروہ باریقی کی روایت جو پیغمبر اکرمؐ سے نقل ہے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن اور حسین

علیہما السلام جنت میں دو درختوں کے نام ہیں، جن سے رسول خداؐ نے شب معراج میوہ کھایا تھا۔

حکایت ہوئی ہے کہ خدا نے ان دو ناموں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا یہاں تک کہ

فاطمہؑ کے دو بیٹوں کے نام ان سے رکھے گئے۔ (بحار الانوار: ۳۳/۳۱۲، حدیث ۷۳، تہذیب الاسماء

۱/۱۵۸، الاحقاق: ۱۰/۳۸۸)

## اے کریم مولا!

(۱۲/۲۹۷) ابن شہر آشوبؒ کتاب ”مناقب“ میں لکھتے ہیں کہ امام حسنؑ جب بھی وضو

کرتے تھے تو آپ کے اعضاء لرزتے تھے اور آپ کا رنگ مبارک زرد ہو جاتا تھا،

جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونہ وترتعد  
مفاصلہ

”جو شخص بارگاہ رب العرش میں حاضر ہوتا ہے، تو اس پر حق بنتا ہے کہ اس کا  
رنگ زرد ہو جائے اور اعضاء کا پٹنے لگیں اور جب آپ مسجد کے پاس پہنچتے  
تو اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرتے اور کہتے۔“

الہی ضیفک بیابک ، یا محسن قد اتاک المسی فتجاوز عن  
قیح ما عندی یعمل ما عندک یا کریم  
”اے پروردگار! تیرا مہمان تیرے گھر میں کھڑا ہے۔ اے احسان کرنے  
والے! تیرا گناہ گار بندہ تیرے پاس آیا ہے، اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے  
میری برائیوں سے درگزر فرما۔ اے کریم مولا!“

(مناقب ابن شہر آشوب: ۴/۱۲، المستدرک: ۱/۳۵۴ حدیث ۴، بحار الانوار: ۳۳۹/۲۳۹ حدیث ۱۳)

## امام حسنؑ کا گریہ

(۱۳/۲۹۸) شیخ صدوق ”کتاب ”امالی“ میں رقم طراز ہیں:

امام حسنؑ جب حج کے سفر کے لئے جاتے تو پیدل جاتے اور کبھی پاؤں سے ننگے  
جاتے، جب موت کو یاد کرتے تو آنسو بہاتے اور جب قبر کو یاد کرتے یا قبر سے باہر آنے کو  
یاد کرتے یا میدان محشر کو یاد کرتے یا پل صراط سے گزرنے کے بارے میں سوچتے تو گریہ  
کرتے تھے اور جب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے اور اعمال کے حساب و کتاب کو یاد کرتے تو  
چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔

جب آپ بارگاہ ایزدی میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کے بدن میں لرزہ  
پیدا ہو جاتا اور جب بہشت یا دوزخ کو یاد کرتے تو پریشان ہو جاتے اور ایک ڈسنے والے  
سانپ کی طرح چیخ و تاب کھاتے، اور خدا سے بہشت کی درخواست کرتے اور اس سے دوزخ



کی آگ سے پناہ مانگتے۔

(امالی صدوق: ۲۲۳ حدیث ۱۰، مجلس ۳۳، بحار الانوار: ۳۳/۳۳۱ حدیث ۱، حلیۃ الابرار: ۳/۵۳ حدیث ۱، معالی السطین: ۱۳)

روایت ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا تمام مال دو مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق تین مرتبہ فقیروں کے درمیان تقسیم کیا اور پچیس مرتبہ پیدل حج خانہ کعبہ کیا

(بحار الانوار: ۳۳/۳۳۹ حدیث ۱۳)

## درخت کا دوڑنا

(۱۴/۲۹۹) ابو جعفر محمد بن جریر طبری "ابراہیم بن سعد سے نقل کرتے ہیں:

میں نے محمد بن اسحاق سے سنا کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ ابھی بچے تھے اور کھیل رہے تھے، اس حال میں میں نے دیکھا کہ امام حسنؑ نے کھجور کے ایک درخت کو آواز دی تو وہ درخت آپ کی طرف ایسے آیا جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کی طرف دوڑا آتا ہے۔

(نوادیر المعجزات: ۱۰۰ حدیث ۱، دلائل الالمامۃ: ۱۶۴ حدیث ۴، مدینۃ المعاجز: ۳/۲۳۱ حدیث ۱۰)

## امام حسنؑ کی سخاوت

(۱۵/۳۰۰) طبریؒ نے قیسہ بن ایاس سے نقل کیا ہے:

میں امام حسنؑ کے ساتھ ہمسفر تھا، ہم شام کی طرف جا رہے تھے، آپ روزہ کی حالت میں تھے، سوائے سواری کے جو آپ کے ساتھ تھی کوئی زاد و توشہ ہمراہ نہ تھا، جیسے ہی سورج کی سرخی چھپ گئی اور نماز واجب کا وقت آیا تو آپ نے نماز پڑھی، پس ایسے لگا جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں اور چراغ لٹک چکے ہوں، فرشتے نیچے آئے اور اپنے ساتھ غذا اور میوے کے برتن، نیز کچھ طشت اور پانی کے برتن زمین پر لا کر رکھے، دسترخوان بچھا دیا گیا اور ہم سب مل کر ستر آدمی تھے، اس دسترخوان سے ہم نے ہر چیز کھائی، امامؑ اور ہم سب میر ہو گئے، دوبارہ اس دسترخوان کو بغیر اس کے کہ اس سے کوئی چیز کم ہوئی ہو واپس لے

گئے۔ (نوادیر المعجزات: ۱۰۲ حدیث ۶، دلائل الالمامۃ: ۱۶۷ حدیث ۱۰، مدینۃ المعاجز: ۳/۲۳۵ حدیث ۱۶)

## انوکھی ولادت

(۱۶/۳۰۱) طبریؒ حضرت جواد الائمہ سے نقل کرتے ہیں:

امیر المومنین اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ اور سلمان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اچانک ایک مرد بڑی خوبصورت شکل کے ساتھ وہاں داخل ہوا اور آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا، پھر عرض کی: یا امیر المومنین! آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں نے آپ کے علاوہ دوسرے کا انتخاب کر کے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو بخشا نہیں جائے گا اور دنیا و آخرت میں ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

امیر المومنین نے فرمایا: جو حیرادل چاہتا ہے پوچھو۔ اس نے عرض کیا:

اخبرنی عن الرجل اذا انام اين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف

يلذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الا اعمام والا خوال؟

”مجھے بتائیں آدمی کی نیند کے وقت روح کہاں جاتی ہے؟ اور کس طرح آدمی

ایک مطلب کو یاد رکھتا ہے اور کسی مطلب کو بھول جاتا ہے؟ اور کس طرح آدمی

کا بچہ اپنے دووھیال اور نھیال والوں کے ساتھ شبابہت رکھتا ہے؟“

جب اس شخص کے سوالات مکمل ہو گئے تو امیر المومنینؑ نے اپنے بیٹے امام حسنؑ کی

طرف رخ کیا اور فرمایا: اے ابو محمد! تو اس شخص کے سوالات کے جواب دے۔

امام حسنؑ نے فرمایا: رہا تیرا پہلا سوال تو جواب یہ ہے کہ اس کی روح ہوا میں اور

ہوا فضا میں لٹک جاتی ہے، اس وقت تک کہ یہ شخص اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لئے حرکت

دے۔ پس اگر خدا تعالیٰ اس روح کو صاحب روح کی طرف لوٹنے کی اجازت دے دے تو

روح ہوا کو اور ہوا فضا کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور آخر کار روح واپس لوٹ آتی ہے اور صاحب

روح کے بدن میں چلی جاتی ہے، اور اگر خدا تعالیٰ روح کو لوٹنے کی اجازت نہ دے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی فضا ہوا کو اور ہوا روح کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور قبر سے نکلنے کے وقت تک روح صاحب روح کے بدن کی طرف واپس نہیں آتی۔

تیسرا دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کسی چیز کو یاد کیسے رکھتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا دل ایک طرف میں ہے اور اس پر ایک پردہ ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ کسی مطلب کو یاد میں لائے تو ایک کھل درود محمد و آل محمد علیہم السلام پر بھیجتا ہے۔ تو وہ پردہ جو دل پر ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اس طرح دل کھل جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص جس چیز کو بھول گیا ہوتا ہے اسے یاد آ جاتی ہے۔

اور اگر محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود نہ بھیجے یا ناقص درود بھیجے ”یعنی آل کو درود میں ذکر نہ کرے“ تو دل پر جو پردہ ہے وہ ایک طرف نہیں اٹھتا تو نیچے دل اسی طرح تاریک رہتا ہے اور وہ مطلب بھولا رہتا ہے۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے جب آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اگر اس کا دل مطمئن، رگیں پرسکون اور بدن میں کوئی لرزہ اور اضطراب نہ ہو تو نطفہ رحم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف آدمی کا دل مطمئن نہ ہو، اس کی رگیں پرسکون نہ ہوں، اس کا بدن کسی خوف یا وحشت یا کسی اور وجہ سے کاپنے لگے اور مضطرب ہو جائے تو نطفہ بھی کانپ جاتا ہے اور کسی نہ کسی رگ پر جا گرتا ہے، اگر دودھیال والی رگوں پر جا گرے تو بچہ اپنے چچاؤں وغیرہ کی شکل پر جاتا ہے اور اگر نطفہ ننھیال والی رگوں پر جا گرے تو بچہ اپنے ماموں کی شکل پر جاتا ہے۔

سوال کرنے والے شخص نے جب اپنے سوالوں کے جواب سنے تو عرض کرنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اس کے رسول ہیں۔

اس کے بعد امیر المؤمنینؑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسولؐ



خدا نے اپنے بعد آپ کو وصیت کی اور آپ ان کے جانشین اور وصی ہیں، اور ان کی روشن دلیلوں کو واضح کرتے ہیں۔ پھر امام حسن کی طرف اشارہ کیا اور عرض کی۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے بعد ان کے وصی اور جانشین ہیں اور ان کی جتوں اور دلائل کو قائم کرو گے۔ پھر عرض کی: میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین بن علیؑ اپنے بھائی کے بعد جنت خدا ہے، اور لوگوں کو دلیل اور برہان دکھلائے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علیؑ بن الحسینؑ حسینؑ کے امر کو زندہ رکھنے والا ہے۔ یعنی ان کے بعد ہدایت کے پرچم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن علیؑ، علی بن الحسینؑ کے امر کو قائم رکھنے والا ہے اور ان کی راہ کو برقرار رکھنے والے ہیں۔

اور میں گواہی دیتا ہوں جعفر بن محمدؑ، محمد بن علیؑ کے بعد ان کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں، اور ان کے بعد ولی امر ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ بن جعفر جعفر بن محمدؑ کے امر کو باقی رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد صاحب اختیار ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن موسیٰ بن جعفرؑ کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں، اور ان کے بعد لوگوں کے پیشوا ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن علیؑ، علی بن موسیٰؑ کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد جن والنس کے راہنما ہیں۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن محمدؑ، محمد بن علیؑ کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد امور کے والی ہیں۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن بن علیؑ، علی بن محمدؑ کے امر کو قائم رکھنے والے ہیں اور ان کے بعد شیعوں کی ہدایت کرنے والے ہیں۔

واشهد ان رجلا من ولد الحسن بن علی لا یسمی ولا یکنی حتی

یظہر امرہ فیملہا قسطا وعدلا کما ملئت جورا

”میں گواہی دیتا ہوں آخری امام حسن بن علیؑ کی اولاد سے ایک مرد ہے

جن کا اصلی نام اور کنیت ان کے ظہور تک نہیں کہنی چاہیے پس وہ جہان کو عدل سے پر کر دیں گے جیسے یہ ظلم اور ستم سے پر ہو چکی ہوگی“

اس کے بعد عرض کیا: یا امیر المومنین! آپ پر خدا کا درود اور رحمت ہو، پھر اٹھا اور چلا گیا۔ امام حسنؑ اس کے پیچھے مسجد سے باہر گئے، جب واپس آئے تو امیر المومنینؑ سے عرض کیا: جیسے ہی اس نے اپنے پاؤں مسجد سے باہر رکھے تو پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ حضرت نے فرمایا: اے ابو محمد کیا اسے جانتے ہو؟ آپ نے عرض کیا: خدا اس کا رسولؐ اور امیر المومنینؑ بہتر جانتے ہیں۔

علیؑ نے فرمایا: وہ خضرؑ تھے۔

(دلائل الامامة: ۱۷۴: ۱۷۵ حدیث ۲۶، المحاسن: ۲۷۴: ۲۷۵ حدیث ۱۹۹، کمال الدین: ۳۱۳، عیون الاخبار: ۱/۶۵ حدیث ۳۵)

## کفلین سے مراد کیا ہے؟

(۱۷/۳۰۲) کتاب مناقب میں آیت شریفہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ  
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ (سورہ حدید: آیت ۲۸)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے عنایت فرمائے اور تمہارے لئے نور قرار دے جس کے ذریعے سے تم بہشت تک جا سکو“

کی تفسیر کے متعلق امام صادقؑ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا:

الكفلين الحسن والحسين والنور عليؑ

”کفلین سے مراد حسنؑ اور حسینؑ ہیں۔ اور نور سے مراد علیؑ ہیں“

(مناقب ابن شہر اشوب: ۳/۳۸۰، بحار الانوار: ۲۳/۳۱۷ حدیث ۲۶ تاویل لآیات: ۲/۶۶۹ حدیث ۲۸، تفسیر

برہان: ۳/۳۰۰ حدیث ۶)

## آیات سے مراد

(۱۸/۳۰۳) اسی کتاب میں ان دو آیتوں (وَالَّذِينَ وَالزَّيُّونَ وَطُورِ سِينِينَ)

(سورہ تین: آیت ۱۱ اور ۲)

کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:  
واتین والزتھون سے مراد حسنؑ اور حسینؑ ہیں اور طور سینین سے مراد علیؑ ہیں اور  
والبلاء الامین سے مراد محمدؐ ہیں۔

(مناقب ابن شہر آشوب ۳/۳۹۳ بحار الانوار: ۲۳/۱۰۵ حدیث ۱۱۵ اور تفسیر برہان: ۴/۳۷۷ حدیث ۴)

## سیب کی گردش

(۱۹/۳۰۴) علامہ مجلسیؒ بحار الانوار میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

ایک دن میں رسولؐ خدا کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ وہاں امیر المومنینؑ، فاطمہؑ،  
حسنؑ اور حسینؑ بھی موجود تھے۔ اچانک جبرائیل نازل ہوا اور اپنے ساتھ ایک سیب لایا جو  
رسولؐ خدا کو بطور ہدیہ دیا، پیغمبر اکرمؐ نے اس کو قبول کیا اور امیر المومنینؑ کو ہدیہ کر دیا۔  
امیر المومنینؑ نے اسے قبول کیا چوما اور رسولؐ خدا کو واپس کر دیا، پیغمبر اکرمؐ نے  
سیب لے کر امام حسنؑ مجتبیٰ کو ہدیہ کیا، امام حسنؑ نے لیا، چوما اور رسولؐ خدا کو واپس کر دیا۔ رسولؐ  
خدا نے وہی سیب امام حسینؑ اور حضرت زہراءؑ کو باری باری ہدیہ کیا، دونوں نے لیا اور چوم  
کر واپس رسولؐ خدا کو لٹا دیا، رسولؐ خدا نے دوبارہ علیؑ کو وہ سیب دیا، جب علیؑ نے اس  
سیب کو واپس کرنا چاہا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پس اس سے ایک ایسا  
نور نکلا جس نے آسمان اور زمین کو روشن کر دیا، ہم نے دیکھا کہ اس پر قلم قدرت پروردگار سے  
دوسطریں ہوئی ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم تحية من الله الى محمد المصطفى وعلي

المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سبطي رسول الله



وامان لمحبيهما يوم القيامة من النار

(بخارالانوار: ۲۳/۳۰۷ حدیث ۷۲، مائتہ مقبوتہ: ۲۶، مقبوت ۸، نایۃ المرام: ۶۵۹)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے۔ یہ پروردگار کی طرف سے محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰؐ، فاطمہ زہراءؑ حسنؑ اور حسینؑ کے لئے تحفہ، اور ان کے دوستوں کے لئے جہنم کی آگ سے امان نامہ ہے۔

## ہار کے موتی

(۲۰/۳۰۵) اسی کتاب میں روایت ہوئی ہے کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ نے تحریر لکھی تھی۔ امام حسنؑ نے اپنے بھائی حسینؑ سے فرمایا: میرا خط تیرے خط سے خوبصورت ہے، امام حسینؑ نے فرمایا: نہیں، میرا خط آپ کے خط سے خوبصورت ہے، دونوں نے اپنی والدہ فاطمہؑ سے عرض کیا: آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، حضرت زہراءؑ نے فرمایا: میں سے کسی ایک کو ناراض کرے لہذا فرمایا: اپنے باپ سے جا کر پوچھو۔ جب حضرت علیؑ سے پوچھا تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بچہ ناراض ہو، لہذا آپ نے فرمایا: اپنے نانا رسول خداؐ سے جا کر پوچھو۔

رسول خداؐ نے فرمایا: میں اس وقت تک آپ کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا مگر یہ کہ جبرائیل سے پوچھ نہ لوں، جب جبرائیل آیا تو اس نے عرض کیا: میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اسرائیل فیصلہ کرے گا۔ اسرائیل نے عرض کیا: میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک بارگاہ ایزدی سے سوال نہ کر لوں جب خدا سے پوچھا گیا تو خدا نے فرمایا: میں فیصلہ نہیں کروں گا بلکہ ان کی والدہ زہراءؑ فیصلہ کرے، حضرت زہراءؑ نے عرض کیا: اے پروردگار! میں آپ کے حکم کی اطاعت کرتی ہوں اور فیصلہ کرتی ہوں۔ حضرت زہراءؑ کے پاس ایک ہار تھا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو فرمایا: میں اس ہار کے موتیوں کو تمہارے سامنے زمین پر گرا دیتی ہوں جس نے تم دونوں میں سے زیادہ جن لیے اس کا خط زیادہ خوبصورت ہے، پھر آپ نے اپنا ہار کھولا اور موتی زمین پر گرا

دیئے۔ جبرائیل اس وقت عرش الہی کے پاس تھا، خدا نے حکم دیا، فوراً جا اور موتیوں کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ ان دو شہزادوں میں سے کوئی نا راحت نہ ہو جائے۔

للفعل ذلک جبرائیل اکراما لہما وتعظیما

”جبرائیل نے ان دونوں کے اکرام اور تعظیم کی خاطر فوراً ایسا کر دیا“

(بحار الانوار: ۳۳/۹ سطر ۱۵ الانوار: الصمدیہ: ۱/۱۹)



## پانچواں حصہ

وحی و قرآن کے دامن میں پرورش پانے والے، کامل شدہ علم شرافت اور کائنات کے شہیدوں کے سردار حضرت ابا عبد اللہ الحسین صلوات اللہ علیہ۔ کے افتخارات اور کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ۔



## حدیث بھول گئی

(۱/۳۰۶) قطب الدین راوندیؒ کتاب خراج میں امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امام حسینؑ کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کی: خدا نے آپ کو جو فضائل عطا کئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔

امامؑ نے فرمایا: تجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تو ان کو سن سکے اور قبول کر سکے۔ اس نے عرض کیا: یا بن رسول اللہ! آپ بیان کریں، میں برداشت کروں گا اور قبول کروں گا۔ امامؑ نے جب اس کے اصرار کو دیکھا تو اس کے لئے ایک حدیث بیان فرمائی۔

لیکن ابھی آپ کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس شخص کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور وہ حدیث کو بھول گیا امام حسینؑ نے فرمایا:

ادركته رحمة الله حيث لسي الحديث

”خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوئی کہ وہ فوراً حدیث کو بھول گیا“

(الخرائج: ۲/۹۵ حدیث ۵، مختصر البہار: ۱۰۸ اثبات الحدیث: ۱۹۵/۵ حدیث ۳۰)

## عقل زائل ہو گئی

(۲/۳۰۷) روایت ہوئی ہے کہ تین آدمی حضرت امام حسینؑ کی خدمت میں شرفیاب ہوئے

اور آپ سے اس طرح کی حدیث کی درخواست کی، جب حضرت نے ان سے ایک کے لئے حدیث بیان فرمائی تو وہ جب اٹھا، اس کی عقل ختم ہو چکی تھی اور الٹا ہو کر چلنے لگا، اس کے دونوں ساتھیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے ساتھ بات کریں لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سب واپس لوٹ گئے۔

(الخرائج: ۲/۹۵ حدیث ۴، مختصر البہار: ۱۰۷)

(۳/۳۰۸) علامہ مجلسیؒ کے نواسے سید محمد حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: نوے ہجری سے

بعد کا ایک واقعہ ہے کہ شہر تسر کی نہر میں ایک سنگریزہ ملا، جس پر سرخ رنگ سے

کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے، اس شہر کے حاکم نے وہ سنگریزہ بادشاہ کے پاس بھیج دیا، اس نے کندہ کاری اور صنعت گری میں ماہر لوگوں کو دیکھایا۔ تاکہ اس کے نقش میں غور و فکر کریں، ان سب نے غور و فکر کرنے کے بعد گواہی دی کہ یہ کسی بشر کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ قدرتی طور پر ہے اور پروردگار کے قلم قدرت سے اسی پتھر پر لکھا ہوا ہے۔ جو کلمات اس پتھر کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے تھے وہ یہ تھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي  
الله قتل الامام الشهيد المظلوم الحسين بن الامام على بن ابي  
طالب عليهما السلام وكتب بدمه باذن الله وحوله على كل ارض  
وحصاة (وَمَسَّ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)

(سورہ شعراء: آیت ۲۲۷)

”خدا کے نام کے ساتھ جو رحمن اور رحیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، امام شہید مظلوم حسین بن علی بن ابی طالب علیہما السلام قتل کر دیئے گئے، اور حکم خدا اور اس کی قدرت سے زمین کے ہر سنگریزے پر لکھا گیا ہے (عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس سزا کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں“

پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پتھر کو چاندی میں زینت دی جائے، تاکہ میں اسے اپنے بازو پر باندھ سکوں۔

اس حکایت کے مشابہ ایک خبر شیخ بہائیؒ نے نقل کی ہے کہ زمین کربلا میں سرخ رنگ کا ایک پتھر ملا جس پر یہ دو شعر لکھے ہوئے تھے۔

انا	در	من	السماء	لثرونی
یوم	تزوج	والد	السبطین	
كنت	اصفی	من	اللجن	بیاضا

صبغتی دعاء نحر الحسين

(رياض الدرع والرحاء: ۲۲۱ قاطعة الزهراء بحجة قلب المصطفى: ۴۶۸)

”میں وہ موتی ہوں جو حسن و حسینؑ کے والد (علیؑ) کی شادی کے موقع پر آسمان سے زمین کی طرف ٹار کیا گیا تھا۔ میرا رنگ خام چاندی سے بھی سفید تر تھا، امام حسینؑ کے گلے کے خون نے مجھے اس طرح سرخ کر دیا ہے“

## زیارت امام کی فضیلت

(۴/۳۰۹) شیخ صدوق کتاب ”امالی“ میں عبد اللہ بن فضیل سے روایت نقل کرتے ہیں۔ میں امام صادقؑ کے پاس تھا کہ اہل طوس سے ایک مرد آپ کے پاس آیا اور سوال کیا: یا بن رسول اللہ! جو کوئی امام حسینؑ کی قبر کی زیارت کرے اس کا کتنا ثواب ہے۔ امامؑ نے اسے فرمایا:

یا طوسی من زار قبر ابی عبد اللہ الحسین بن علی علیہما السلام وهو يعلم انہ امام من اللہ مفترض الطاعة علی العباد غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر وقبل شفاعته فی سبعین مذبذباً ولم یسال اللہ عزوجل عند قبره حاجة الا قضا حاله

”اے طوسی جو کوئی امام حسین بن علی علیہما السلام کی قبر کی زیارت کو جائے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے واجب الطاعت امام ہیں (جس کی اطاعت بندوں پر خدا کی طرف سے واجب ہے) تو خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کرے گا، ستر گناہ گاروں کے متعلق اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اور حضرت کی قبر کے پاس جو حاجت بھی خدا سے طلب کرے گا خدا اس کو پورا کرے گا“

(امالی صدوق: ۶۸۳ حدیث ۱۱ مجلس ۸۶، بحار الانوار: ۱۰۱/۲۳ حدیث ۱۵)

مؤلف فرماتے ہیں کہ حدیث میں امامؑ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے آئندہ گناہ



بھی خدا معاف کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اسے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا اور اس کا انجام بخیر ہوگا، تاکہ اس سے یہ لازم نہ آئے کہ گناہ کا ارتکاب جو عقلی طور پر صحیح ہے جائز ہے۔

## اپنے اپنے کمالات

(۵/۳۱۰) شاذان بن جبریل قی کتاب فضائل میں نقل کرتے ہیں:

ایک دن رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنینؑ بھی آپ کے پاس موجود تھے کہ اچانک امام حسینؑ آگئے، پیغمبر اکرمؐ نے ان کو پکڑ کر اپنی گود میں لے لیا اور ان کی پیشانی اور ہونٹوں کا بوسہ دیا، اس وقت آپ کی عمر چھ سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ امیر المومنینؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ میرے بیٹے سے محبت کرتے ہیں پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

کیف لا احبه وهو عضو من اعضای

”کس طرح میں اس سے محبت نہ کروں جب کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے“

علیؑ نے عرض کیا: آپ مجھے زیادہ دوست رکھتے ہیں یا حسینؑ کو؟ رسولؐ خدا کے جواب دینے سے پہلے امام حسینؑ نے عرض کیا:

یا ابا من کان اعلیٰ شرفا کان احب الی النبی واقرّب الیہ منزلة

”بابا جان! جو از حیث نسب برتر اور از حیث شرف بلند ہوگا وہ نبیؐ کے

نزدیک محبوب تر اور مقام و درجہ کے لحاظ سے ان کے نزدیک تر ہوگا“

حضرت علیؑ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: کیا اپنے اپنے اختیارات اور کمالات بیان نہ کریں؟

امام حسینؑ نے عرض کیا: ہاں! اگر آپ راضی ہیں تو میں تیار ہوں۔

علیؑ نے فرمایا: بیٹا میں مومنوں کا حاکم، بچوں کی زبان، مصطفیٰ کا معاون، مددگار،

خدا کے علم کا خزانہ دار اور مخلوق کے درمیان اس کا چنا ہوا ہوں۔

میں پہلے زمانے کے لوگوں کی بہشت کی طرف رہبری کرنے والا ہوں، میں رسولؐ

خدا کے قرضوں کو ادا کرنے والا ہوں، میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہے جس کا ٹھکانا بہشت برین ہے، میرا بھائی جعفر طیار ہے، جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، میں رسول خدا کی طرف سے منصب قضاوت رکھتا ہوں، میں ان کا علم بردار ہوں، میں وہ ہوں جس نے سورہ برأت کو حکم خدا سے اہل مکہ کے سامنے تلاوت کیا اور میں وہ ہوں جس کو خدا نے اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے۔

میں خدا کی وہ محکم و مضبوط رسی ہوں، جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ تمسک کرو۔ وہ فرماتا ہے

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (سورہ آل عمران: آیت ۱۰۳)

”سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔“

میں خدا کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں میں وہ ہوں جس کی آسمان کے فرشتے زیارت کرتے ہیں، میں خدا کی بولتی زبان اور اس کے بندوں پر اس کی طرف سے حجت ہوں، میں خدا کا اقنور ہاتھ ہوں، میں آسمانوں میں خدا کا چہرہ ہوں اور اس کی روشن جانب و طرف ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے حق میں خدا فرماتا ہے۔

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْـَٔقُونَہُ بِالْقَوْلِ ۖ وَهُمْ بِأَمْرِہِ يَعْمَلُونَ

”بلکہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں جو ہرگز اس کی بات سے آگے نہیں

بڑھتے اور ہمیشہ اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں“ (انبیاء: ۲۶/۲۷)

میں خدا کی طرف سے ایسی محکم دستاویز ہوں، جس کے لئے شکست نہیں ہے۔ اور نہ ہی ٹوٹی ہے، خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

انا باب اللہ الذی یوتی منہ، انا علم اللہ علی الصراط انا بیت الذی

من دخلہ کان آمنا ضمن لمسک بولایتی ومحبتی امن من النار

”میں خدا کا وہ دروازہ ہوں جس سے داخل ہونا چاہیے، میں ہل صراط پر خدا

کی نشانی ہوں، میں خدا کا وہ گھر ہوں، جس میں جو بھی داخل ہو گیا وہ امان

پا گیا، اور جس نے بھی میری ولایت اور محبت کو پکڑ لیا وہ آتش جہنم سے محفوظ ہو گیا، میں وہ ہوں جس نے عہد توڑنے والے اہل جہل کو، ظلم کرنے والے اہل صفین اور دین سے خارج ہونے والے اہل خوارج کو قتل کیا، میں کافروں کو قتل کرنے والا اور یتیموں کا باپ اور بیوہ عورتوں کی پناہ ہوں، میں وہ ہوں جس کی ولایت کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔

کیونکہ آیہ شریفہ میں ہے۔

لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (سورہ کاف: آیت ۸)

”لازمی طور پر اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

اور میں خدا تعالیٰ کی وہ نعمت ہوں جو اس کے بندوں کو دی گئی۔

میں وہ ہوں جس کی شان میں خدا فرماتا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورہ مائدہ، آیت ۳)

”آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دیں اور میں راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہو۔“

فمن احبني كان مسلما مومنا كامل الدين

”پس جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ واقعی مسلمان ہوگا اور ایسا مومن ہوگا جس کا دین کامل ہوگا“

میں وہ ہوں جس کے سبب تم نے ہدایت پائی ہے۔ میرے اور میرے دشمن کے

متعلق خدا فرماتا ہے۔

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (سورہ صافات: آیت ۲۳)

”ان کو روکو ان سے سوال کیا جاتا ہے یعنی میری ولایت کے متعلق قیامت

کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور میں وہ عظیم خیر ہوں“



میں وہ ہوں جس کے سبب سے خدا نے اپنے دین کو غدیہ خم میں اور معرکہ خیبر میں مکمل کر دیا، میں وہ ہوں جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا:

من كنت مولاه فعلي مولاه

”میں مومن کی نماز کی روح ہوں۔ حتیٰ علی الصلوٰۃ میں صلوٰۃ سے مراد حتیٰ علی الفلاح میں فلاح سے مراد اور حتیٰ علی خیر العمل میں خیر العمل سے مراد میں ہی ہوں، میں وہ ہوں جس کے دشمنوں کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

(سورہ معارج: آیت ۱ اور ۲)

”ایک سائل نے ایسے عذاب کے بارے میں سوال کیا جس کا واقع ہونا حتمی ہے اور جس کے منع کرنے والا کوئی نہیں“

میں لوگوں کو حوض کی طرف بلاؤں گا اور میرے علاوہ کوئی بھی مومنوں کو حوض کی طرف نہیں بلائے گا، میں پاک اور معصوم اماموں کا باپ ہوں، میں قیامت کے دن اعمال کا ترازو ہوں، میں اہل دین کا سردار اور مومنوں کو اچھا بنوں کی طرف راہنمائی کرنے والا اور اپنے پروردگار کی بخشش ہوں، میرے اصحاب اور ساتھی قیامت کے دن میرے دوست ہوں گے، کیونکہ انہوں نے میرے دشمنوں سے دوری اختیار کی۔ اور ان سے بیزاری کا اظہار کیا، وہ موت کے وقت نہ ڈریں گے اور نہ کوئی غم کھائیں گے، ان کو قبر میں کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا، وہ شہداء اور صدیقین کے مرتبہ پر فائز ہوں گے جو بارگاہ ایزدی میں خوشحال اور شادمان زندگی بسر کر رہے ہیں، میں وہ ہوں جس کے شیعوں نے عہد کیا ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کریں گے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ رکھیں گے اگرچہ وہ ان کے والدین اور اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔

میں وہ ہوں جس کے شیعہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، میں وہ ہوں جس کے پاس میرے شیعوں کے ماموں کی فائل ہے۔

میں اہل ایمان کا مددگار ہوں اور خدا کے نزدیک ان کی شفاعت کروں گا۔  
 انا لضارب بالسيفين انا الطاعن بالرمحين انا قاتل الكافرين يوم بدر  
 وحين انا مردى الكماة يوم احد انا ضارب ابن عبيدود لعنة الله  
 تعالى يوم الاحزاب انا قاتل عمرو مرحب انا قاتل فرسان خيبر  
 ”میں دو تلواروں اور دو نیزوں کے ساتھ زخم لگانے والا ہوں، میں بدر اور  
 حنین کے دن کافروں کو قتل کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں، جس نے اسلحہ  
 سے یس شجاع لوگوں کو احد کے دن جہنم واصل کیا، میں جنگ احزاب میں  
 عمرو بن عبدود کو قتل کرنے والا ہوں، میں عمرو اور مرحب کو قتل کرنے والا ہوں  
 میں وہ ہوں جس نے خیبر کے بہادروں کو قتل کیا“  
 میں وہ ہوں جس کے متعلق جبرائیل نے ندا دی۔

لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على

”ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کے علاوہ کوئی جو امر نہیں ہے“  
 فتح مکہ کا سہرا میرے سر پر ہے، میں نے لات وعزی دو بتوں کو زمین پر گرایا اور  
 ان کی تمام شان وشوکت کو ملیا میٹ کر دیا، ہبل اعلیٰ اور مناة ثالثہ کو میں نے ویران کیا، میں وہ  
 ہوں جو پیغمبر اکرمؐ کے کندھوں پر چڑھا اور بتوں کو نیچے گرایا، میں وہ ہوں جس نے بت  
 یغوث، یعوق اور نسر کو توڑا، میں وہ ہوں جس نے راہ خدا میں کافروں کے ساتھ جنگ کی۔

انا الذي تصدق بالحاتم انا الذي نمت على فراش النبي ووقته  
 بنفسى من المشركين

”میں وہ ہوں جس نے اپنی انگلی فقیر کو عطا کی، میں وہ ہوں جو بستر نبیؐ پر  
 سویا اور خود کو خطرے میں ڈال کر حضرت کو مشرکوں سے بچایا“

میں وہ ہوں کہ جس کے خشم و غضب سے جن خوفناک ہیں، میں وہ ہوں جس کے سبب  
 خدا کی عبادت کی جاتی ہے، میں وحی الہی کا ترجمان اور علم خدا کا آئینہ ہوں، میں رسولؐ خدا کے بعد

جمل اور صفین کے جنگجوؤں کو قتل کرنے والا ہوں، میں بہشت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں۔  
 اس وقت طلحہ چپ ہو گئے تو رسول خداؐ نے امام حسینؑ سے فرمایا: اے ابو عبد اللہ کیا جو تیرے والد بزرگوار نے کہا وہ تو نے سنا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے شمار کیا ہے یہ ان کے فضائل کے دسویں حصے کا بھی دسواں حصہ ہے بلکہ وہ ان تمام فضائل سے بھی بلند تر ہے۔  
 امام حسینؑ نے عرض کیا:

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وعلى جميع  
 المخلوقين وخص جدنا بالتزليل والتاويل والصدق ومناجاة الامين  
 جبرائيل وجعلنا خيار من اصطفاه الجليل ورفعنا على الخلق اجمعين  
 ”تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنے اکثر مومن بندوں  
 اور تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، ہمارے نانا کو نزول قرآن، تاویل، سچائی  
 اور جبرائیل امین کے ساتھ کلام کرنے کے لئے خاص کیا ہمیں اپنے چنے  
 ہوئے بندوں میں سے اختیار کیا اور اپنی تمام مخلوق پر بلندی اور برتری عطا  
 کی“

پھر امام حسینؑ نے عرض کیا: یا امیر المؤمنینؑ آپ نے جو کچھ فرمایا: اس میں آپ  
 سچے اور امین ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: اے میرے بیٹے اب تم اپنے فضائل بیان کرو۔  
 امام حسینؑ نے عرض کیا: اے بابا جان! میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میری ماں  
 فاطمہ زہراءؑ تمام عورتوں کی سردار ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰؐ ہیں جو اولاد آدم کے سردار اور آقا ہیں۔  
 یا علیؑ خدا اور تمام لوگوں کے نزدیک میری ماں کا مقام آپ کی والدہ سے بڑھ کر  
 ہے، میرے نانا خدا اور تمام لوگوں کے نزدیک آپ کے نانا سے افضل ہیں۔

وانا في المهدي ناغاني جبرائيل وتلقاني اسرار الملائكة  
 ”میں وہ ہوں جس کا جبرائیل نے جھولا جھلایا اور اسرارِ مائیکہ جس کے دیدار  
 کے لئے آیا“



یا علی انت عند الله الفضل منی وانا افخر منک بالاباء والا مہات  
والاجداد

”یا علی“ آپ کا مقام خدا کے نزدیک افضل ہے اور میں اپنے آباؤ و اجداد  
اور ماؤں کے حسب و نسب کے ذریعے سے آپ سے زیادہ افتخار رکھتا ہوں“  
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اٹھے اور اپنے ہاتھ اپنے والد بزرگوار کے گلے  
میں ڈال کر انہیں چومنے لگے، علیؑ نے بھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بوسہ دیا اور فرمایا:  
زادک الله شرفا وفخرا وعلما وحلما ولعن الله تعالى ظالمیک یا  
ابا عبد الله

”خدا تعالیٰ تیرے شرف، فخر، علم اور حلم میں اضافہ فرمائے۔ اور اے ابا  
عبد اللہ جو تیرے اوپر ظلم کریں خدا ان پر لعنت کرے“

(الفصل ابن شاذان: ۸۳، حلیۃ الابرار، ۲/۱۳۳ حدیث ۶، معالی السطین: ۵۸)

### نوے ہزار سبز گنبد

(۶/۳۱۱) ابن قولویہ کتاب کامل الزیارات میں امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ  
نے فرمایا: گویا ایک نور کا تخت لگایا گیا ہے اور ایک سرخ یا قوت کا گنبد جو جواہرات  
کے ساتھ مزین ہے اس پر رکھا ہوا ہے۔

وکانی بالحسین بن علی جالسا علی ذلک السریر وحوالہ تسعون  
الف قبة خضراء وکانی یا المومنین یزورونه ویسلمون علیہ  
”گویا میں حسینؑ بن علیؑ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس تخت پر تشریف فرما ہیں اور  
ان کے ارد گرد نوے ہزار سبز گنبد ہیں، گویا میں مومنین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ  
حضرت کی زیارت کر رہے ہیں اور آپ پر سلام کر رہے ہیں“  
خدا تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے۔

اولیائی سلونی فطالما اودیتم وذللتم واضطهدتم فهذا یوم لا  
تسالونی حاجة من حوائج الدنیا والاخرة الا قضیتها لکم فیکون  
اکلهم وشربهم من الجنة فهذه واللہ الکرامة

”اے میرے دوستو! مجھ سے جو چاہتے ہو مانگو تم طویل مدت دشمنوں کی  
طرف سے اذیت اور تکلیف میں گرفتار رہے ہو، اور ذلیل ہوتے رہے ہو اور  
تمہارے خاص مذہب کی وجہ سے تم پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ آج مجھ سے دنیا  
اور آخرت کی حاجات میں سے جو مانگو گے میں اسے پورا کروں گا، پس ان  
کی خوراک اور پانی بہشت سے ہوگا خدا کی قسم یہ ایک بڑا عظیم مقام ہے“

(کامل الزیارات: ۲۵۸ حدیث ۳ باب ۵۰، بحار الانوار: ۱۶/۵۳۱ حدیث ۱۱۴۰ اور ۱۰/۶۵ حدیث ۵۳ المستدرک: ۱۰/۲۳۶)  
مؤلف فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ صورت حال عالم برزخ کے ساتھ مربوط ہو  
اور یہ کہ حدیث دنیاوی حاجات کا ذکر ہوا ہے یہ ان کی اپنی حاجات نہ ہوں بلکہ ان کے رشتہ  
داروں ہمسایوں اور مومنوں کی ہوں جو زندہ ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں۔

### عید کا روز

(۷/۳۱۲) بعض شیعہ کتب میں ام سلمہ سے نقل ہے:

آپ نے فرمایا: میں نے رسول خداؐ کو دیکھا کہ آپؐ نے اپنے نواسے حسینؑ کے  
بدن پر لبا لباس پہنایا، جو دنیاوی لباس نہ تھا۔ میں نے آنحضرتؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہ  
یہ کیسا لباس؟ آپؐ نے فرمایا:

هذه هدية اهداها الی ربی للحسین وان لحمتها من زغب جناح  
جبرائیل وها انا البسه اياها وازینه بها فان الیوم یوم الزینة وانی احبه  
”یہ میرے پروردگار کی طرف سے حسینؑ کے لئے تحفہ ہے، اس کا دھاگہ  
جبرائیل کے نرم پروں سے ہے، آج عید کا دن ہے میں یہ لباس اسے

پہناؤں گا اور اس لباس کے ساتھ اسے زینت دوں گا، بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں“ (بخاری الاوار: ۳۳/۲۷۱ حدیث ۳۸)

## پوشیدہ معرفت

(۸/۳۱۳) ایک مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

ان للحسین فی بواطن المومنین معرفة مكتومة

(الخروج: ۲/۸۴۲ حدیث ۶۰، بخاری الاوار: ۳۳/۲۷۱ حدیث ۳۹، معالی السطین: ۴۱)

”بے شک مومنوں کے دل میں حسینؑ کے لئے معرفت پوشیدہ ہے“

## حسینؑ چراغ ہدایت ہے

(۹/۳۱۴) شیخ صدوقؒ ”کتاب عیون اخبار الرضاؑ“ میں امام حسینؑ سے نقل کرتے ہیں:

میں رسول خداؐ کے پاس گیا، وہاں آپؐ کے پاس ابی بن کعب بھی تھا۔ رسولؐ خدا نے مجھ سے فرمایا:

مرحبا بک یا ابا عبد الله یا زین السماوات والارضین

”خوش آمدید یا ابا عبد اللہ! اے آسمان اور زمین کی زینت

ابی بن کعب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیسے ممکن ہے آپ کے علاوہ کوئی اور آسمانوں اور زمین کی زینت ہو؟ آپؐ نے فرمایا:-

یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین بن علیؑ فی السماء اکبر

منہ فی الارض والہ لمکتوب عن یمین عرش اللہ: حسین مصباح

ہدی و سفینة نجاة

”اے ابی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا،

بے شک حسینؑ کا مرتبہ زمین سے کہیں زیادہ آسمان پر ہے اور خدا کے عرش

کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے حسینؑ چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے“



(عیون اخبار الرضا: ۵۹/۱: حدیث ۲۹، بحار الانوار: ۱۸۳/۹۳: حدیث ۱، کمال الدین)  
 (۲۶۲/۱: حدیث ۱۱، اعلام الوری: ۳۰۰، منہ المجاز: ۵۱/۳: حدیث ۱۳۳)

## حسینؑ کی خوراک

(۱۰/۳۱۵) شیخ صدوق "علل الشرائع اور کلینی" کافی میں امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں:

كان رسول الله يأتى الحسين فى كل يوم فيضع لسانه فى فمه  
 فيمصه حتى يروى فانبت الله عز وجل لحمه من لحم رسول الله  
 ولم يرضع من فاطمة ولا من غيرها لبنا قط

"رسول خدا ہر روز حسینؑ کے پاس آتے اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ  
 میں رکھ دینے اور وہ چوستے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتے، اس طرح ان کا  
 گوشت رسول خدا کے گوشت سے بنتا ہے، انہوں نے فاطمہؑ یا کسی اور کا  
 ہرگز دودھ نہ پیا" (علل الشرائع: ۱۹۶/۱: بحار الانوار: ۲۳۵/۳۳: حدیث ۲۰، کافی: ۳۶۵/۱: حدیث ۲، المستطب: ۱۵۸)

ابن شہر آشوب کتاب مناقب میں کہتے ہیں۔ رسول خداؐ نے چالیس دن رات تک  
 یہ کام جاری رکھا، یہاں تک کہ امام حسینؑ رسول خدا کے گوشت سے پرورش پا گئے۔  
 (مناقب ابن شہر آشوب: ۱۵۸/۳)

## انداز تبلیغ

(۱۱/۳۱۶) اخلاقیات کی بعض کتب میں نقل ہے:

عصام بن معقل کہتا ہے: میں مدینہ گیا اور حسینؑ بن علیؑ کو دیکھا، آپ کے حسن و  
 ہیبت اور حرکات و سکنات نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، حسد کی وجہ سے میرے اندر جو ان کے  
 والد کے بارے میں بغض تھا میں نے ظاہر کیا اور ان سے کہا: ابو تراب کے بیٹے تم ہو؟ آپ  
 نے فرمایا: ہاں، جب انہوں نے جواب دیا تو میں نے جو کچھ مجھ سے ہو سکا ان کو اور ان کے

والد کو برا بھلا کہا اور گالیاں دیں (نعوذ باللہ من ذلک) امام حسینؑ نے محبت اور مہربانی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور فرمایا:-

اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (خُلِدِ الْعَقُو بِالْعَرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ ۝ وَأَمَّا یَنْزَغُنْكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اِنَّ الدِّیْنَ اتَّقُوا اِذَا مُسَّهُمْ طَالِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَدَكُّرٌ وَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَاِخْوَانُهُمْ یَمْلُؤُنَهُمْ لَمِیَ الْاَفْقِ ثُمَّ لَا یَقْصِرُونَ (سورہ اعراف: آیات ۱۹۹-۲۰۲)

”شیطان ملعون رحیم سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور خدا رحمن و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں، غنوغ و بخشش کو اپنا پیشہ بنالو، نیکی کا حکم دو، نادان لوگوں سے دور ہو جاؤ، اور جب شیطان تیرے اندر وسوسے ڈالنے لگے تو خدا کی پناہ طلب کرو۔ بے شک وہ سننے والا اور دانا ہے۔ اہل تقویٰ جب شیطانی خیالات اور وسوسوں سے دوچار ہوتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں پس فوراً آگاہ ہو جاتے ہیں اور شیاطین اپنے بھائیوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف کھینچ لیتے ہیں اور پھر ان کو گمراہ کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے“

ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے مجھے فرمایا: آہستہ رہو اور آرام و سکون کرو، میں اپنے اور تیرے لئے خدا سے معافی طلب کرتا ہوں، اگر مدد چاہتے ہو تو تمہاری مدد کروں گا اور اگر کوئی ہدیہ و تحفہ چاہتے ہو تو تجھے عطا کروں گا، اور اگر راہنمائی چاہتے ہو تو تمہاری راہنمائی کروں گا۔ عصام کہتا ہے۔ میں اپنی کبھی ہوئی بری باتوں پر بڑا پشیمان ہوا اور امامؑ نے جب میرے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے تو فرمایا:

لَا تَرْبِبْ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ

(سورہ یوسف: آیات ۹۲)

”آج کوئی ملامت اور سرزنش تم پر نہیں ہے خدا تم کو معاف کر دے گا وہ

بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔

اس کے بعد آپ نے مجھے فرمایا: کیا تم اہل شام سے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی: آپ نے فرمایا: (مسنشنة اعرفها من اخزم) یہ ایک ضرب المثل ہے۔ جو عرب میں ایسے لوگوں کے لئے بولی جاتی ہے جو بد اخلاق میں اپنے آباء واجداد پر گیا ہو لیکن یہاں پر امام کی مراد یہ ہے کہ یہ بد اخلاقی اہل شام کا شیوا ہے جیسے امیر شام معاویہؓ نے رواج دیا ہے۔

پھر امام حسینؑ نے فرمایا:

حیانا اللہ وایاک

”خدا ہمیں اور تجھے باقی رکھے“

اس کے بعد آپ نے فرمایا: بغیر کسی شرمندگی جو چاہتے ہو مانگو، اگر تم ہم سے مانگو تو تیرے وہم و گمان سے کہیں زیادہ تمہیں دیں گے۔ عصام کہتا ہے، زمین اپنی وسعت کے ساتھ مجھ پر تنگ ہو گئی اور میرا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، اب مجھ میں طاقت نہ تھی کہ وہاں ٹھہروں، تھوڑا تھوڑا ایک طرف ہو کر دور چلا گیا لیکن اس کے بعد زمین کے اوپر آپ اور آپ کے والد بزرگوار سے بڑھ کر کوئی محبوب تر نہ تھا۔

(سفینۃ البحار: ۲/۱۱۶، معالی السملین: ۶۰)

### عجائبات کا مجموعہ

(۱۲/۳۱۷) شیخ حسن بن سلیمانؒ جو آٹھویں ہجری کے علماء میں سے ہیں، اپنی کتاب بصائر

میں امام باقرؑ سے اور آپ اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

امام حسن علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ امام حسینؑ کے پاس آئے اور عرض کی۔ آپ

کے والد ہمیں معجزات اور عجائبات دیکھا یا کرتے تھے، کیا آپ بھی معجزات دیکھا

سکتے ہیں؟ امامؑ نے فرمایا: کیا تم میرے والد کو پہچانتے ہو؟

سب نے جواب دیا ہم سب ان کو پہچانتے ہیں، امامؑ نے کمرے کے ایک طرف



جو پردہ تھا اوپر اٹھایا اور فرمایا: اس کمرے کے اندر دیکھو سب نے دیکھ کر کہا:-

هذا امير المؤمنين ونشهد انك خليفة لله

”یہ تو امیر المومنین ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں“

(الخراج: ۲/۸۱۱ حدیث ۲۰، مختصر البصائر: ۱۱۰، مدینۃ المعاریز: ۳/۷۵ حدیث ۳۹)

## وہ حسینؑ تھے

(۱۳/۳۱۸) محمد بن حسن مصنف کتاب ”بصائر الدرجات“ میں امام باقر سے نقل کرتے ہیں:

میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ زمینوں کی طرف نکلا، جیسے ہی ہم صحرائیں پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی آپ کے سامنے آ گیا، حضرت اس کی طرف چلے، اس پر سلام کیا۔ میں نے سنا کہ میرے والد بزرگوار فرما رہے تھے۔ (بعلت فداک) میں آپ پر قربان جاؤں۔ پھر دونوں نے تھوڑی دیر گفتگو کی، اس کے بعد انہیں الوداع کیا وہ بوڑھا آدمی اٹھا اور وہاں سے چل پڑا، میرے والد بزرگوار اسے اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ میں نے والد سے عرض کیا: یہ بوڑھا شخص کون تھا جس کا آپ اپنی گفتگو میں بڑا احترام کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا: میرے بیٹے! وہ آپ کے دادا حسینؑ تھے۔

(بصائر الدرجات: ۲۸۳ حدیث ۱۸، مختصر: ۱۲، بحار الانوار: ۶/۲۳۱ حدیث ۳۲، الخراج: ۲/۸۱۹ حدیث ۳۰، مختصر البصائر: ۱۱)

اس واقعہ کی طرح ایک واقعہ حضرت موسیٰ ابن جعفر سے نقل ہوا ہے:

میں اپنے باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، راستے میں ایک بوڑھے شخص نے آپ کے ساتھ ملاقات کی، میں نے جب سوال کیا کہ یہ بوڑھا شخص کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا: یہ

میرے والد بزرگوار تھے۔ (بصائر الدرجات: ۲۷۴ حدیث ۳، الخراج: ۲/۸۱۷ حدیث ۲۷)

## قرض کس سے لیں؟

(۱۳/۳۱۹) شیخ فقیہ ابو محمد حسن بن علی بن شعبہ صاحب کتاب ”تحف العقول“ میں نقل

کرتے ہیں۔

انصار میں سے ایک مرد امام حسینؑ کی خدمت میں آیا اور وہ حضرت سے کوئی درخواست کرنا چاہتا تھا۔ امامؑ نے اس سے فرمایا:-

یا اخا الانصار صن وجهک عن بذلة المسالة وارفع حاجتک فی  
رقعة وات بها ماسرک انشاء الله

”اے انصاری بھائی! اپنی عزت کو اظہار احتیاج کی برائی سے محفوظ کرو اور  
اپنی حاجت کو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر میرے پاس لے آؤ، انشاء اللہ  
میں تجھے خوش کر دوں گا“

اس مرد نے کاغذ پر لکھا: یا ابا عبد اللہ! میں نے فلاں شخص کو پانچ سو دینار قرض  
واپس کرنا ہے، وہ شخص مجھ پر بڑا دباؤ ڈال رہا ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے، میری آپ سے  
درخواست ہے کہ آپ مجھے مہلت لے دیں تاکہ میں آسانی سے اس کا قرض لٹا سکوں۔ جیسے  
ہی امامؑ نے اس کی درخواست کو پڑھا تو اٹھے اور گھر چلے گئے اور وہاں سے ایک تھیلی اٹھائی  
جس میں ہزار دینار تھے لاکر اس شخص کو دی اور فرمایا: پانچ سو دینار اس شخص کا قرضہ دے دو،  
اور باقی پانچ سو اپنے پاس سنبھال رکھو۔ مشکلات کے وقت تیرے کام آئیں گے اور یاد رکھو  
کبھی بھی اپنی حاجت ان اشخاص کے علاوہ کسی سے طلب نہ کرنا۔

الی ذی دین او مروءة او حسب

”وہ شخص یا تو دین دار ہو یا بامروت ہو اور یا خاندانی شرافت رکھتا ہو“

(صحیح المصنوع: ۲۳۵، بحار الانوار: ۷۸/۱۱۸)

مؤلف فرماتے ہیں۔ یا ابا عبد اللہ! میں بھی اپنی دنیاوی اور اخروی مشکلات اور سختیوں  
میں آپ سے اور آپ کے فضل و کرم کے سمندر سے مدد طلب کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیندار  
بلکہ دین کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ اور جو ان مردی و شرافت بھی آپ کے وجود مبارک پر نازاں ہے۔  
امامؑ نے حاجت مند کو یہ جو فرمایا کہ اپنی حاجت کو لکھ کر لے آؤ، یہ آپ نے اپنے  
والد بزرگوار حضرت امیر المومنینؑ کی اقتداء کی ہے۔ کیونکہ روایت میں آیا ہے ایک شخص امیر

المومنین کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کی، میری ایک حاجت ہے، آپ نے فرمایا: اپنی حاجت کو زمین پر لکھ، دو کیونکہ میں واضح طور پر تیرے چہرے میں بچاؤ کی اور محتاجی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اس نے زمین پر لکھا سچ ہے کہ میں فقیر اور محتاج ہوں۔

حضرت علیؑ نے قہر سے فرمایا: اسے دو لمبی پوشاکیں پہنا دو۔

اس مرد نے اشعار پڑھتے ہوا کہا:

☆ آپ نے مجھے ایسا لباس پہنایا ہے جس کی خوبصورتی ماند پڑ سکتی ہے، لیکن میں آپ کو خوبصورت مدح و ثناء کا لباس پہناتا ہوں۔

☆ اگر آپ نے میری اچھی ثناء کو حاصل کر لیا تو آپ نے سرمایہ فضیلت حاصل کر لیا۔ اور اس کی جگہ کسی دوسری چیز کو طلب نہ کرو گے۔

☆ مدح و تعریف صاحب مدح کو زندہ رکھتی ہے۔ ایسے جیسے بارش پہاڑوں اور صحرا کو اپنی رطوبت سے زندہ رکھتی ہے۔

☆ جو نیکی آپ نے کی ہے زمانہ اسے حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔

ان اشعار کے پڑھنے کے بعد امیر المومنین علیؑ نے حکم دیا کہ اسے سودینار اور دس دو، آنحضرت سے عرض کیا گیا کہ یا امیر المومنین! آپ نے تو اسے بے نیاز کر دیا ہے۔

حضرت نے فرمایا: میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

النزلوا الناس منازلہم

”لوگوں میں سے ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبہ پر قرار دو (یعنی جیسی کسی کی

شخصیت ہو ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آؤ“

پھر آپ نے فرمایا: واقعاً میں تعجب کرتا ہوں ان اشخاص سے جو غلام مردوں کو اپنے مال و دولت کے ساتھ خرید لیتے ہیں، لیکن آزاد لوگوں کو اپنے نیک کام کے ساتھ نہیں خریدتے۔

(امالی صدوق: ۳۳۷ حدیث ۱۲ مجلس ۴۶، بحار الانوار: ۳۱/۳۳۲ حدیث ۷ اور ۷/۳۰۷ حدیث ۲)



## حسینؑ کی پشت پر ایک داغ

(۱۵/۳۲۰) روایت ہوئی ہے کہ عاشور کے دن آنحضرت کی پشت پر ایک اثر دیکھا گیا تو

حضرت امام زین العابدینؑ سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا:

هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره الى منازل الابرار والملوك  
والمساكين

”یہ ان بوریوں کا ہے جو آپ اپنی پشت پر لاد کر بیوہ یتیموں اور مسکین لوگوں

کے گھروں تک پہنچاتے تھے“ (مناقب ابن شراشوب ۶۶/۳، بحار الانوار ۱۹۰/۳۳ حدیث ۳)

## ہیبت سادات

(۱۶/۳۲۱) سید شریف محمد بن علی علوی کتاب ”تغازی“ میں نقل کرتے ہیں کہ امام حسنؑ

اپنے بھائی امام حسینؑ کا بڑا احترام کرتے تھے اور آپ کی ایسے تعظیم کرتے جیسے وہ

امام حسنؑ سے بڑے ہوں۔ ابن عباس کہتا ہے: میں نے امام حسنؑ سے اس کی وجہ

پوچھی تو آپ نے فرمایا:

انی لا هابة كهيبة امير المؤمنين

”اس کی ہیبت میری نظر میں امیر المؤمنین کی سی ہے“

(معالی السطین: ۵۹، سفیۃ البحار: ۱/۶۱۳)

## حسینؑ بہشتی دروازہ

(۱۷/۳۲۲) پیغمبر اکرمؐ کے فضائل میں سے حدیث نمبر چونتیس جو گذر چکی ہے اس میں

آپؐ نے فرمایا:

الا وان الحسين باب من ابواب الجنة من عانده حرم الله عليه ریح الجنة

”آگاہ رہو۔ حسینؑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو کوئی بھی

حسینؑ کے ساتھ دشمنی کرے گا خدا بہشت کی خوشبو اس پر حرام کر دے گا“

(ماہنامہ: مکتبہ: ۲۲)

## نواسہ رسول

(۱۸/۳۲۳) سید ہاشم بحرانیؒ کتاب مدینۃ المعاجز میں کہتے ہیں۔ آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ باقی نہ رہا جو رسولؐ خدا کی خدمت میں شرفیاب نہ ہوا ہو اور ان کے نواسے حسینؑ کے متعلق اظہار تعزیت نہ کیا ہو۔ اور اس تقرب اور اجر و ثواب کی خبر دی جو خدا روز قیامت ان کو عطا کرے گا اور اسی طرح حضرت کے زائر اور آپؐ پر گریہ کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملے گا آپؐ کو بتایا ان تمام چیزوں کے باوجود رسولؐ خدا فرمایا کرتے تھے۔

اللهم اخلد من خذله والقتل من قتله ولا تمتعه بما امله في الدنيا  
واصله حرنارک فی الاخرة

”خداوند! جو حسینؑ کو ذلیل کرے تو اسے ذلیل کر، جو حسینؑ کو قتل کرے  
تو اس کو قتل کر اور اسے دنیا میں اس کی آرزو تک نہ پہنچا اور آخرت میں اسے  
اپنی جلانے والی آگ کے ذریعے سے عذاب دے“

(مدینۃ المعاجز: ۳/۳۳۸ حدیث ۹، منتخب طریقی: ۶۳، مقتل خوارزمی: ۱/۱۶۲)

## گلے کے بوسے

(۱۹/۳۲۳) طاؤس یمانی نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسینؑ کسی تاریک مکان میں بیٹھتے تو آپؑ کی پیشانی اور گردن سے نور چمکتا تھا، لوگ اسے دیکھ کر حضرت کی طرف جانے کا راستہ تلاش کرتے تھے اور وہ نور پیغمبر اکرمؐ کے بوسہ دینے کے مقام سے چمکتا، کیونکہ آپؑ بہت زیادہ حسینؑ کی پیشانی اور گلے کو چومتے تھے۔ جبرائیل ایک دن گھر میں آیا اور دیکھا، حضرت زہراءؑ آرام کر رہی ہیں اور حسینؑ گہوارے میں رو رہے ہیں، جبرائیل گہوارے کے پاس بیٹھ گئے، اور بڑی پیاری آواز کے ساتھ جھوٹا

جھولانے لگ گئے، حسین چپ ہو گئے، اس کے بعد فاطمہ بھی بیدار ہو گئیں۔

(سفیرہ طریقی: ۱۹۸/ بخارا الاوار: ۳۳/ ۱۸۷ حدیث ۱۶، مناقب ابن شہر آشوب: ۷۵/۳)

مؤلف فرماتے ہیں کہ امام حسینؑ کی زوجہ رباب نے بھی اپنے مرثیہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت رباب اپنے مرثیہ میں فرماتی ہیں۔

ان الذی کان لورا یستضاء بہ بکر بلا قتیل غیر مدفون

(سفیرہ البخاری: ۱۱۳/۱، معالی السطین: ۵۹، منتخب طریقی: ۱۹۸)

”بے شک وہ جس سے نور چمکتا تھا کر بلا میں قتل ہو گیا اور ان کا جسم اطہر  
زمین پر دفن کئے بغیر پڑا ہے“

## زائرین کے لیے دعا

(۲۰/۳۲۵) معاویہ بن وہب سے نقل ہوا ہے کہ امام صادقؑ، حضرت امام حسینؑ کے  
زائرین کے لئے یوں دعا کرتے تھے۔

اللهم یا من خصنا بالکرامات و وعدنا الشفاعة و حملنا الرسالة  
وجعلنا وریثة الانبیاء و ختم بنا الامم السالفة و خصنا بالصیبة و اعطانا  
علم ما مضی و علم ما بقی و جعل الفتنة من الناس تهوی الینا. اغفر لی  
ولاخوانی و لزوار قبر الحسین بن علی صلوات الله علیهما.

”اے پروردگار! اے وہ ذات جس نے ہمیں کرامت سے نوازا، ہمیں  
شفاعت کا وعدہ دیا، رسالت کو ہمارے کندھوں پر رکھا، ہمیں انبیاء کا وارث بنایا،  
گذشتہ اور آئندہ کا علم عطا کیا۔ اور بعض لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ  
اور مائل کیا۔ مجھے، میرے بھائیوں اور امام حسینؑ کی قبر کے زائرین کو معاف  
فرما۔ اور جنہوں نے اپنے اموال کو اپنے راستے کا خرچ قرار دیا، اپنے جسموں کو  
سفر کی مشکلات میں ڈال دیا۔ اور انہوں نے ایسا اس لئے کیا ہے کہ وہ ہمارے  
ساتھ نیکی کرنے کو پسند کرتے تھے۔ جو احسان انہوں نے ہم پر کیا اس کے



عوض وہ تیرے لطف اور مہربانی کے امیدوار ہیں، یہ کام انہوں نے تیرے پیغمبرؐ کو خوش کرنے کے لئے کیا اور ہمارے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے، جواب دیا ہے، تاکہ ہمارے دشمنوں کو خشم و غضب میں مبتلا کریں۔“

خدایا! وہ اس عمل کے ذریعے تیری خوشنودی چاہتے ہیں، لہذا ان کو ہماری طرف سے اور اپنی طرف سے رضا اور خوشنودی سے نوازا اور اجر عظیم عطا فرمایا، دن رات ان کی حفاظت فرما، انہوں نے جو اہل و عیال چھوڑے ہیں ان کے لئے ان کا جانشین بن اور ان کا ساتھ دے، ان کو اپنی مخلوق میں سے ہر طاقتور اور کمزور و ظالم و سرکش کے شر سے بچا۔ جنوں اور انسانوں میں سے شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، ان کو اس سے بہتر عطا کر جو وہ تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پردیس کو پسند کیا ہے اور امام حسینؑ کی قبر مطہر پر رہنے کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے پر ترجیح دی ہے۔ اے پروردگار! ہمارے دشمن ان کے اس طرح زیارت کے لئے آنے کو عیب اور برا سمجھتے ہیں، لیکن دشمنوں کی سرزنش ان کو ہماری طرف آنے سے روک نہ سکی، تاکہ وہ ہمارے دشمنوں کی مخالفت کر سکیں۔

پس خدا وندا! ان چہروں پر رحم فرما، جو ان کی وجہ سے تبدیل ہو گئے ہیں۔

اور ان زائرین پر رحم فرما جو ابا عبد اللہ الحسینؑ کی قبر مطہر پر گرد آلود چہروں سے حاضر ہیں اور ان آنکھوں پر رحم فرما، جنہوں نے ہماری دسوزی پر آنسو بہائے اور ان دلوں پر رحم فرما جو ہماری خاطر بے تاب اور پریشان ہیں اور آگ میں جل رہے ہیں، اور ان فریادوں پر رحم فرما جو تہہ دل سے ہماری خاطر نکلتی ہیں۔

خدایا! ان جانوں اور بدنوں کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر پیاس کے وقت ان کو سیراب کرے۔ پس حضرت نے اس دعا کو سجدے میں متواتر پڑھا، جب آپ کا سجدہ اور دعا مکمل ہوئی تو میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، یہ جو میں نے آپ سے سنا ہے اگر ایسے شخص کے حق میں ہوتا جو خدا کی معرفت نہیں رکھتا، تو میرے گمان میں آگ اس کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتی، خدا کی قسم میں نے یہ آرزو کی ہے کہ کاش میں

امام حسینؑ کی زیارت کو گیا ہوتا بجائے حج پر جانے کے۔ امام نے مجھ سے فرمایا: تو اس قبر مطہر کے کتنا قریب ہے، کون سی چیز تیرے لئے زیارت پر جانے سے مانع ہے؟  
پھر آپ نے فرمایا: اے معاویہ (بن وہب) اس کام کو ہرگز ترک نہ کرو۔  
میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں مجھے معلوم نہ تھا کہ زیارت امام حسینؑ اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ امام نے فرمایا:

یا معاویۃ ومن یدعو لزوارہ فی السماء اکثر ممن یدعو لہم فی الارض لا تدعہ لخوف احد لمن ترکہ لخوف رای من الحسرة ما یتمنی ان قبرہ کان بیدہ

”اے معاویہ زمین پر امام حسینؑ کے زائرین کی نسبت آسمان میں زائر بننے کی تمنا کرنے والے کہیں زیادہ ہیں کسی صورت میں خوف کی وجہ سے زیارت کو ترک نہ کر۔ جو کوئی خوف کی وجہ سے زیارت کو ترک کرے گا تو بعد میں حسرت اور ندامت میں ہوگا، اور آرزو کرے گا کہ کاش میں ہمیشہ اس قبر مبارک کے پاس ہوتا“

کیا تو پسند نہیں کرتا کہ ایسے لوگوں کے درمیان ہو، جن کے لئے پیغمبر اکرمؐ امیر المومنین فاطمہؑ اور آئمہؑ دعا کرتے ہیں؟ کیا تو پسند نہیں کرتا کہ ان میں سے ہو جن کے ساتھ قیامت کے دن فرشتے مصافحہ کریں گے؟

کیا تو پسند نہیں کرتا کہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ قیامت کے دن رسول خداؐ مصافحہ کریں گے۔

(ثواب الاعمال: ۹۵، کامل التزیارات: ۲۲۸، حدیث ۳۳۶، بحار الانوار: ۱۰۱/۵۱، حدیث ۱، المسند رک: ۲۳۲/۱۰)

(۲۱/۳۲۶) خطیب بغدادی اپنی کتاب ”تاریخ بغداد“ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں:

میں رسول خدا کی خدمت میں تھا، آپؐ نے اپنے بیٹے ابراہیمؑ کو اپنے بائیں زانو پر اور حسینؑ بن علیؑ کو دائیں زانو پر بٹھایا ہوا تھا، کبھی ابراہیمؑ کو بوسہ دیتے اور کبھی حسینؑ کو،

اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے جو خدا کی وحی لے کر آیا تھا۔ جب خدا کا پیغام اس کے رسولؐ تک پہنچا دیا، تو وہاں سے چلا گیا۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: جبرائیل خدا کی طرف سے آیا اور مجھے خبر دی کہ خدا آپؐ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے: یہ دو بچے جو آپؐ نے اپنے زانو پر بٹھائے ہوئے ہیں ان دونوں کو باقی نہیں رکھوں گا ان دو میں سے ایک کو دوسرے پر قربان کرنا پڑے گا۔ رسولؐ خدا ابراہیمؑ کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور جب حسینؑ کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ آپؐ نے فرمایا:

ان ابراہیم امہ امة ومتی مات لم يحزن عليه غیری وام الحسن  
فاطمه وابوه علی ابن عمی لحمی دمی ومتی مات حزنتم ابنتی  
وحزن ابن عمی وحزنتم انا علیه وانا اوثر حزنی علی حزنهما یا  
جبرائیل تقبض ابراہیم فقد فدیته الحسین به

”ابراہیم کی ماں ایک کنیز ہے، جب وہ مرے گا تو میرے علاوہ کوئی اس پر غمگین نہ ہوگا، لیکن حسینؑ کی ماں فاطمہؑ ہے اور باپ علیؑ میرا چچا زاد ہے جو میرا گوشت اور خون ہے، جب حسینؑ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی ماں اور اس کا باپ اس پر غمگین ہوگا میں اس پر غمگین ہوں گا، اور میرا غم ان دو کے غم سے زیادہ ہوگا، اے جبرائیل! ابراہیمؑ کو مجھ سے لے لو، میں نے اسے اپنے حسینؑ پر نثار کیا، تین دن کے بعد ابراہیمؑ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد جب بھی حسینؑ آپؐ کی طرف آئے تو آپؐ انہیں اپنی گود میں بٹھاتے اور چومتے۔ ان کے لبوں، گلے اور دانتوں کو چومتے اور فرماتے۔“

فدیته من قدیته یا بنی ابراہیم

”میں اس پر قربان جس کے لئے میں نے اپنے بیٹے ابراہیمؑ کو قربان کیا۔“

(۲۲/۳۲۷) اہل سنت کے عالم ترمذی اور علامہ مجلسیؒ، یعلیٰ بن مرہ سے نقل کرتے ہیں کہ

رسول خدا نے فرمایا:



حسین منی وانا من الحسین احب الله من احب حسینا حسین  
سبط من الاسباط

”حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، خدا سے دوست رکھتا ہے جو حسین کو  
دوست رکھتا ہے حسین میرا نواسہ ہے” یا حسین از لحاظ عظمت ایک امت ہے

(فردوس الاخبار: ۲/۱۵۸ حدیث ۲۸۰۵، حلیۃ الابرار: ۳/۱۲۷ حدیث ۱۷، مساجد النبی: ۳/۱۹۵ حدیث ۳۸۳۳ مطالی  
السطین: ۵۶)

مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ ”میں حسین  
سے ہوں“ ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ میں اور حسین ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں اور ممکن  
ہے دوسرا لطیف معنی مراد لیا گیا ہو، جس کی طرف بعد والی حدیث اشارہ کرتی ہے۔



